

فاتح اعظم
شہزادہ
حضرت عمر بن عبد
العاصم

مؤلف:۔۔ محمد فرج مصری

مترجم:۔۔ شیخ محمد چیرانی پتی

فَتْحُ الْعِزْمِ

حضرت عمر بن العاص رضی

اس الوالعزم اور بہادر سپہ سالار کی مفصل اور مکمل
سوانح حیات، جس نے صرف چار ہزار قلیل فوج کے ساتھ مصر
جیسے عظیم ملک پر حملہ کر کے فتح کیا اور پھر نہایت شان و
شوکت کے ساتھ اس پر حکومت کی، اور جو عرب کا بہترین مدبر
بہترین سیاستدان اور بہترین جنرل تھا۔

مترجم
شیخ محمد احمد پانی پتی

مؤلف
محمد فرج مصری

نَفِيسُ كَيْدِي

بلاس اس اسٹریٹ، کراچی

قیمت: - بارہ روپے

جُمْلہ حُقوقِ طَبَاعَتِ وَاِشَاعَتِ ذَاتِہِی

بِحَقِّ چَوہِدْرِی مُحَمَّدِ اَقْبَالِ سَلِیْمِ گَاہِنْدَرِی
مَالِک

فِیْسِ اِکِیڈِیہِی وِمْسَعُوْرِ پِبِلْشَنِگِ ہَاؤُس

بِلَاسِیْسِ اِسٹریٹِ کِراچی

مَحْفُوْظِ ہِیْنِ

طَبَعِ اَوَّلِ: ————— نوْمِبَرِ ۱۹۶۲ء

بَاہْتِمَامِ مُحَمَّدِ رَشِیْدِ مَنِیْجِرِ فِیْسِ اِکِیڈِیہِی ، اِیْجِوْکِیْشَنِلِ پْرِیْسِ
کِراچی مِیْنِ طَبَعِ ہِیْنِ

کتاب ہذا اور اس کا مصنف

مصنف کے عظیم الشان فاتح اور حضور اکرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمرو بن العاص کی عربی اندازہ اردو میں مستعد و مختصر اور طویل سوانح عمریوں لکھی جا چکی ہیں۔ اگر یہ عربی کتاب جس کا اردو ترجمہ تادمین کرام کی خدمت میں آج پیش کیا جا رہا ہے اس سلسلے سے خصوصیت رکھتا ہے کہ وہ اس بزرگ صحابی کی تمام شائع شدہ سوانح عمریوں میں سب سے زیادہ مدلل اور سب سے زیادہ مفصل ہے۔ آج تک اس "فاتح اعظم" کی اس سے بہتر سوانح عمری نہیں لکھی گئی۔ اس بے نظیر کتاب کا مصنف مصر کا مشہور دانشور دانشور اور مورخ محمد فرج ہے۔ جس نے یہ محققانہ تالیف عرصہ دراز کی تلاش و تحقیق کے بعد سپاس عربی، انگریزی اور فرانسیسی کتب سے اخذ و انتخاب کر کے مرتب کی ہے۔ کتاب بڑی تقطیع کے ۲۱۴ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ مصر کے دو بڑے فاضل حضرات احمد نجیب ہاشم وزیر تعلیم متحدہ عرب جمہوریہ اور احمد الشرباصی نے اس کے پیش لفظ اور دیباچے لکھے ہیں۔ مؤلف نے کتاب کو مصر کے آمر مطلق جمال عبدالناصر کے نام موصول کیا ہے۔ اور کتاب کا نام عمرو بن العاص "رکھا ہے۔ اس سے پہلے ۱۹۶۹ء میں "دار الفکر عربی" نے بڑے اہتمام اور نفاسات کے ساتھ قاہرہ سے شائع کیا۔ محمد فرج کی مصنفہ دیگر کتب کی فہرست یہ ہے۔

- (۱) الجبقریۃ العسکریۃ فی غزوات الرسول (۱) سیفنا للہ خالد (۲) اسلام والحرب کی لاسلام (۳) جبابرہ حرب
- (۴) محمد الحارث (۵) نہایتہ طاغیہ (۶) الاشراعات (۷) نقتہ الجلاء (۸) بطولتہ و فذلہ (۹) حذہ الحیاء (۱۰) قلب محمد
- (۱۱) احادیث فی الحرب (۱۲) تاوۃ الحرب العرب فی العراق و الشام (۱۳) تاوۃ الحرب العرب فی مصر و شمالی افریقیا۔

حضرت عمرو بن العاص کی سوانح عمریاں

(میرے علم کے مطابق حضرت عمرو بن العاص کی عربی اور اردو میں اب تک کسی نے سوانح عمریاں لکھی ہیں)

۱۔ عربی

- | | |
|---------------------------|--|
| ۱۔ ابن العاص | از عباس محمود العقاد |
| ۲۔ تالیف عمرو بن العاص | از ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن ایم ایس پی ایچ ڈی |
| ۳۔ عمرو بن العاص فاتح مصر | از عبدالسلام المشرقی |
| ۴۔ عمرو بن العاص | از محمد فرج |

۲۔ اردو

- | | |
|----------------------------|--|
| ۱۔ حیات عمرو بن العاص | از مولوی سید وحید الدین سلیم پانی پتی |
| ۲۔ سیرۃ عمرو بن العاص | از مولانا محمد اسلم جیراج پوری |
| ۳۔ فاتح مصر | از شیخ محمود احمد عرفانی |
| ۴۔ عمرو بن العاص | تالیف حسن ابراہیم حسن ترجمہ شیخ محمد احمد پانی پتی |
| ۵۔ فاتح اعظم عمرو بن العاص | تالیف محمد فرج ترجمہ شیخ محمد احمد پانی پتی |

شجرہ کتاب فاتح اعظم

عمرو بن العاص

باب الاول	باب الثانی	باب الثالث	باب الرابع
اجاپت سے اسلام تک	عمرو میدان جناد میں	(عمرو مع الخلفاء)	(عمرو بحیثیت آدمیاست)
۱۔ زمانہ جاپت میں	جنگ ذات السلاسل	مع ابی بکرؓ	معنی قیادت
۲۔ آغوش اسلام میں	حروب الردۃ	مع عمر فاروقؓ	ایمان و یقین
	جنگ ثانیہ شام و فلسطین	مع عثمانؓ و انورینؓ	قائد کی شخصیت
	فتح مصر	مع علیؓ ابن ابی طالب	لشکر کا انتظام
	فتوحات برتہ و طرابلس	مع سعید بن ابی سفیان	عمرو بن العاص کی بساط سیاست
	عمرو بن العاص کے اصول جنگ		

فہرست مضامین فاتح اعظم عمرو بن العاص

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۱	۱۔ سفر حبشہ		
۵۲	۲۔ سفر مصر	۱۹	مترجم کتاب تہذیب و تمدن پانی پتی
۵۵	عمرو بن العاص اور اسلام	۲۱	پیش لفظ راز احمد نجیب ہاشمی وزیر تعلیم عربیہ
۶۵	۳۔ زمانہ اسلام	۲۳	کچھ کتاب ہذا کے متعلق (رازا احمد الشرباصی)
۷۰	عرب اور اسلام		مقدمہ مولف (رازا محمد فرج)
۷۰	اسلام کے متعلق عمرو بن العاص کا موقف		
۷۲	عمرو بن العاص حبشہ میں		باب اول
۷۳	عمرو بن العاص کا قبول اسلام	۳۳	عمرو بن العاص بحالت کفر سے قبول اسلام تک
۸۱	انہدام سوادخ	۳۴	۱۔ زمانہ جاہلیت اور حالت کفر
۸۲	عمرو بن العاص مملکت عمان میں	۳۵	قبیلہ و خاندان
۸۴	عمرو بن العاص کی جیفر سے بات چیت	۳۶	سلسلہ نسب
۸۸	دونوں بھائیوں کا قبول اسلام	۳۶	والد و عاص بن وائل
۸۸	زکوٰۃ کی تحصیل	۳۱	والدہ سلمیٰ بنت حرط
		۳۴	ولادت
		۳۵	عہد شباب
۹۱	باب دوم		
۹۱	عمرو بن العاص میدان جنگ میں	۳۶	فضاحت و بلاغت اور حکمت حکمت امیر
۹۲	۱۔ جنگ ذات السلاسل	۳۷	حلیہ
۹۴	عمرو بن العاص کی طرف سے ملک کی درخواست	۳۸	عادات و خدائیں
۹۴	سلاطین کی قیادت	۵۰	شغل تجارت
۹۶	جنگ	۵۱	عمرو بن العاص کے سفر

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۱۸	۷۔ لشکر کی حفاظت کا خاص طور پر انتظام کرنا چاہیے		جنگی اصول جو جنگ ذات اسلحہ کے موقع پر اختیار کیے گئے۔
۱۱۹	۸۔ قائد کو دشمن کے تمام حالات کا علم ہونا چاہیے		۲۔ جنگ ہائے مرتدین
۱۱۹	۹۔ اسلام کی راہ میں اپنی جان کی کوئی قیمت نہیں سمجھنی چاہیے۔ اور شہادت کا جذبہ ہر وقت دل میں موجود رہنا چاہیے۔	۱۰۴	فقہ ازندانہ
	۱۱۔ عمرو بن العاص فلسطین میں فلسطین کی جانب کوچ	۱۰۵	عمرو بن العاص کی گفتگو فرہ بن ہیر سے
۱۱۹	۱۲۔ رومیوں سے مسلمانوں کی پہلی مذبحگیر	۱۰۸	شام اور فلسطین کی جنگیں
۱۱۹	۱۳۔ رومیوں سے مسلمانوں کی دوسری جنگ	۱۱۰	عراق میں مسلمانوں کی پیش قدمی
۱۲۰	۱۴۔ عمرو بن العاص یروشلم میں	۱۱۱	شام کی جانب حضرت ابو بکر صدیق کی توجہ
۱۲۱	۱۵۔ عمرو بن العاص دمشق میں	۱۱۲	شام بھیجنے کے لیے چار لشکروں کی تشکیل
۱۲۴	۱۶۔ عمرو بن العاص اجنادین میں	۱۱۳	حضرت ابو بکر صدیق کی نصائح عمرو بن العاص کو
۱۳۰	قیساریہ کی فتح	۱۱۴	حضرت ابو بکر صدیق کی نصائح کا تحریر یہ
۱۳۱	غزہ کا محاصرہ	۱۱۴	۱۔ راتوں کے دوران میں فوجوں کے سپہ سالاروں کے درمیان کامل تعاون ہونا چاہیے۔
۱۳۲	ارطھون سے مقابلے کی تیاری		۲۔ فوجی کمانڈروں کو آپس میں برابر صلاح و مشورے کرتے رہنا چاہیے۔
۱۳۳	عمرو بن العاص اور ارطھون کی باہمی گفتگو	۱۱۷	۳۔ دوران جنگ میں سپہ سالار کو اللہ کی مدد و نصرت پر کامل ایمان ہونا چاہیے۔
۱۳۵	عمرو بن العاص کی عسکری	۱۱۷	۴۔ فوجی کمانڈروں کو جنگ پر بھیجنے سے پہلے ان کی صلاحیتوں کا پورا اندازہ کر لینا چاہیے۔
۱۳۷	فتح اجنادین		۵۔ سپہ سالار اور لشکر کے درمیان گہرا تعلق اور مضبوط رابطہ قائم رہنا چاہیے۔
۱۳۸	فتح بیت المقدس	۱۱۸	۶۔ قائد کو اپنا ٹیک ٹونہ فوج کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔
۱۳۹	قسطنطین بن قزل کا فرار اور قیساریہ کی فتح		
۱۴۵	جنگ ہائے شام و فلسطین میں حضرت عمرو بن العاص کی کامیابی کے اسباب		
۱۵۰	شام و فلسطین سے وہی تعداد کا خاتمہ	۱۱۸	


صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۸۴	۲۔ جنگِ اُمّ ذُنین	۱۵۱	فتحِ مصر
۱۸۴	جنگ کی تیاری	۱۵۲	فوج کشی سے پہلے
۱۸۵	حضرت عمرو بن العاص کی تدابیر	۱۵۳	۱۔ دولتِ اسلام کے بارے میں فارسیوں کا رویہ
۱۸۶	۴۔ فیوم کی طرف پیش قدمی	۱۵۴	۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں
۱۸۸	۱۔ اداوی فوج کی آمد۔	۱۵۶	۲۔ حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں
۱۸۹	۵۔ معرکہ بلید پولیس	۱۵۸	۳۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں
۱۸۹	بلید پولیس کی تاریخ	۱۵۹	۱۲۔ مصر میں مذہبی ظلم و ستم
۱۹۰	۱۔ اداوی فوج	۱۶۵	۱۳۔ مصر پر فوج کشی کا ارادہ
۱۹۱	حضرت زبیر بن عوام کی آمد	۱۶۶	۱۴۔ عرب اور مصر کے باہمی تعلقات
۱۹۲	جنگی تیاری	۱۶۶	۱۔ تجارتی تعلقات
۱۹۲	دشمن کے مقابلے میں جنگی تدابیر	۱۶۷	۲۔ سیاسی تعلقات
۱۹۵	آغازِ جنگ اور رومیوں کی شکست	۱۶۸	۳۔ مذہبی تعلقات
۱۹۵	جنگ کے بعد پیش آنے والے واقعات	۱۶۹	۲۔ فتوحاتِ مصر کا پہلا مرحلہ
۱۹۶	مصر کی ابتدائی جنگوں سے اخذ کردہ بعض اہم امور	۱۷۰	۱۔ جنگِ الفِرمَا
۱۹۶	دشمن کے مقابلے میں حضرت عمرو بن العاص کی تدبیر	۱۷۱	الفِرمَا کی جانب پیش قدمی
۱۹۶	۱۔ فوجوں کی فراہمی	۱۷۲	رومیوں کی تیاری
۱۹۸	۲۔ محاصرہ	۱۷۳	جنگ
۱۹۸	۳۔ دشمن کی سر زمین سے اقسیت	۱۷۴	جنگ میں رومیوں کا طریق کار
۲۰۰	۴۔ ناکہانی حملہ	۱۷۵	جنگِ الفِرمَا کے نتائج
۲۰۱	۵۔ لڑائی میں پہل	۱۷۶	الفِرمَا کی فتح کے بعد
۲۰۱	۶۔ نقل و حرکت میں بھرتی	۱۷۷	۴۔ جنگِ بلیدس
۲۰۲	۷۔ فوج کی سلامتی کا خیال	۱۷۸	بلیدس کی جانب پیش قدمی۔
۲۰۲	۸۔ عزم و استقلال	۱۷۹	عزیمت کی جانب سے صلح کی کوشش
۲۰۴	رومیوں کے موقف پر ایک نظر	۱۸۰	جنگ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۰	۹۔ شب خون اور سلامتی افواج	۲۰۶	وہ غلطیاں جن کے ردی ترکیب ہوئے
۲۳۱	۱۰۔ عمرو بن العاص کی ایک غلطی	۲۰۹	۳۔ فتح باطنیوں
۲۳۲	۱۱۔ اسکندریہ اور ساحلی علاقہ کی فتوحات	۲۱۰	۱۔ عام توقف
۲۳۲	عربی توقف	۲۱۱	۲۔ میدان جنگ کا جغرافیہ
۲۳۲	ردی توقف	۲۱۲	۳۔ ردی محاذ
۲۳۵	پیش قدمی	۲۱۳	۴۔ عربی محاذ
۲۳۵	طروش	۲۱۳	۵۔ قلعہ کا استحکام
۲۳۵	تقیہ	۲۱۳	۶۔ محاصرہ
۲۳۶	کوم شریک	۲۱۳	۷۔ صلح کی بات چیت
۲۳۶	کریون	۲۱۹	۸۔ ہمت
۲۳۹	فتح اسکندریہ	۲۲۰	۹۔ مقابلے
۲۳۹	اسکندریہ کی تاریخ	۲۲۲	۱۰۔ صلح مقدس
۲۴۱	محاذ جنگ	۲۲۳	۱۱۔ صلح کا خاتمہ
۲۴۲	فریقین کے آلات جنگ	۲۲۳	۱۲۔ ردیوں کے حملے
۲۴۲	محاذ کا جائزہ	۲۲۶	۱۳۔ سمندری جنگ
۲۴۳	نقشہ جنگ	۲۲۶	۱۴۔ واقعات سے اخذ کردہ نتائج
۲۴۳	مسلمانوں کا شہر میں داخلہ اور سپاہی	۲۲۶	۱۔ محاصرہ
۲۴۴	ایک عجیب واقعہ	۲۲۸	۲۔ قیادت
۲۴۴	اس واقعہ کے متعلق دوسری روایت	۲۲۸	۳۔ باطنی اسباب
۲۴۵	ایک اور جھڑپ	۲۲۸	۴۔ نصب العین کی حفاظت
۲۴۵	سر پہ عمرو	۲۲۸	۵۔ قبول صلح
۲۴۶	اسکندریہ کا اندرونی خلفشار	۲۲۹	۶۔ طبعی اسباب
۲۴۶	قرص کی دالسی	۲۲۹	۷۔ داخلی اسباب
۲۴۶	شہنشاہ روم	۲۲۹	۸۔ مذہب میدان جنگ میں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۷۷	۵۔ اخلاقی طاقت	۲۴۸	بابلیوں کی طرف
۲۷۸	۶۔ تدبیر ملکی (پالیسی)	۲۴۸	صلح
۲۸۰	اسکندریہ کی بازیابی	۲۵۰	کیا مصر بڑھتی ہوئی فتح کیا گیا؟
۲۸۱	اسکندریہ سے رومیوں کو دعوت	۲۵۱	صلح کے بعد:-
۲۸۱	شاہ روم کی رائے	۲۵۱	۱۔ خلیفۃ المسلمین کو خوش خبری
۲۸۲	حملہ	۲۵۳	۲۔ اعلان صلح
۲۸۲	عمرو بن العاص کی بجالی	۲۵۳	۳۔ تعمیر منسلاط
۲۸۵	عمرو بن العاص دوبارہ اسکندریہ میں	۲۵۵	۴۔ صلح تراجان
۲۸۵	نبیائین کا معاملہ	۲۵۶	۵۔ شیبی مصر
۲۸۷	۵۔ فتوحات بلاد افریقیہ و بلاد النوبہ	۲۵۷	۶۔ تنیس اور شفا
۲۸۸	۱۔ فتح برقہ	۲۵۹	۷۔ قیرس کی موت
۲۸۸	جنگ کی تیاری	۲۵۹	۸۔ ہدایت کا خانہ
۲۸۸	عقبہ کی مہم	۲۶۰	۹۔ نبیائین کی واپسی
۲۹۰	پیش قدمی	۲۶۲	۱۰۔ شہری آڑ دیال
۲۹۱	برقہ کب فتح ہوا	۲۶۳	۱۱۔ ملکیت زمین میں مساوات
۲۹۲	اہل برقہ	۲۶۳	۱۲۔ فوجی مصارف
۲۹۴	پیش قدمی	۲۶۴	۱۳۔ نظام محاصل
۲۹۶	۲۔ فتح طرابلس	۲۶۶	۱۴۔ عمرو بن عبدمنیل کی کہانی
۲۹۶	عمومی حالات	۲۶۸	۱۵۔ اسکندریہ کا کتب خانہ
۲۹۹	فتح سمات	۲۷۲	تسلیح ماخوذہ
۲۹۹	فتح بجدہ	۲۷۳	۱۔ نظم و ضبط
۳۰۰	شہر طرابلس	۲۷۴	۲۔ قائد کی شخصیت میدان جنگ میں
۳۰۱	محاصرہ طرابلس	۲۷۶	۳۔ حملہ
۳۰۲	ابن عبدالحکیم کی روایت	۲۷۷	۴۔ فوج کا بچاؤ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۳۸	۱۔ خلیفہ ابوبکر کے ساتھ	۳۰۴	فصیلی طرابلس کا انہدام
۳۴۲	۲۔ حضرت عمر بن الخطاب کے ساتھ	۳۰۵	۳۔ فتح شمالی افریقیہ
۳۴۴	عاص اور عمرؓ	۳۰۵	فتح صبرات
۳۴۶	مصر میں	۳۰۸	فتح شروسیں
۳۴۶	برقا اور طرابلس میں	۳۰۸	فتح ودان
۳۴۶	مصر کی اصلاح اور خوش حالی	۳۱۰	خلیفہ کی راست
۳۵۰	خراج کا تقبیہ	۳۱۱	عمرو کی واپسی
۳۵۹	۲۔ حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ	۳۱۲	نتائج ماخوذہ
۳۶۰	انتخاب عثمان	۳۱۲	۱۔ ملک اور فوج کی حفاظت
۳۶۱	حضرت عثمان اور عمرو بن العاص	۳۱۲	۲۔ اچانک حملہ اور رازداری
۳۶۲	معزولی کی تاریخ	۳۱۳	۳۔ علاقہ نوبہ کی فتح
۳۶۳	معزولی کے بعد	۳۱۵	۶۔ عمرو بن العاص کے اصول حرب
۳۶۳	عمرو کے ساتھ ایک بت	۳۱۸	۱۔ جاسوسی
۳۶۹	۴۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے ساتھ	۳۲۰	۶۔ بھرتی
۳۶۹	خلافت علی	۳۲۲	۲۔ چھاپہ
۳۶۹	مسائل کی تقسیم	۳۲۴	۴۔ حملہ
۳۶۲	عمرو کا موقف	۳۲۵	۵۔ محاصرہ
۳۶۷	مشورے	۳۲۶	۶۔ حفظ فوج
۳۶۷	عمر و تمام میں	۳۲۹	۷۔ باطنی قوت
۳۶۷	لین دین	۳۲۱	عمومی عوامل کی قسمیں
۳۶۹	صفین	۳۲۱	۱۔ نسیب العین کی حدیثت کا یقین
۳۸۰	صلح	۳۲۳	۲۔ اطاعت اور رازداری
۳۸۰	جنگ		باب سوم
۳۸۱	عمرو کی تدبیر	۳۳۶	عمرو بن العاص خلفاء کے ساتھ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۸۲	۶۔ محبت اور وفاداری	۳۸۲	دوق نذہ
۳۸۱	۸۔ کارپروازی	۳۸۳	ابوہریرہ اشعری
۳۸۳	۳۔ فوج کا انتظام	۳۸۵	دس فقرے
۳۸۵	۱۔ ضروریات فوج	۳۸۶	ذہرہ
۳۸۶	۲۔ فوج کی سلامتی	۳۸۶	تحکیم (تالش فیصلہ)
۳۸۸	۳۔ چھوٹے قائد	۳۸۹	عمرو کی بر شیباری
۳۸۹	۴۔ علقم بن حکیم	۳۹۳	۵۔ وفات تک
۳۸۹	مسروق العلی	۳۹۴	بارہ برس بعد
۳۸۹	ابوایوب المہدی	۳۹۴	سرکہ نشاۃ
۳۹۰	ب۔ خارج بن حذافہ	۳۹۵	بدسلوی
۳۹۰	ج۔ عباد بن صامت	۳۹۶	ایسے کوتیا
۳۹۰	د۔ زبیر بن العوام	۳۹۶	عمرو کی وفات
۳۹۱	۴۔ شریک	۳۹۹	مرنے کے بعد
۳۹۱	الک بن نائمہ		
۳۹۱	و۔ وردان		
۳۹۱	نہ۔ مسلم بن مخلد	۳۰۱	باب چہارم
۳۹۲	ح۔ عبداللہ بن حذافہ	۳۰۲	عمر و اور قیادت
۳۹۲	عمر بن وہب	۳۰۵	قیادت کے معنی
۳۹۲	عقبہ بن عامر	۳۰۸	۱۔ ایمان
۳۹۲	ط۔ عقبہ بن نافع	۳۱۲	۲۔ شخصیت
۳۹۲	ی۔ عبداللہ بن زبیر	۳۱۳	۱۔ بھروسہ
۳۹۲	ک۔ بسر بن ابی ارطام	۳۱۴	۲۔ مشکل پسندی
۳۹۲	۳۔ صامت اور نعم و فرامت	۳۱۴	۳۔ عملی نمونہ
۳۹۲	ماخذ کتاب	۳۱۶	۴۔ دور بینی
			۵۔ قوت فیصلہ
			۶۔ بے نفسی



ممتاز سیاستدان و عظیم القدر سپہ سالار

حضرت عمرو بن العاصؓ

(از محمد اقبال ریلیہ کا ہندری)

حضرت عمرو بن العاص اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کا تذکرہ کئے بغیر اسلام کی تاریخ مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اُن کا شمار اسلام کے صفِ اول کے سپہ سالاروں اور سیاست دانوں میں ہوتا ہے۔ کافی عرصہ اسلام کی مخالفت میں صرف کرنے کے بعد جب عرب کا یہ "عظیم ترین انسان" حلقہ گمبوش اسلام ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی عزت افزائی کرنے میں کوئی کسر اٹھانے کی اور غزواتِ ذات السلاسل کی قیادت اُن کے سپرد کی، حضرت عمرو بن العاص کی عظمت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمرؓ جیسے جلیل القدر صحابی بھی ان کی فوج میں شامل تھے۔ جنگ یرموک میں جب رومیوں کی افواج زہرہ قلیل تعداد مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کو تیار تھیں، عمرو بن العاص کی تدبیر سے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ مصر کی فتح کا خیال سب سے پہلے ان ہی کے ذہن میں آیا اور ان ہی کو اسلامی فوج کا سپہ سالار بنا کر اس عظیم مہم پر روانہ کیا گیا۔ پانچ سو سپاہیوں کی مدد سے مصر کا کونہ، کونہ فتح کر لینا ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ ہے جس پر امت مسلمہ جس قدر بھی فخر کرے کم ہے۔ جنگ صفین کے موقع پر جب کہ امیر معاویہؓ کی فوجیں شکست سے دوچار تھیں عمرو بن العاص ہی کے ذہن رسا میں وہ تدبیر آئی جس نے جنگ کا پانسہ پلٹ دیا۔ اسلام کی تبلیغ جس دل نشین انداز میں کرتے تھے وہ ان ہی کا حصہ تھا۔ غرض حضرت عمرو بن العاص مجمع الصفات انسان تھے۔ وہ بہت بڑے سپہ سالار تھے، بلند پایہ سیاست دان تھے اور ان سب سے بڑھ کر اسلام کے بے لوث

مبلغ تھے۔

مصر کے ایک فاضل محمد فرج نے حال ہی میں ان کی سوانح مرتب کی ہے جس میں ان تمام کارناموں کا تفصیلی بیان ہے۔ جو حضرت عمرو بن العاص نے اپنے زمانہ میں سرانجام دیئے۔ انہوں نے اس موضوع پر قدیم و جدید کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ اور یہ یقین سے کہا جاسکتا ہے۔ کہ اس عظیم الشان سہ ماہی اور بلند پایہ صحافی کے متعلق اب تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں محمد فرج کی کتاب ان سب میں سب سے زیادہ وقع ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ شیخ محمد پانی پتی نے کیا ہے اور ترجمہ پراصل کا گمان ہوتا ہے۔ شیخ محمد احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوری کر وہ اس ترجمہ کو مکمل کر سکتے۔ بقیہ حصہ کا ترجمہ مرحوم کے والد شیخ محمد اسمعیل صاحب پانی پتی نے مکمل کیا۔ اور کتاب کی ترتیب و تہذیب میں بہت محنت کی۔ جس کے لئے ادارہ 'نفیس اکیڈمی' ان کا شکر گزار ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔

شیخ محمد احمد پانی پتی

مترجم کتاب ہذا

میرا کلیجہ محمد احمد کو محرم لکھتے ہوئے شق ہوتا ہے، مگر انہوں نے ایسی حقیقت ہے جسے پتھر کا کلیجہ کر کے میں نے برداشت کیا اور کر رہا ہوں۔ میرے رحوم فرزند نے صرف ۲۲ برس کی عمر پائی اور مر کر گھر ہی کو نہیں دل کو بھی ہمیشہ کے لئے سزا کر گیا۔ اچھے اخلاق، عمدہ عادات، رحم و ہمدردی، شرم و حیا، امانت و دیانت، غفور و درگزر، انکساری و سادگی، طنساری و عہمان نوازی، تواضع و خاکساری، احسان و سلوک، شفقت و رحمت اور نیکی و پارسائی وغیرہ صفات حسنہ اس کی فطرت میں، اخل تھیں۔ اس کے دوست ان کو یاد کر کے ہمیشہ غلگین ہو جایا کریں گے۔ جس سدا تندی کے ساتھ اس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی، اس کا نہایت گہرا نقش مرتے دم تک ہم دونوں کے دلوں پر رہے گا۔ دینداری و پرہیزگاری میں وہ اپنا نظیر آپ تھا۔ قوی کاموں میں وہ بڑے ذوق و شوق سے حصہ لیتا اور مذہبی امور کی، کجا آوری میں اسے دلی سکون ملتا تھا۔ اپنی پسندیدہ عادات کے باعث وہ ہم میں سے بہتوں کے لئے ایک نمونہ تھا۔ چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب، دشمنوں سے نیک سلوک، دوستوں سے مدارات، غریبوں سے ہمدردی، ہمسایوں سے محبت، جانوروں سے پیار وغیرہ صفات اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھیں۔ اس کو حسب اور کھیل تماشوں سے وہ ہمیشہ الگ رہا، اس کا محبوب ترین مشغلہ کتب بینی اور مصحف نویسی تھا۔ اس نے اپنی مختصر سی زندگی میں باوجود ہمیشہ بیمار، مضطرب اور کمزور رہنے کے نہایت مستعدی سے ادب، علم اور لٹریچر کی ایسی بیش بہا خدمت انجام دی جو اس کے نام کو عورت کے ساتھ زندہ رکھے گی۔ اس نے عربی زبان کے موجودہ تمام مشہور ادیبوں اور مورخوں کی بہترین تخلیقات کو ایسی خبری و روانی اور سلاست و دلچسپی کے ساتھ اردو کا سنین جاہر پنا یا کہ تمام ملک میں اس کی کوئی دوسری نظیر موجود نہیں۔ اس نے مترجم کتابوں پر ایسے ذہنی اور پرانہ معلومات حواشی لکھے جن کو دیکھ کر پوچھنا جیسے شخص کو کبھی نکھنا پڑا کہ مترجم مصنف (محمد حسین سکلی ڈیولیم) سے کبھی زیادہ صاحب بصیرت ہے؟ ملانا نہیں احمد جعفری نے تحریر فرمایا کہ محمد احمد کے بعض تراجم پر تو رشک کرنے کو دل چاہتا ہے۔ رسالہ نقوش کے مدیر نے کہا کہ جو کلام محمد احمد نے صرف چھ سات برس کی عمر میں کیا، دوسرے تو برس کی عمر میں بھی نہ کر سکتے، بہت سے اخبارات نے اس کی

مترجمہ کتابوں پر رپویہ کرتے ہوئے لکھا کہ ترجمہ اتنا سستہ، ناسلستہ، رواں اور سلیس ہے کہ ترجمہ معلوم ہی نہیں کرتا۔ جو فیہر سنی ولطافت اس کے ترجموں میں پائی جاتی ہے۔ وہ زبان پر اُس کی حیرت انگیز قدرت کا زندہ ثبوت ہے، وہ اگرچہ خود مر گیا، مگر اپنے پیچھے جو ہمیشہ بے انتہا نیت اور خواہم چھوڑ گیا ہے وہ اُس کے نام کو مرنے نہیں دیں گے۔ ایڈیٹر نقوش قیام پاکستان کے بعد محمد احمد بدایا شخص تھا جس نے یہاں کے اُردو ادا صحاب کو عربی کے تاریخی جواہر پاروں سے روشناس کرایا اور اعلیٰ پایہ کا بہترین لٹریچر اپنی یادگار چھپوڑا۔ وہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۶۲ء کو پانی پت میں پیدا ہوا، ۵ نومبر ۱۹۶۶ء کو نہایت تباہ حالت میں لٹ لٹا کر پاکستان پہنچا، اور مولوی فاضل اور ایٹ۔ اے۔ کے امتحان پاس کرنے کے بعد نہایت اہمیاک کے ساتھ اسلام، ادب اور علم کی خدمت میں مصروف ہو گیا اور صرف چھ سات برس کی محنت میں اس سے زیادہ کتابیں لکھیں جو مختلف ناشرین نے شائع کیں۔ اُسے ترجمہ سے عشق تھا اور اسی عشق میں اُس نے اپنی جان دی، اس کی سلسلہ بیماری اور کمزوری کے پیش نظر اُس کے معالج محمد علی حکیم نیر واسطی صاحب نے نہایت پر زور طریقہ پر اُسے لکھنے پڑھنے سے منع فرمایا تھا۔ مگر اُسے ترجمہ کا جنون تھا اور اسی جنون میں رات کے ایک ایک بجے تک بیٹھا فاتح اعظم محمد بن العاص کا ترجمہ کرتا رہا۔ جس کا سلسلہ مرنے سے دو دن پہلے تک چلتا رہا۔ اور بالآخر ۹ جنوری ۱۹۶۶ء کو علم و ادب کا یہ شہدائی ماں باپ کو بسکتا ہیوی کو بلکتا، بھائی کو روتا اور دوستوں کو تاسف کرتا ہوا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی وفات پر پاکستان ہندوستان، انڈونیشیا، انگلستان اور افریقہ کے مختلف ممالک سے دو سو سے زیادہ خطوط اور تار تقریرت کے آئے، پاکستان و ہندوستان کے متعدد اخبارات و رسائل نے اُس کے متعلق ادارے لکھے جن میں اُس کی وفات کو المناک علمی حادثہ اور قومی نقصان قرار دیا۔ اور اس کے ادبی اور علمی کارناموں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ انہوں نے

یہ بھول اپنی لطافت کی داویا نہ سکا
کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا

خاکسار گلین و سحرین
محمد اسماعیل پانی پتی

مورخہ ۲ اگست ۱۹۶۲ء

رام گلی نمبر ۳ - لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

(از احمد نجیب ہاشمی وزیر تعلیم عرب جمہوریہ)

عمر بن العاص عرب کے وہ بطل جلیل تھے جن کو اپنی گونا گوں صلاحیتوں کے باعث تاریخ اسلام میں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ گہرے غور و فکر، دور رس نظر، بے پایاں علم اور استنباطِ محکم میں بہت کم انسان ان کے ہم پل تھے۔ اس عظیم شخصیت کے حالات پر جس قدر بھی غور کیا جائے، اسی قدر اس کی عبقریت کے نئے نئے پہلو نظر کے سامنے آتے جاتے ہیں۔ بعض مخصوص سیاسی حالات کے باعث ان کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے گو مختلف مؤرخین نے ایک دوسرے سے مختلف راستہ اختیار کیا ہے۔ تاہم ان کی ذاتی عظمت، سیاسی بصیرت اور قیادت کی اعلیٰ صلاحیت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔

بعض اصحاب کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کتاب پر مقدمہ لکھتے ہیں تو تصنیف اور صاحب تصنیف کی مدح و ثنا کے بل باندھ دیتے ہیں اور کتاب کی خصوصیات اور کمیزات بیان کرتے ہوئے مقررہ ادبی حدود کو بھی پار کر جاتے ہیں۔ لیکن بالعموم اس کا نتیجہ نولت اور خود مقدمہ نویس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا کیونکہ تاریخ میں کرام جب کتاب کو پڑھتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کی تعریف میں کس قدر بانی سے کام لیا گیا ہے۔ اس طرح تصنیف کی قدر و قیمت ان کی نظروں میں کم ہو جاتی ہے۔ اور وہ بہت بے وفائی سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اسی امر کے پیش نظر میں اپنے مقدمہ میں اس کتاب کی تعریف و توصیف اور اور مصنف کی مدح و ثنا میں مبالغہ سے کام نہ لوں گا۔ بلکہ ناظرین کرام کو مودتہ و دل لگا کر وہ کتاب کو پڑھ کر اس کے مباحث سے آگاہی حاصل کریں اور پھر کوئی رائے قائم کریں۔ تاہم مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ کتاب انہیں بالوس نہ کرے گی اور ان کی توقعات پر پوری اترے گی۔

حضرت عمر بن العاص کی زندگی کے متعدد واقعات انسان پر حیرت و استعجاب کی کیفیت ظاہری کر دیتے ہیں۔ اس کتاب سے ان تمام واقعات کا تفصیلی علم ہو سکے گا۔ میں ان واقعات کی نشان دہی کر کے قارئین کے لئے تن آسانی کا سامان بہم پہنچانا نہیں چاہتا۔ وہ خود کتاب کا مطالعہ کر کے حضرت عمر بن العاص کی حیرت انگیز زندگی کے تمام پہلوؤں سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح انہیں

اس محنت کا اندازہ بھی ہو جائے گا جو معرفت نے اس کتاب کی تالیف کے سلسلہ میں برداشت کی ہے۔
 معرفت کتاب ہذا کے متعلق میں اس قدر کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تاریخ اسلام کے متعدد
 اہم موضوعات پر خامہ فرسائی کر کے عالم اسلام کی بہت بڑی خدمت سرانجام دی ہے۔ مجھے اُمید ہے
 کہ آئندہ بھی اس مفید سلسلہ کو جاری رکھیں گے۔ اور نئے نئے مباحث کو سامنے لاکر لوگوں کے علم میں
 لائیں۔ گراں قدر اہلِ حق کا موجب بنیں گے۔

احمد نجیب ہاشمی

کچھ کتابوں کے متعلق

(از احمد الشرباصی)

یکم محرم کی صبح کو میں نے اس عظیم اسلامی سپر سالار اور فاتح مصر کے حالات پڑھنے شروع کیے جسے تاریخ میں عمرو بن العاص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جنہیں متحدہ عرب جمہوریہ کے مایہ ناز فرزند اور شہزادہ اہل قلم استاد محمد فرج نے تالیف کیا ہے۔

تاریخ اسلام اور مشہور اسلامی شخصیتوں کے بارے میں امتداد موصوف کی یہ پہلی کتاب نہیں ہے۔ یہ دراصل اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو موصوف نے تاریخ اسلام کے مختلف مباحث کے متعلق کچھ عرصے شروع کر رکھا ہے اور جس کے تحت وہ اب تک متعدد کتب مثلاً "تعمیر المحارب" "جہاد حبیب" "العبقریۃ العسكرية فی غزوات الرسول" اور "سینف اللہ خالد وغیرہ" تحریر کر چکے ہیں۔

تاریخی موضوعات پر ظلم اٹھانا ہر اہل قلم کے بس کی چیز نہیں۔ کیونکہ اس کے لئے موضوع سے کامل واقفیت، تمام متعلقہ واقعات پر گہری نظر، کامل غیر جانبداری اور ذاتی خیالات و افکار سے علیحدگی از بس ضروری ہے۔ حقائق کو واضح کرنے کی بجائے اپنے ذاتی خیالات و افکار کے زیر اثر واقعات کو سچ کر کے پیش کرنا اور انہیں لوگوں میں پھیلا کر ان کے ذہنوں کو ناثر کرنا اتنی عظیم مذہبی بددیانتی ہے جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا اور جس کی جواب دہی انہیں قیامت کے روز خدا تعالیٰ کے حضور یقیناً کرنی ہوگی۔

مختلف کتابوں کے ناموں کی ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا ہے جو اختلافات کا محور ہے اور لوگوں نے اس کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ خام فرسائی کی ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے لئے علیحدہ راستہ اختیار کیا ہے اور متضاد خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس حالت میں جبکہ روایات میں خطرناک اختلافات پائے جاتے ہیں اور ایک روایت دوسری روایت کے بالکل

خلافت نظر آتی ہے۔ ان کا تجربہ کر کے صحیح واقعات کو پیش کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ اس کتاب کو تالیف کرنے وقت مولف نے ایک خاردار دواوی میں قدم رکھا ہے۔ جہاں ہر قدم پر چھاڑیاں ان کا راستہ روکے کھڑی نظر آتی ہیں۔ مگر قارئین مطالعہ کے بعد خود محسوس کریں گے کہ مولف کس طرح ان خسار دار چھاڑیوں سے اپنا دامن بچا کر باہر نکلا ہے۔ اور کس طرح تمام مشکلات کو عبور کر کے اس نے اپنا راستہ صاف کیا ہے۔ عمرو بن العاص جن کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اسلام کے بطل جلیل، بہت بڑے مدبر انتہائی زیرک اور فطین انسان اور بحر سیاست کے شہور تھے۔ دانائی اور عقلمندی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کا انہیں خاص ملکہ تھا۔ میدان جنگ میں کوئی چیز انہیں آگے بڑھنے سے روک سکتی تھی۔ دشمن سے مقابلہ کرنے کا ڈھنگ انہیں خوب آتا تھا۔ اہل اہل اور تہذیب کے وہ دلدادہ تھے۔ اور ہر قسم پر اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ نہایت مستقل مزاج اور ادا سے کے بڑے پتے تھے۔ جس چیز کا عزم کر لیتے تھے اسے حاصل کر کے چھوڑتے تھے۔ ان کے دشمنوں کو بھی ان کی اعلیٰ صلاحیتوں کا اعتراف تھا۔ چنانچہ رومی لشکر کے سپہ سالار اڑطون نے ان کے متعلق کہا تھا۔ عمرو بن العاص عقلمند ترین انسان ہیں میں نے ان جیسا زیرک شخص اور کوئی نہیں دیکھا۔

حضرت عمرو بن العاص میں صبر و استقامت کا ادھ بے حد تھا۔ جو راستہ اپنے لئے اختیار کر لیتے تھے سخت مشکلات کے باوجود بھی اسے ترک نہ کرتے تھے۔ غرور و غر کے بعد جو راستے ایک رتبہ قائم کر لیتے تھے اُسے کبھی تبدیل نہ کرتے تھے۔ تردد اور تامل سے انہیں سخت نفرت تھی جو کام کرنا چاہتے تھے فوراً کر ڈالتے تھے اور اسے تاخیر میں کبھی نہ ڈالتے تھے۔ ذکاوت و فطانت میں انہیں کمال حاصل تھا۔ اس کی روشن مثال ہمیں فتح مصر کے وقت نظر آتی ہے۔ حضرت عمرؓ کو مصر پر فوج کشی کا مشورہ حضرت عمرو بن العاص ہی نے دیا تھا۔ اور اس غرض کے لئے خود اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے بہت کچھ تردد اور تامل کے بعد اس کی اجازت دی۔ جس پر حضرت عمرو بن العاص فوج لے کر چل کھڑے ہوئے۔ بعد میں حضرت عمرؓ کی رائے بدل گئی اور انہیں خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی فوج ایک وسیع و عریض ملک میں داخل ہو کر طاقت سے دوچار نہ ہو جائے۔ اسی خدشہ کے پیش نظر انہوں نے ایک قاصد کے ہاتھ عمرو بن العاص کو خط بھیجا کہ اگر ابھی تک وہ سرزمین مصر میں داخل نہ ہوئے ہوں تو واپس آجائیں یہ

ملک یہ اس لئے تحریر فرمایا کہ مصر کی سرزمین میں داخل ہو کر واپس لوٹنا مسلمانوں کے قوی و تار کے خلاف تھا۔ (محمد احمد)

قاصد رنج کے مقام پر حضرت عمرو بن العاص سے ملا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کے نام امیر المؤمنین کا ایک خط لے کر آیا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص نے اپنی ذکاوت سے خط کا مضمون جانچ لیا۔ انہوں نے قاصد کو مختلف باتوں میں لگائے رکھا اور اس سے اس وقت تک خط خلیفا جب تک لشکر کوچ کرنا ہوا سرزمین مصر میں داخل نہ ہو گیا۔ سرزمین مصر میں پہنچ کر انہوں نے قاصد کے ہاتھ سے خط لے کر چاک کیا اس میں لکھا تھا۔

اگر میرا یہ خط تمہیں مصر میں داخل ہونے سے پہلے مل جائے تو واپس دینیہ آ جاؤ۔
لیکن اگر حدود مصر میں داخل ہونے کے بعد ملے تو اللہ کا نام لے کر چلتے چلے جاؤ۔ میں تمہاری مدد کے لئے فوجیں روانہ کر رہا ہوں گا۔

خط پڑھ کر حضرت عمرو بن العاص نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے پوچھا کہ اب ہم کس مقام پر ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ ہم سرزمین مصر میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس پر انہوں نے فوج کے سامنے خلیفۃ المسلمین کا خط پڑھ کر سنایا اور لشکر کو آگے بڑھنے کی تلقین کی۔ اسی مختصر فوج کے ساتھ انہوں نے مصر کو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک فتح کر لیا اور تمام سرزمین کو اسلام کی روشنی سے نور کر دیا۔ مؤلف کتاب ہذا نے حضرت عمرو بن العاص کی شخصیت پر غیر جانبدارانہ بحث کی ہے۔ انہوں نے ان کی خوبیاں بھی بیان کی ہیں اور کمزوریاں بھی ایک ایک کر کے گنوائی ہیں۔ تاہم انہوں نے اعتدال اور احتیاط کا دامن کہیں ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ خوبیاں بیان کرتے وقت مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا۔ صرف وہی خوبیاں بیان کی ہیں جو ان میں درحقیقت پائی جاتی تھیں اور کمزوریاں بیان کرتے وقت مبالغہ اور معاذرہ رو بہ اختیار نہیں کیا۔ بلکہ ایک محتاط ناقد کا انداز اختیار کیا ہے۔

جیسا کہ سب کو علم ہے حضرت عمرو بن العاص کے مزاج کم اور مخالفت زیادہ ہیں۔ امیر معاویہ سے تعلقات اور جنگ صفین میں حضرت علیؓ کے خلاف نبرد آزما ہونے کے باعث آج تک ان کی مخالفت میں بہت کچھ کہا جاتا رہا ہے۔ اگر یہ مخالفت صحیح خطوط پر ہوتی اور صرف ان کمزوریاں کا بیان کیا جاتا جو ان میں درحقیقت پائی جاتی تھیں تو یہ بات چنداں قابل اعتراض نہ ہوتی لیکن انہوں نے اس امر کا ہرے کہ مخالفین نے ان کے خلاف معاذرہ اور متعصبانہ رویہ اختیار کیا اور ان کی جانب اس قسم کی باتیں بھی منسوب کر دیں جو ان میں سرے سے موجود ہی نہیں۔

ان حالات میں اگر کوئی شخص غیر جانبدارانہ حیثیت سے حضرت عمرو بن العاص کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس کے انداز بیان میں نہ معتقدانہ غلو پایا جاتا ہے اور نہ معاذرہ تنقید تو

ایسا شخص عمر بن العاص کے عاجزوں اور دشمنوں دونوں کی جانب سے تعریف کا مستحق ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی مانتے ہیں۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہمارا جزو ایمان ہے۔ آپ کی طرح آپ کے پاک و مطہر اہل بیت کی محبت بھی ہمارے دل میں لپیٹی ہوئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی صحابہ کرام اور السابقین الاولون کی عادت و تکریم کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ ان لوگوں نے اسلام کی وہ خدمات سر انجام دی ہیں جو بعد میں آنے والے کسی دور کے لوگوں سے بھی ممکن نہ ہو سکیں۔ ان خدمات کا ادنیٰ تقاضا یہ ہے کہ ہم ان پر بدگمانی کرنے اور ان پر سب و شتم کرنے سے اپنے آپ کو سختی کے ساتھ روکیں۔ اور ان کے آپس کے تنازعات اور مناقشات کی اصل حقیقت کو حوالہ بخدا کر دیں کیونکہ وہی اصل حقیقت کو سب سے بہتر جانتا ہے صحابہ کرام کے جو محاسن ہمیں معلوم ہیں ہمارا فرض ہے کہ وسیع پیمانے پر ان کی اشاعت کریں تاکہ ہم اور ہماری نسلیں اپنے اسلاف کی قربانیوں سے آگاہ ہو کر ان کے اندر بھی خدمت دین کا جذبہ پیدا کریں اور ان کے کارنامے ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ دلور پیدا کرنے کا باعث ہوں، لیکن اگر کوئی ایسی بات نظر آئے جسے قبول کرنے کے لئے ہمارے دل تیار نہ ہوں یا ہم اس کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے ہوں۔ تو اگر ہم اس کی پوری تاویل کر سکیں تو تاویل کر لیں بصورت دیگر اسے بالکل فراموش کر دیں۔ کیونکہ ایسی باتوں کی گریہ اور جستجو سے کوئی فائدہ مرتب ہونے کی بجائے ذہن پر زنگ لگ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کی تعقیب سے فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ لہذا ہم اپنے ادوات کو مفید کا محل میں صرف کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ایسے مجذوبوں میں کیوں الجھائیں جو نافرمان ہونے کی بجائے سخت حضرت رسول اور نئے نئے فتنے برپا کرنے کا باعث ہیں۔

حضرت عمر بن العاص کی یہ سوانح حیات اسی صحیح اصول اور اسی نیک مقصد کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی ہے۔

اس سے قبل عبدالوہاب النجار، حسن ابراہیم حسن، محمد حسین مکیلی، مدنی اعظم عباس محمود العقاد اور عبدالسلام العشری اپنی کتابوں میں حضرت عمر بن العاص کا تفصیلی ذکر کر چکے ہیں اور بعض نے قرآن کے متعلق مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ لیکن ان سب میں استاذ محمد فرج کی کتاب ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے ایک نئے انداز بیان سے ان کے حالات پر روشنی ڈالی ہے۔ دیگر مؤلفین کے برعکس انہیں اس حقیقت کا احساس تھا کہ عمر بن العاص کا تعلق ایک مخصوص معاشرے سے تھا

اور اس معاشرے نے ان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ ان کے تمام اعمال و افکار میں اس معاشرے کے اثرات کارفرما نظر آتے ہیں۔ مؤلف کتاب ہڈانے اس میں منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ اس طرح بعض ان لوگوں کے اعمال و اقوال کا ذکر بھی کتاب میں آگیا ہے۔ جن کا حضرت عمرو بن العاص سے کسی طرح کا تعلق تھا۔ مگر دیگر مؤلفین نے اس امر کو نظر انداز کر دیا ہے۔

مؤلف نے سب سے پہلے عمرو بن العاص کی جاہلی اور قبل از اسلام زندگی کا حال بیان کیا ہے اور اس دور کا ایک تفصیلی نقشہ ہمارے سامنے کھینچ دیا ہے۔ اس نقشہ سے ہمیں ان محرکات کا بخوبی علم ہو سکتا ہے جو حضرت عمرو بن العاص کی آئندہ زندگی پر اثر انداز ہوئے۔

مؤلف نے آپ کی عسکری زندگی پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے اس پہلو پر میر حاصل بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ بحیثیت ایک سپہ سالار حضرت عمرو بن العاص کا مرتبہ کس قدر بلند تھا۔ اور انہیں فنون جنگ پر کس قدر عبور حاصل تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی زندگی کا یہ پہلو دیگر تمام پہلوؤں سے زیادہ لائق اعتنا ہے۔ مؤلف نے ہر اس جنگ کا، جس میں حضرت عمرو بن العاص نے حصہ لیا۔ بیان کر کے بتایا ہے کہ اس جنگ میں فتح یا ہار ہونے کے لئے انہوں نے کیا کیا طریقے استعمال کئے۔ اور کون کون احتیاطوں سے کام لیا۔ اس پر اکتفا کرتے ہوئے مؤلف نے ایک علیحدہ باب میں بھی ان تمام طریقوں کا تفصیلی ذکر کیا ہے جو اس عظیم سپہ سالار جنگوں کے دوران میں اختیار کئے اور جن سے کام لے کر اس نے اپنے سے بہت زیادہ طاقتور دشمنوں پر فتح حاصل کی۔

اس کے بعد مؤلف نے ایک نازک بحث کا آغاز کیا ہے اور وہ ہے خلفاء کے ساتھ حضرت عمرو بن العاص کے تعلقات کا سلسلہ "اسلام کی تاریخ کا یہ دور بڑے بڑے انقلابات سے پُر ہے اس عہد میں مرتدین کے فتنے برپا ہوئے۔ دشمنان اسلام کے ساتھ خونریز جنگیں ہوئیں۔ فتوحات کا لانا اتنا ہی سلسلہ شروع ہوا۔ مفتوحہ ملکوں میں پرانے نظام کی جگہ نیا نظام قائم ہوا۔ خانہ جنگیاں برپا ہوئیں۔ حضرت عمرو بن العاص کا ان تمام انقلابات و واقعات سے گہرا تعلق رہا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے عہد سے لے کر خلیفہ رابع حضرت علی بن ابی طالب تک تمام خلفاء سے ان کا کسی نہ کسی حیثیت میں رابطہ قائم رہا۔ مختلف اداروں میں انہیں مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی تو انہیں خلیفہ کی خوشنودی حاصل رہی کبھی نکتہ چینی اور کڑے محاسبہ کو برداشت کرنا پڑا۔ اور کبھی آزادی اور مطلق العنانی کا دور گزرا۔ مؤلف نے ان تمام واقعات و حالات کو تفصیلی طور اور کامل

دیانت داری سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔

آخر میں مولف نے ایک اور فنی موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔ اس نے "قیادت" کے عنوان کے تحت سیادت و قیادت کے اصول و قواعد بیان کئے ہیں۔ اور انہیں حضرت عمر بن العاص کی شخصیت پر چسپاں کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ان میں قیادت کی خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں اور وہ اس کے ہر طرح اہل تھے مولف نے اس کتاب کی تالیف کے دوران میں تاریخ نویسی کے قدیم و جدید دونوں اصولوں کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس نے ہمارے اسلاف اور موجودہ زمانہ کے فوجی ماہروں کے اختیار کردہ طریقوں کا موازنہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ جن اصولوں کو آج کے فوجی جرنیل اعلیٰ فوجی تربیت گاہوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اختیار کرتے ہیں۔ انہیں آج سے چودہ سو سال قبل عرب کے بادشاہوں نے اختیار کر کے اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کی تھی۔ اس نے اس جنگی روح پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ جو لڑائیوں کے دوران میں تمام مسلمانوں پر مستولی رہی اور جسے دیکھ کر ان کی مخالفت سلطنتوں کے چھلے چھوٹ گئے۔

مولف نے اس کتاب کی تالیف میں جہاں قدیم ماخذوں سے استفادہ کیا ہے وہاں جدید کتابوں سے بھی استفادہ کرنے میں کوئی تامل نہیں کیا۔ چنانچہ جہاں اس نے طبری، ابن اثیر، ابن عساکر، واقدی، سیوطی، مسعودی، نویری، ابو الصمغریٰ کی کتابوں سے کما حقہ استفادہ کیا ہے۔ وہاں جدید مصنفین مثلاً آلوسی، رفیعی، العظم، محمد حسین بیگلر، عباس محمود العقاد، حسن ابراہیم حسن، مؤنس اور عثمانی نیز مستشرقین مثلاً ٹیلر، ولیم میور، ڈاشرنگٹن، اردنگ، کوٹل اور فونزل وغیرہم کی کتابوں کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ اور ان کی آراء کو اپنی کتابوں میں درج کر کے ان پر غیر جانبدارانہ اور دیانتدارانہ تنقید کی ہے۔ جو بات قبول کرنے کے لائق تھی اسے قبول کر لیا ہے اور جو بات رد کرنے کے لائق تھی محض وجہ بیان کر کے اسے رد کر دیا ہے۔ اس طرح یہ کتاب ایک مفید تاریخی دستاویز بن گئی ہے۔ مولف ہم سب کے شکر یہ ہے کہ مستحق ہیں جنہوں نے ایسی قابل قدر کتاب ہمارے سامنے پیش کر کے ہمارے اسلاف کے روشن کارناموں کو ہمارے سامنے پیش کیا۔

مقدمہ مؤلف

عالم اسلام کی عظیم الشان شخصیتوں میں سے ایک خاص شخصیت حضرت عمرو بن العاص کی بھی ہے اس عظیم انسان کے حالات زندگی لکھنے کی تحریک مجھے ۱۹۴۶ء میں ہوئی۔ جب میں نے بعض مشہور شخصیتوں کے متعلق مضامین لکھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ ان مضامیر میں حضرت عمرو بن العاص کا نام بھی شامل تھا۔ میرے ایک دوست نے جو ایک بڑے موثر اخبار کے مدیر تھے، عمرو بن العاص والا مضمون اپنے اخبار میں شائع کرنے کے لئے لے لیا۔ جب میں نے اپنی کتاب "جابرۃ حرب" لکھی تو اس میں بھی ایک پورا باب حضرت عمرو بن العاص کے لئے مخصوص کیا۔ تاہم ان دونوں مضامین میں جگہ کی قلت کے باعث جو کچھ میں حضرت عمرو بن العاص کے متعلق لکھنا چاہتا تھا وہ نہ لکھ سکا۔ اسی وقت سے میں نے آپ کے متعلق ایک مستقل اور مفصل کتاب لکھنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔

حضرت عمرو بن العاص کا شمار ان عظیم شخصیتوں میں ہوتا ہے جنہوں نے عرب اور اسلام کی پیش بہادریا سرانجام دی ہیں۔ وہ اپنی گونا گوں صفات کے لحاظ سے اپنی قوم میں منفرد حیثیت کے مالک تھے۔ سیاست، حکمت، عقل و دانش اور قیادت میں ان کا جواب نہ تھا۔ میدان جنگ اور میدان سیاست دونوں میں انہوں نے اپنی کامل صلاحیتوں کا ثبوت دیا۔ زمانہ جاہلیت میں کفار قریش نے انہیں نجاشی کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ اور اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبائل عرب میں اسلام کی تبلیغ کے لئے روانہ کیا۔ حالت کفر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متعدد جنگوں میں حصہ لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے فلسطین، شام، ہند اور شمالی افریقہ میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں سرانجام دیئے۔ یہاں تک کہ ان کا شمار مسلمانوں کے بڑے بڑے سپہ سالاروں میں ہونے لگا۔

ایک ممتاز سیاست دان اور عظیم القدر سپہ سالار ہونے کے علاوہ حضرت عمرو بن العاص کی حیثیت ایک مصلح، معتمد، مبلغ اور حاکم کی بھی تھی۔ اور ان سب حیثیتوں میں انہوں نے جو کام سرانجام دیئے وہ اپنی

جگہ نمایاں اور شاندار ہیں اور ان سے ان کی حیرت انگیز قابلیتوں اور گوناگوں صلاحیتوں کا پتا چلتا ہے ان ہی لیاقتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے خلفاء نے انہیں بلند ترین مناصب سے نوازا اور وہ مملکت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔

حضرت عمرو بن العاص کی شخصیت ایک تنازعہ فیہ شخصیت ہے۔ کیونکہ حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے اختلافات کے موقع پر انہوں نے جو سیاست اختیار کی اس کے باعث مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے اور ان کے درمیان اختلافات کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا ہر فرقہ انہیں اپنے مخصوص زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر سچی ضروری ہے کہ ان کی شخصیت کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے۔ اس غرض کے لئے میں نے کثیر مواد اکٹھا کیا اور اسے بار بار پڑھا تاکہ میں کسی صحیح نتیجے پر پہنچ سکوں۔

میں نے اپنی کتاب میں حضرت عمرو بن العاص کی زندگی کے ایک ایسے پہلو پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی ہے جسے دوسرے مؤرخین نے قابل اعتناء نہیں سمجھا۔ اور وہ ہے ان کی زندگی کا عسکری پہلو۔ حالانکہ ایک عظیم الشان قائد کی سوانح حیات بیان کرتے وقت اس اہم پہلو کو قطعاً نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ عقدا میں نے اس پہلو پر اس لئے بھی خصوصیت سے زور دیا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص کی جنگیں اصول و قواعد کے لحاظ سے آج کل کی جنگوں سے کسی طرح مختلف نہیں تھیں۔ آج کل کی فوجی اکیڈمیوں میں بڑے بڑے کیشن یافتہ افسروں کو جن فنون کی تعلیم دی جاتی ہے ان فنون سے عمرو بن العاص پورے طور پر واقف تھے حالانکہ انہوں نے کسی جنگی مدرسہ میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ بہاریں اس کتاب کو پڑھ کر تائیدین کو معلوم ہو سکے گا کہ حضرت عمرو بن العاص فوجی کی قیادت، جنگی تیاری اور میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ میں آج کل کے جنگی سپہ سالاروں سے کسی طرح کم نہ تھے اور ان کی زندگی کے حربی پہلو پر بحث نہ کر کے مؤرخین نے ان کے ساتھ بڑی نا انصافی سے کام لیا ہے۔ اس بیان سے میری اس محنت کا اندازہ بھی ہو سکے گا جو اس عظیم الشان سپہ سالار کے نمایاں شان سوانح حیات بیان کرنے میں میں نے اٹھائی ہے۔

اس ضمن میں میں عالی مرتبت جناب احمد نجیب انجم وزیر تربیت و تعلیم متحدہ عرب جمہوریہ اور جناب استاذ احمد الشرباصی صدر جمعیت شبان المسلمین کاتہ دل سے شکر یہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی بے انتہا مصروفیتوں کے باوجود اس کتاب پر مقدمے تحریر فرمائے اور اس طرح اپنی علم پروری کا ثبوت دیا۔

آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہماری غلطیوں کو دور فرمائے اور ہمارا حیات میں اپنے ذائقہ بھرنے اور خیر سیر انجام دینے کے لئے ہمیں عزم اور توفیق عطا فرمائے۔ تاکہ ہم اپنے اسلاف کے صحیح جانشین ثابت ہو سکیں۔

محمد فرج

باب اول

عمرو بن العاص

حالت کفر سے قبول اسلام تک

(۱) دور جاہلیت اور حالت کفر

- قبیلہ و خاندان
- ولادت، عہد شباب، شغل تجارت اور میرپناہت
- عمرو بن العاص اور اسلام

(۲) زمرانہ اسلام

- عرب اور اسلام
- عمرو بن العاص حبشہ میں
- عمرو بن العاص کا قبول اسلام
- سواع بت کا انہدام
- عمرو بن العاص مملکت عمان میں

(۱)

زمانہ جاہلیت اور حالت کفر

تھے بادشاہ ذمی جاہل ابن مسلمانوں نے ایک
 بالکل نیا مذہب اختیار کیا ہے جو ہمارے اور
 آپ کے دینوں سے یکسر مختلف ہے۔ اس نئے
 طریقہ کی بنیاد (نعوذ باللہ) ایک کذاب شخص نے
 رکھی ہے جو افسوس ہے کہ ہماری ہی قوم کا ایک فرد
 ہے، وہ بر ملا اپنے آپ کو خدا کا رسول کہتا ہے مگر
 صرف چند بے وقوف لوگوں کے سوا ہم میں سے
 کسی نے بھی اس کی پیروی نہیں کی.....
 (شہنشاہ حبش نجاشی سے عمر بن العاص کی گفتگو)

قبیلہ و خاندان | حضرت عمرو بن العاص کے حالات شروع کرنے سے پہلے ان کے قبیلہ اور خاندان کا مختصر سا حال بیان کرنا ضروری ہے۔

جس قبیلے خاندان اور ماحول میں کوئی شخص پرورش پاتا ہے اس کا اثر اس کے اعمال و افکار اور اخلاق و عادات پر ضرور پڑتا ہے۔ لہذا کسی نامور شخص کے سوانحی حالات اور کارناموں پر نظر ڈالنے سے قبل اس کے ماحول کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔

حضرت عمرو بن العاص مکہ کے مشہور قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو سہم سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کا یہ قبیلہ متعدد خاندانوں پر مشتمل تھا جن میں قنلت و کثرت۔ طاقت و قوت اور شرف و عزت کے لحاظ سے کافی تفاوت پایا جاتا تھا۔ قریش کے جو خاندان جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں شرف و عزت کے لحاظ سے ممتاز سمجھے جاتے تھے وہ دس تھے (۱) بنو ہاشم (۲) بنو ابیہ (۳) بنو نوفل (۴) بنو عبد المدار (۵) بنو اسد (۶) بنو تمیم (۷) بنو مخزوم (۸) بنو عدی (۹) بنو جحج (۱۰) بنو سہم بنو سہم کو جہاں ایک طرف تعداد کی کثرت اور دولت و ثروت کی فراوانی کے لحاظ سے قریش میں ان کا حاصل تھا وہاں دوسری جانب سیاسی لحاظ سے بھی وہ مکہ میں ایک بلند ترین حیثیت کے مالک اور شہر کے نظم و نسق میں دوسرے معزز قبائل کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ خانہ کعبہ میں بتوں پر جو حجرت چڑھا دیے چڑھتے تھے وہ بھی سب کے سب بنو سہم کے پاس جمع ہوتے تھے۔ ان دوسرے قبائل کے باعث بنو سہم بعض مخصوص صفات سے بہرہ ور تھے۔ مثلاً جو کام وہ

۱۔ سلسلہ نسب یہ ہے۔ بنو سہم بن عمرو بن العاص بن کعب بن لوئی بن غالب بن قریش

۲۔ عہد جاہلیت میں شہری نظم و نسق کی سنگین کیفیت کا تو میں علم نہیں البتہ آنا ضرور جانتے ہیں کہ اہل عرب اجتماعی نظم و نسق سے تعلق رکھنے والے اس لیے بڑے بڑے قبائل میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ بنو سہم کے سپرد تھا کام تھا۔ اہل مکہ کے مابین یا اہل مکہ اور باہر سے آنے والوں کے درمیان جو تنازعات اور تنازعات غیر مسائلات پیدا ہوتے رہتے تھے وہ تصفیہ کے لیے بنو سہم کے پاس آتے تھے۔

۳۔ اہل عرب بتوں اور عیدوں پر جو چڑھائے چڑھتے تھے۔ ان کی حیثیت آج کل کے اوقاف کی جی تھی۔ بنو سہم ان اوقاف اور اموال کے نگران تھے۔

اپنے ہاتھ میں بیٹھے تھے اسے بڑے غور و فکر اور پوری احتیاط کے ساتھ سرانجام دیتے تھے۔ تنازعات کے تصفیہ کے وقت انہیں معاملہ فہمی کو کام میں لانا اور نازک محاطات کو سمجھانے وقت انہیں مختلف طریقوں سے کام سے کر لوگوں کے مشغول جذبات کو ٹھنڈا کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح ان میں عقلندی، سیاست، حلم اور عدل و انصاف کی صفات پیدا ہوئی تھیں۔ سخاوت اور مہمان نوازی میں وہ لوگ پیش پیش تھے ادب اور شہرے بھی انہیں کافی لگاؤ تھا۔ غرض گونا گوں صفات کے باعث جو ہمہ کا قبیلہ تمام عرب میں ممتاز حیثیت کا حامل تھا اور اسے عرب و عترت کا وہ بلند مقام حاصل تھا جو بہت کم قبائل کو میسر تھا۔

یوں تو اس قبیلے کے بیشتر لوگ اعلیٰ صفات سے منصف تھے۔ لیکن اس کے چند افراد کو خصوصیت سے نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ قیس بن عدی کا نام عرب و شہرت میں ضرب المثل تھا۔ چنانچہ کہا جاتا تھا کہ نہ فی العناقیس بن عدی یعنی نطل شخص عرب و شہرت میں قیس بن عدی کی مانند ہے۔ حارث بن سعید بن ہم مہمان نوازی اور سخاوت میں مشہور تھا اور عبداللہ بن زبیری بن قیس بن عدی کا شمار قریش کے بلند پایہ شعرا میں ہوتا تھا۔ فتح مکہ سے قبل اس نے مسلمانوں کی سمت سچوئیں کہی تھیں لہٰذا سلسلہ نسب زبیدی نے قاموس کی شرح میں حضرت عمرو بن العاص کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے۔ عمرو بن العاص بن وائل بن ہشام بن ہم بن عمرو بن حصی بن کعب بن لؤئی بن غالب والد العاص بن وائل کا ان کے باپ عاص بن وائل کو زمانہ جاہلیت میں بڑی عزت و شہرت حاصل تھی۔ اس کا شمار عرب جاہلیت کے بڑے بڑے سرداروں اور اعیان و شرافت میں ہوتا تھا۔ وہ ہی ہمہ کا سب سے بڑا شخص اور حرب النجار الثانی میں فوج کا سپہ سالار تھا لہٰذا صاحب قاموس نے اسے قریش کے حکام میں شمار کیا ہے۔

میدانی نے بھی اپنی کتاب مجمع الامثال میں لکھا ہے کہ عاص بن وائل قریش کے حکام میں سے تھا۔ ابن کلبی نے اس کے متعلق لکھا ہے عاص قریش کے حکام میں سے تھا۔ اس نے حضرت عمرؓ کو خطاب کرنا اس وقت پناہ دی تھی جب آپ اسلام لائے تھے۔ زبیر بن بکر نے اس ذیل میں ایک لمبا قصہ بیان کر کے لکھا ہے جب حضرت عمرؓ اسلام لائے اور مشرکین قریش نے حسب معمول آپ کو بھی اذیتیں اور تکلیفیں دینی شروع کیں تو اس وقت عاص اڑنے آیا اور اس نے مشرکین کو آپ پر ظلم و ستم کرنے سے دکا

اس نے ان سے کہا۔

آپ آدمی نے اپنی مرضی سے اپنے لئے ایک لاسٹہ اختیار کر لیا ہے تم کیوں اس میں غل ہوتے ہو؟
چنانچہ عامس کے سہمہائے پر مشرکین نے حضرت تدمر کو ستا نا چھوڑ دیا۔
عامس کا شمار مکہ کے بڑے بڑے رہنما میں ہوتا تھا۔ وہ ایک شہور تاجر تھا اور اس کے گارندے میں
سے چمچ اور حبشہ سے خوشبو بات لے کر شام جاتے تھے اور شام سے کشمش اور انجیر لاکر میں اور حبشہ میں فروخت
کرتے تھے۔

عامس کی زندگی ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا لیکن وہ نہ صرف یہ
کہ آپ پر ایمان نہ لایا بلکہ آپ کی راہ میں سنگ گراں بن کر حائل ہو گیا۔ وہ اسلام کے شدید دشمنوں میں
سے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ لو اس کی زبان دہرا لوی اور اغواؤں سے بے حد
تکلیف پہنچتی تھی۔

ہجرت نبوی کے ایک ماہ بعد پچاسی برس کی عمر میں بحالت کفر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی مخالفت
اور ایذا رسانی میں آخر وقت تک کمی نہ آئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں قاسم اور عبداللہ کے فوت ہونے پر عامس نے کہا تھا ان محمد
ابنوں (یعنی محمد کا نام لیا کوئی باقی نہیں رہا)۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اِنَّ شَانِئَكَ
هُوَ الْاَبْتُوْرُ (یعنی اے محمد! تیرے دشمن ہی کا ماں بپا کوئی باقی نہیں رہے گا)

۱۰ ذہیر بن بکاد کی روایت کے بموجب اس کی موت ہجرت سے پچیس ہی ہو گئی تھی۔

۱۱ کامل ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۲۹

۱۲ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ عامس بن داس نے یہ فقرہ قاسم کے منہ پر کہا تھا۔ لیکن ابن اسحاق کے بیان کے بموجب
عامس کی زبان سے یہ فقرہ اس وقت نکلا تھا جب قاسم کے مرنے کے بعد عبداللہ بھی فوت ہو گئے۔ اکثر مروضین نے ابن اسحاق کی
کی بیان کردہ روایت کو اختیار کیا ہے۔ ہم بھی ابن اسحاق ہی کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔

۱۳ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے ساتھ ابتر ہو گئے۔

۱۴ یہ آیت سورہ کوثر کی ہے، شانئک کے معنی تجھ سے بغض و عداوت رکھنے والے اور نفرت کرنے والے کے ہیں۔
اور ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جس کا اثر و نفوذ باقی نہ رہے اور نہ اس کے مرسلے کے بدلے کو اچھے ہم سے اسے یاد کریں اور اس
طرح اس کا ذکر کیا نکل جاتا ہے۔ جو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اسے ہاں سے رسول کو بڑا گتے سے نفرت کرتے ہی عنقریب لوگوں کے
دلوں سے ان کی یاد تک محو ہو جائے گی اور ان کا سارا اثر ختم ہو جائے گا۔

حضرت عمرو بن العاص کو اپنے باپ پر بہت ناز تھا۔ حتیٰ کہ وہ حضرت عمرؓ بن خطاب اور حضرت عثمانؓ جیسے جلیل القدر خلفاء کے مقابل پر بھی اپنے باپ پر فخر کا اظہار کرنے سے نہ سچکھتے تھے۔ چنانچہ جب زمانے میں حضرت عمرو بن العاص مصر کے گورنر تھے تو حضرت عمرؓ نے چند پرورٹوں کی بنا پر ایک شخص کو اس نزعہ کے لیے مقرر کیا کہ وہ عمرو بن العاص کے پاس جا کر اموال خراج کی حساب تمہی کرے اور حساب کرنے کے بعد ان کے پاس جس قدر مال نکلے اسے ان سے لے کر بیت المال میں داخل کرے۔ جب حضرت عمرؓ کا ایسی حضرت عمرو بن العاص کے پاس پہنچا اور خلیفہ کے حکم سے اُسے آگاہ کیا تو انہیں غلش آگیا اور اسی حالت میں غیب میں پیغام بر سے کہنے لگے :-

تبع الله نه ما ناعمر بن العاص لعمر بن الخطاب نينه عامل والله اني لاعرف الخطاب
يحمل فوق رأسه حزمة من الخطب ومعنى ابنه مثلها وما منهما الا في ثمره
لا تتبعه سغبه والله ما كان العاص بن داود يرضى ان يلبس الدباج مرسما
بالذهب..... لعين

عمرو بن العاص کے لئے یہ بدترین زمانہ ہے جبکہ عمرؓ بن خطاب اُس کے حاکم ہیں۔ خدا کی قسم! مجھے خوب یاد ہے کہ خطاب اور اس کے بیٹے اپنے سروں پر ایندھن کے گٹھے اٹھا کر مکہ میں لایا کرتے تھے جبکہ میرا باپ سرنے کے ٹن لگے ہوئے دیباچ کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا.....

جب حضرت عثمانؓ نے انہیں مصر کی ولایت سے معزول کیا اور وہ مدینہ آئے تو حضرت امیر المؤمنین نے انہیں اپنے حضور میں بلایا اور فرمایا :-

”میں نے تمہیں بعض کوتاہیوں اور لوگوں کی شکایات کے باعث معزول کیا ہے۔“

حضرت عمرو بن العاص یہ سن کر بوسے :-

”میں حضرت عمرؓ کے زمانہ سے مصر کا حاکم تھا، اور وہ آخر وقت تک مجھ سے خوش رہے۔“

اس پر دونوں میں کچھ ٹکراہ ہونے لگی اور بالآخر حضرت عمرو بن العاص نے یہ کہہ کر باہر آنے کا ارادہ کیا :-

سہ بعض روایات میں آتا ہے کہ عمرو بن العاص نے کہنے کو تو یہ بات کہہ دی لیکن پھر انہیں اندیشہ پیدا ہوا کہ میں اس طرح لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اس لئے انہوں نے حضرت عمرؓ کے ایلی کو قسم دلا کر اس سے یہ بات کہہ کر وہ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرے۔

میں نے اپنے باپ عاص بن وائل اور تمہارے باپ عفان دونوں کو دیکھا ہے۔ خدا کی قسم عاص
عفان سے بہتر تھا۔“

حضرت عثمانؓ نے اس کا صرف یہ جواب دیا۔ مالنا ولذکر الجاہلیۃ یعنی ہمیں جاہلیت کی
باتوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔“

عاص کے دوڑ کے تھے۔ عمرو اور ہشام ^{بلکہ} عمرو بن العاص اپنے بھائی ہشام سے بڑے تھے۔
عاص بن وائل کی زندگی میں ایک مرتبہ ایسا واقعہ ظہور پذیر ہوا جسے تاریخ عرب میں زبردست
شہرت حاصل ہوئی۔ اس واقعہ کا تعلق چونکہ عاص سے تھا۔ اس لئے یہاں درج کیا جاتا ہے۔
ایک مرتبہ عاص نے مین کے قبیلہ بنو زبید کے ایک شخص سے جو عمرہ کی غرض سے مکہ آیا
تھا کچھ سامان خریدا لیکن قیمت کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ آخر جب قیمت وصول ہونے کی
تمام تدابیر ناکام رہیں اور مین کا پیارہ صبر لبریز ہو گیا تو وہ ایسے وقت جبل ابو قیس پر چڑھا جیکہ
قریش مجلس لگا کر صحن کعبہ میں بیٹھے تھے اور باواز بلند ان اشعار میں اپنی مظلومیت کا اعلان
کرنے لگا۔

”اے لوگو! تم اس مظلوم شخص کی درد کے پینے کیوں آگے نہیں بڑھتے جو اپنے وطن اور قبیلے سے لوگوں
دور چھا ہے اور جس پر تمہارے ہی قبیلے کے ایک فرد نے ظلم کیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اہل مکہ حرم
میں رہنے کے باعث ہر قسم کی باز پرس سے آزاد ہیں۔ لیکن حرم کے اندر اگر کچھ جیسے کسی اجنبی شخص پر
ظلم دستم ڈھایا جاتے اور اسے دھوکا دیا جائے تو اس کے حال زار پر کوئی توجہ نہیں کی جاتی اور اس
کے دل اور عزت کی حرمت کو علی الاعلان توڑا جاتا ہے۔“

یہ شعر سن کر جب لوگوں نے اُس شخص کو بلایا اور اُس سے اُس کی مظلومیت کی داستان سنی
تو انہیں اس بات پر بے حد غصہ آیا کہ ایک سربر آوردہ شخص نے خاز کعبہ کی زیارت کی خاطر
آنے والے شخص پر زیادتی کی ہے۔ چنانچہ قریش کے تمام قبائل۔ ماسوا بنو سہم۔ مکہ کے ایک نہایت
معزز فرد عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور وہاں یہ عہد کیا کہ اگر وہ کسی مظلوم شخص کو بے کسی

۱۰ ہشام اپنے بھائی عمرو سے بہت پہلے مکہ ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور انہیں ہماجرین میں سے تھے
انہوں نے جنگ یرموک میں شہادت پائی۔

۱۱ اس واقعہ کو زبیر بن بکاء نے بیان کیا ہے۔

کی حالت میں دیکھیں گے تو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں گے بلکہ اس کے ساتھ مل کر ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لیں گے۔ یہ عہد کرنے کے بعد وہ ابنِ جدعان کے گھر سے نکل کر کعبہ میں آئے تاکہ اپنے بتوں کو بھی وہ اس معاہدہ کا گواہ بنالیں۔ یہ معاہدہ تاریخ میں حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدہ میں شریک تھے اور آپ کو اس کا اس درجہ پاس تھا کہ نبوت لانے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ اگر اس کے بدلے مجھے شریخِ اُدُنٹ بھی دیے جائیں تو بھی میں انہیں قبول نہ کروں؟ اس معاہدے سے عمرو بن العاص کو جو اس وقت چودہ برس کے تھے) بے حد صدمہ ہوا کیونکہ ان کے خیال میں دراصل یہ معاہدہ نبوہم کو زک پہنچانے اور ان کے اقتدار کو ختم کرنے کے لئے عمل میں لایا گیا تھا۔ چنانچہ اس کے بارے میں ان کے اور ابنِ جدعان کے درمیان طویل گفتگو بھی ہوئی جو ہم کتابِ عمرو بن العاص - تلخ مصر "بوفہ استاذ عبد السلام القشیری سے لے کر یہاں درج کرتے ہیں۔ ابنِ جدعان: عمرو بن العاص! کیا تم نے بھی اس زبیدی کی آواز سنی تھی جس نے جبلِ البقیس کی چوٹی پر چڑھ کر بلند آواز سے لوگوں کو اپنی مظلومیت کی دردناک داستان سنائی تھی؟ ہم نے خاص تمہارے باپ کے ساتھ برائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا بلکہ ہم نے ظالموں کے خلاف معاہدہ کیا ہے۔

عمرو بن العاص: لیکن تم عاص سے کچھ پوچھے بغیر زبیدی کی مدد پر آمادہ ہو گئے۔ یہ کیوں؟ ابنِ جدعان: عمرو بن العاص! کس شخص میں یہ جرات ہے کہ تمہارے باپ سے کوئی جراب طلبی کر سکے؟ اس کا تو یہ خیال ہے کہ دنیا صرف اُس کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ صرف اسی کی بات سنی جائے اور کسی شخص کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی رائے کی مخالفت کرے۔ عمرو بن العاص: ابنِ جدعان! اللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے والد کی رائے درست بھی ثابت ہوتی ہے۔

ابنِ جدعان: عمرو بن العاص! ہمیں تمہارے والد کی ذکاوت و عظمت سے انکار نہیں ہے لیکن ظلم کرنے سے نہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور نہ اسے۔ وہ بہت بڑا تاج ہے۔ اور تاجر کو سب سے بڑھ کر امانت اور سچائی کا حامل ہونا چاہیے۔ اسے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہیے۔ زبیر کہ انہیں اپنے سے نفرت دلائی جاتے۔ صرف تمہارے باپ ہی پر منحصر نہیں۔ ہم

یہی تاجر آدمی ہیں اور سامان تجارت لے کر مختلف علاقوں اور ملکوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ بات منظور ہے کہ زبید یا کوئی اور قبیلہ قریش کے تجارتی قافلوں سے اس بے انصافی کا انتقام لے؟ کیا تم یہ بات چاہتے ہو کہ عرب حج کے ارکان اور زیارت بیت اللہ سے رک جائیں؟ عمر بن العاص! تمہارا باپ یقیناً ظالم تھا اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔

عمر بن العاص! سب کچھ سہی۔ مگر قریش کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ حقیقت حال سے واقف ہونے سے پہلے میرے والد کے خلاف محاذ قائم کرتے۔ اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ عاص ظالم تھا تب بھی ہمیں اس سے نرمی کا سلوک کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ لمبا اوقات نرمی سے وہ مشکلات حل ہو جاتی ہیں جو نیز دل اور تلواروں سے حل نہیں ہو سکتیں۔ تم نے یہ معاہدہ کر کے جو ہم کو ذلیل کرنا چاہا ہے اور یہ چیز کسی برداشت نہیں کی جائے گی۔

والدہ (سلمی بنت حرب) | حضرت عمر بن العاص کی والدہ کا نام سلمی بنت حرب تھا اور وہ ایک مخطاتی قبیلہ قضاعہ کی شاخ بنو عذرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ ڈاکڑوں نے قبیلہ پر حملہ کیا اور اسے قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے اور سوق عکاظ میں ناکر بن مغیرہ کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ ناکر سے اسے عبد اللہ بن عبد بن نے خرید لیا اور عاص بن عائش کو بد تہ دے دیا۔

سیرۃ حلبیہ میں مذکور ہے کہ سلمی سے چار اشخاص ہم بستر رہے ہیں (۱) عاص بن داؤد (۲) ابولہب (۳) امیر بن خلف اور (۴) ابوسنیان بن حرب۔

جب عمر بن العاص پیدا ہوئے تو سلمی ان کے باپ عاص کے پاس تھی۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے عاص کو اس لیے اختیار کیا کہ وہ میری بیٹیوں پر ہیبت کچھ خراج کرتا ہے۔

اس قبیلے کا شجرہ نصب یہ ہے۔

بنو عذرہ بن سعد بن نیریم بن زید بن لیث بن سعد بن اسلم بن الحوائج بن قضاہ بنو عذرہ کی رہائش یومہ سے دس یوم کے فاصلہ پر تھی۔

سے بعض قبائل عرب میں یہ طریقہ تھا کہ کسی کئی مرد ایک عورت سے ہم بستری کرتے تھے۔ اور وہ عورت ان سب کی بیوی کہلاتی تھی۔ حضرت عائشہؓ بھی عہد جاہلیت کے نکاحوں کا حلال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں: بعض اوقات کئی آدمی جن کی تعداد دس سے کم ہوتی تھی ایک ہی عورت سے ہم بستری کرتے تھے۔ جب وہ عورت حاضر ہو جاتی تھی تو وہ عورت ان سب کو بلا ہیبت تھی اور کبھی تھی تمہیں معلوم ہے کہ مجھے حمل ٹھہر گیا ہے۔ میرے بطن سے جو بچہ پیدا ہو گا وہ تم میں سے (باقی اگلے صفحہ پر)

حضرت عمرو بن العاص سلمی سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوئے بہت شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ کیونکہ سلمی کا واقعہ ان کے مخالفین کے ہاتھ میں بڑا ہتھیار تھا اور ان کے حاسد جابجا اس امر کا تذکرہ کر کے انہیں بدنام کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ امارت مصر کے زمانہ میں ایک آدمی نے عین اس وقت جبکہ وہ پتھر پھینک رہا تھا کہ خطیرے سے رہے تھے۔ ان سے یہ سوال پوچھ لیا کہ اسے امیر آپ کی والدہ کو کون تھیں۔ انہوں نے جواب دیا:-

میری والدہ نالغہ بنت عبداللہ تھیں۔ ایک مرتبہ قبیلے پر بعض بددلی سے ڈاکہ ڈالا اور انہیں پکڑ کر لے گئے۔ سوق عکاظ میں انہیں عبداللہ بن جدعان نے خرید لیا، انہوں نے انہیں میرے والد عاص بن دہشل کو شے دیا اور ان سے ادا ہوئی۔

خبر دئے اپنی کتاب کالیں لکھا ہے:-

”ایک مرتبہ حضرت عمرو بن العاص سے ان کی والدہ کے متعلق سوال کیا گیا لیکن وہ ٹال گئے۔ بعد میں جب وہ مصر کے گورنر ہو گئے تو وہی شخص ان کے پاس آیا اور دوبارہ وہی سوال کیا کہ میں امیر کی والدہ کے متعلق دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا:-

”وہ قبیلہ عنزہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا نام سبیل تھا اور لقب نالغہ“

ابن قتیبہ نے کتاب العاروف میں لکھا ہے:-

”ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت عمرو بن العاص سے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا آپ کے (سوتیلے)

(تفسیر حاشیہ صفحہ ۳۱) غلام کا درکار ہوگا۔ باجموعہ اس شخص کو بچہ کا باپ ٹھہراتی تھی جو اسے سب سے زیادہ پسند

پرتا تھا اور وہ شخص بچے کا باپ ہونے سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ (بخاری ج ۸ صفحہ ۱۵۳۔ باب من قال لانکاح الابوی“

کتاب ہذیل اللہ بنی سمرقند احوال العرب جلد ۱ صفحہ ۶ میں بھی حضرت عائشہ کے اس بیان کی تائید کی گئی ہے۔

سہ الکامل فی المغتہ والادب صفحہ ۶۸

۷۔ حضرت عمرو بن العاص کا یہ قول کہ ان کی والدہ بنو عنزہ سے تعلق رکھتی تھیں اس روایت کے

مخالف ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ بنو عنزہ میں سے تھیں۔ قبیلہ عنزہ قبیلہ اسد بن ربیعہ کی ایک شاخ تھا

دورہ عراق میں انبار سے تین منزل کے فاصلے پر عین التمر میں آباد تھا۔

کھانی ہشام؟ انہوں نے جواب دیا۔

ہشام کو محمد پر چار باتوں میں فضیلت حاصل ہے، (۱) ان کی والدہ ہشام بن مغیرہ کی لڑکی تھیں سہ اور میری والدہ عنزیہ (۲) وہ میرے والد کو میری نسبت زیادہ محبوب تھے (۳) انہوں نے مجھ سے پہلے اسلام قبول کیا (۴) انہیں شہادت کا شرف حاصل ہوا اور میں اس سعادت سے محروم رہا سہ ان کی والدہ کے متعلق بعض کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ مکہ کی ایک پیشہ در مغنیہ تھیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امیر معاویہؓ کی مجلس میں حضرت عمرؓ بن العاص نے اردی بنت حارث بن عبدالمطلب کے متعلق کچھ ناز و باتیں کیں اس پر اردی سے نہ رہا گیا اور وہ بلہیں۔

”اے ابن نافعہ! تم میرے سامنے رہنے کی جرات کرتے ہو حالانکہ تمہاری والدہ مکہ کی مشہور پیشہ در مغنیہ تھی۔ اپنی حد کے اندر رہو اور اپنی انذقات پہچانو۔ جب و نسب کے لحاظ سے قریش میں تمہارا کوئی مقام نہیں۔ قریش کے پانچ آدمی تمہارے باپ ہونے کے ذمہ دار تھے، ہر شخص یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا باپ ہوں، آخر کار جب تمہاری والدہ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا یہ پانچوں میرے ساتھ ہم بستر ہوئے تھے اس لئے اس معاملہ کا فیصلہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ لڑکا مشکل و صورت میں ان پانچوں میں سے جس کے ساتھ زیادہ مشابہ ہو اسی کو اس کا باپ قرار دیا جائے، چونکہ عاص بن وائل کے ساتھ تمہاری شبیہ کسی حد تک ملتی تھی، اس لئے تمہارا نسب اس کے ساتھ ملا دیا گیا۔“

واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ بن العاص کی والدہ کی جانب کتابوں میں جو کچھ منسوب کیا گیا ہے اور غلامی کے نتیجے میں اسے جن ذلتوں کا سامنا کرنا پڑا اس میں اسے کوئی دخل نہ تھا، اس زمانہ میں لڑائیوں اور ڈاکوں کے دوران میں جو عورتیں اور مرد قیدی بنائے جاتے تھے ان کی بیعت لوندی غلاموں کی

سہ ہشام بن عاص کی والدہ ہشام بن مغیرہ کی بیٹی تھی، وہ قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور حضرت عمرؓ بن العاص کی والدہ کی طرح لوندی نہ تھی۔ وہ اپنے خاندان کی بے حد چہیتی تھی، حتیٰ کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر ہشام رکھ دیا جو قبائل عرب میں ایک نرالی بات تھی، لیکن عاص نے اس محبت کی وجہ سے جو اسے اپنی بیوی سے تھی اسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔

سہ کتاب المعارف ص ۹

ہوتی تھی۔ بعض اوقات بڑے بڑے معزز خاندان کی عورتیں محاربین کے ہاتھوں میں پڑ جاتی تھیں اور وہ انہیں لونڈی بنا کر بیچ ڈالتے تھے۔ ان کے مالک ان سے جس قسم کا سلوک چاہتے تھے کرتے تھے۔ وہ مظلوم عورتیں بالکل بے بس ہوتی تھیں اور کچھ نہ کر سکتی تھیں۔ حضرت عمرو بن العاص کی والدہ بھی قیدی بن کر آئی تھی اور دوسری لونڈیوں کی طرح وہ بھی بے بس تھی۔ اس لیے اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا۔ اس میں اس کی کوئی خطانہ تھی۔ وہ اپنی مرضی سے پانچ مردوں کے ساتھ ہم بستری ہوئی تھی۔ بلکہ اسے ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ لہذا اس پر کسی قسم کا الزام قائم نہیں کیا جاسکتا۔

ولادت مورخین میں حضرت عمرو بن العاص کے زمانہ ولادت کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔

ابن حجر نے لکھا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص حضرت عمر بن خطاب (فاتح اعظم) سے سات سال بڑے تھے۔ اور آپ کی وفات حضرت عمر کی وفات کے میں برس بعد ہوئی۔

ابن خلدون نے لکھا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص کی عمر نوے برس کی ہوئی۔

ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص ۳۲ھ میں تتر سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

واقفی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے تریسٹھ برس کی عمر میں وفات پائی تھی۔ اس لحاظ سے آپ کا سن ولادت ۵۸۲ء (۲۰ قبل ہجرت) بنتا ہے۔ چونکہ حضرت عمرو بن العاص حضرت عمر بن خطاب سے سات سال بڑے تھے اس لئے ان کا سن ولادت ۵۴۵ء (۲۷ قبل ہجرت) ماننا بڑے کا عجیبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص نے ننانوے برس کی عمر پائی۔ ابوالمحسن نے بھی ان کی عمر ننانوے ہی سال لکھی ہے۔ نوری نے ان کی عمر ستر ہی بتائی ہے۔

۱۔ کتاب الامارہ فی تمییز الصحابہ جلد ۵ صفحہ ۳

۲۔ واقفی اور ابن حجر نے بھی اسی روایت کی تائید کی ہے۔

۳۔ کتاب المعاد صفحہ ۹

۴۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کا انتقال ۳۲ھ میں ہوا اور بعض روایات میں ان کا سن وفات

۳۵ھ بتایا گیا ہے

۵۔ کتاب الامارہ فی تمییز الصحابہ جلد ۵

۶۔ کتاب النجوم الزاہرہ فی لوک مصرہ القاہرہ

الغزوات بشرنے اپنی کتاب *The Arab conquest of Egypt* (عربوں کی فتح مصر میں نووی کے قول کو ترجیح دی ہے اور لکھا ہے کہ اگر عمرو بن العاص کی عمر اسی برس مانی جائے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مصر پر چڑھانی کے وقت وہ چھیا سٹھ سال کے تھے۔ حالانکہ اس عمر میں بالعموم انسانی قومی انحطاط پذیر ہو جاتے ہیں اور جنگوں کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرنے کے قطعاً ناقابل ہوتے ہیں۔ لیکن بٹلر کی یہ ترجیح درست نہیں کیونکہ جنگوں کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے کئی ایسے مشہور سپہ سالاروں کا حال معلوم ہو گا جنہوں نے ساٹھ سال سے بھی زیادہ کی عمر میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں سرانجام دیے۔ بے دھڑک میدان جنگ میں کود کر دشمنوں سے مقابلہ کیا اور پیراندہ سالی کے باوجود بڑے بڑے نازک موقعوں پر عظیم الشان لشکروں کی قیادت کی۔

مذہبہ بالا تمام روایات پر غور کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص نے ۱۷ سال کی عمر میں وفات پائی۔

عہدائے شہاب | حضرت عمرو بن العاص نے عرب کے ایک بڑے گھرانے میں پرورش پائی اور جوانی کا زمانہ مکہ کے شرفاء کے لوگوں کے ساتھ گزارا۔ اگرچہ اس عہد میں بچوں کو تعلیم دینے کا رواج نہ تھا لیکن حضرت عمرو بن العاص نے باقاعدہ لکھنا پڑھنا سیکھا۔ اور اس میں کافی مہارت حاصل کی۔ ان کی طبیعت شعر گوئی کی طرف بھی مائل تھی۔ ان سے بہت سے عمدہ اشعار مروی ہیں جنہوں نے شعر و شاعری کا مستند محض دل بہلانے اور عقل کو صحتیل کرنے کے لئے اختیار کیا تھا۔ دوسرے شاعروں کی طرح مدح و ذم اور قصائد و بحریات کے ذریعہ پیسہ کمایا حریت کو بدنام کرنا ان کا قصد تھا۔ امیر معاویہ نے ایک بار ان سے عبداللہ بن ہاشم بن عقبہ بن مالک بن ابی وقاص کے بارے میں مشورہ کیا۔ عبداللہ کے باپ ہاشم جنگ صفین کے موقع پر حضرت عائشہ کی حمایت میں امیر معاویہ سے لڑ چکے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص نے مشورہ دیا کہ عبداللہ کو قتل کر دیا جائے لیکن امیر معاویہ نے درگزر سے کام لیا۔ اس پر حضرت عمرو بن العاص نے ناراض ہو کر چند اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے

”میں نے آپ کو درست مشورہ دیا لیکن آپ نے میرے مشورے کو ٹھکرا دیا۔ حالانکہ آپ چاہتے تو بہت آسانی سے ابن ہاشم کو قتل کر سکتے تھے۔ بسے معاویہ! کیا اس کا باپ وہی نہیں جس نے اس روز ہمارے دشمنوں کی مدد کی جب بڑے بڑے سردار موت کے گھاٹ اتارے جا رہے تھے۔ وہ صفین میں ہم سے بے جگری سے لڑا جہاں ہمارے ہوسے میدان جنگ ایک جھیل کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا یہ اسی شخص کا بیٹا ہے اور قطعی اپنے باپ سے مشابہ۔ یقیناً آپ کو اس کے معاملہ میں ایک دن عفو و رحم

کے بدلے ندامت سے دوچار ہونا پڑے گا" سلط

فصاحت و بلاغت اور کلمات حکمت آمیز | فصاحت و بلاغت میں بھی حضرت عمر دین العاص کا پایہ بلند تھا۔ ادبیات عرب میں ان کے متعدد بلند پایہ اقبال اور علم و حکمت سے پڑ جانے متقول ہیں۔
ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے امیر معاویہؓ سے کہا۔

"نیک شخص اس وقت حمد کرتا ہے جب وہ بھوکا ہوتا ہے اور مکینہ اس وقت حمد کرتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے نیک آدمی کی بھوک دور کرو اور مکینہ کو قابو میں رکھو۔
مشام کلیبی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر معاویہؓ نے حضرت عمر دین العاص سے پوچھا کہ سب سے زیادہ بیخ شخص کون ہے۔ آپ نے جواب دیا جس کی رائے اس کی خواہشات انسانی کے اٹ بڑھتی ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا سب سے زیادہ سخی کون ہے؟
آپ نے جواب دیا جو شخص اپنی دنیا اپنے دین کی بہتری میں خرچ کرے۔ انہوں نے تیسری بار پوچھا سب سے زیادہ شجاع کون ہے؟ آپ نے جواب دیا "جو شخص اپنے علم سے ہمالت پر غالب آجائے"

میر نے اپنی کتاب کامل میں لکھا ہے :-

ایک مرتبہ حضرت عمر دین العاص نے عبد الملک بن مروان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے امیر معاویہؓ سے کہا میں نے تین باتیں اختیار کر رکھی ہیں اور تین باتوں کو ترک کر رکھا ہے۔ جو باتیں اختیار کر رکھی ہیں وہ یہ ہیں (۱) میں لوگوں کے دل ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہوں (۲) ہر شخص کی بات کان دھ کر سنتا ہوں (۳) جب کسی امر میں اختلاف پیدا ہو جائے تو جو امر زیادہ سہل ہوتا ہے اسے اختیار کرتا ہوں۔ جن باتوں کو ترک کر دیا ہے وہ یہ ہیں (۱) جھگڑے سے ہمیشہ پرہیز کرتا ہوں (۲) کینے کی صحبت کسی اختیار نہیں کرتا (۳) ہر ایسی بات سے بچتا ہوں جس کے متعلق مجھے بعد میں عذر و معذرت پیش کرنی پڑے۔ میری مثال اس شعر جیسی ہے :-

نَقَلْتُ لَهُ تَجَدَّبَ كُلَّ شَيْءٍ يُعَابُ عَلَيْكَ اِنَّ الْخُرْحُرَ حَسْبُ

میں نے اس سے کہا، تو ہر ایسی چیز سے پرہیز کر جس کی وجہ سے بعد میں تجھ پر عیب لگایا جائے یا درگاہ شریف آدمی ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جو فی الواقع شرفاء کو زیب دیتے ہیں،

عصر کی ادت کے زمانے میں ایک مرتبہ وہ ایسے فخر پر سوار ہوئے جو بے حد بڑھا ہوا چکا تھا۔ لگن نے ان سے کہا آپ امیر ہیں۔ اس کے باوجود ایسے فخر پر سوار ہوتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جب تک جلاز میرا بوجھ اٹھاتا ہے، جب تک میری محبوبہ سے طویش اخلاقی اور حسن سلوک سے پیش آتی رہے اور جب تک دوست میرے راز کی حفاظت کرتا رہے اس وقت تک میں ان تینوں سے نہیں ہٹتا۔

ان کا جھوٹے اخلاق میں سے ہے۔

ایک مرتبہ فرمایا۔

”مگر میں اپنا راز اپنے منہ داسے کے سامنے ظاہر کر دوں اور وہ اس کو ظاہر کر دے تو اسے اس کا حق ہے اور اس وقت قابلِ طاعت میں ہوں گا نہ کہ وہ“

لوگوں نے دریافت کیا ”یہ کیونکر“

انہوں نے فرمایا۔

”اپنے راز کی حفاظت کی ذمہ داری سب سے زیادہ مجھ پر عائد ہوتی ہے۔“

ایک مرتبہ فرمایا۔

”عقل وہ نہیں جو خیر و شر کی تمیز رکھتا ہو بلکہ عقلمند وہ ہے جو یہ جانتا ہو کہ دو برابروں میں سے کونسی نسبت کم بری ہے“

حلیہ حضرت عمرو بن العاص کا قد چھوٹا تھا لیکن اعضا نسبت مضبوط تھے اور ان کا جسم ہر قسم کی محنت و مشقت برداشت کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ ان کی پیشانی کشادہ اور آنکھیں سیاہ اور بولی ٹھنکیں۔ داڑھی پر سیاہ خضاب لگاتے تھے۔ چہرہ بڑا شاندار تھا اور بشرے سے سرداری اور سیاہوت کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے انہیں دیکھ کر فرمایا تھا کہ ابو عبد اللہ کا چہرہ تو واقعی کسی سردار کا معلوم ہوتا ہے۔ ان کی وقتِ حافظہ بڑی تیز تھی۔ عزم دار اور سے کے دشمنی تھے۔ نوے سال کی عمر میں بھی جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتے تھے تو اسے پورا کر کے چھوڑتے تھے۔

بلکہ نے اپنی کتاب میں النجوم الزاہرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص ہلکے تھے اور ان میں صرف یہی عیب تھا۔ لیکن خود کتاب النجوم الزاہرہ میں اس قسم کا کوئی عیب بیان نہیں ہوا بلکہ اس میں

صلہ اصل کتاب میں ابن عبد اللہ لکھا ہوا ہے جو صریح غلط ہے (محمد احمد)

سے یہ اوصاف ابن قتیبہ۔ ابن خلکان اور ابوالحسن کی کتابوں سے لے کر بیان کئے گئے ہیں۔

ہر لحاظ سے ان کی تعریف ہی کی گئی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ عمرو بن العاص اپنی حاضر جوابی، جودت فہم اور فصیح و بلیغ تقریر کی وجہ سے مشہور تھے۔ البتہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک بار کسی ہکٹے شخص کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص کو اور عمرو بن العاص کو ایک ہی فرشتے نے گھڑا ہے۔ لیکن اس قول سے بوضاحت یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عمرو بن العاص بھی ہکٹے تھے۔ ہو سکتا ہے حضرت عمرؓ نے اس ہکٹے شخص کی کسی اور صفت کی وجہ سے اسے عمرو بن العاص سے تشبیہ دی ہو۔

عادات و خصائل | حضرت عمرو بن العاص ابتداء ہی سے سرداری اور قیادت کے خواہش مند تھے۔ لوگوں کو راست وہ خود کرایا کرتے تھے اور آخر وقت تک ان کا یہی معمول رہا۔

مال و دولت سے انہیں بے حد محبت تھی۔ ان کے حسب مال کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کے بڑھاپے کے زمانے میں جبکہ بالعموم اس قسم کی خواہشات دب جایا کرتی ہیں، ایک مرتبہ امیر معاویہؓ نے ان سے پوچھا اے عمرو بن العاص! تمہاری کوئی خواہش ایسی بھی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! میری خواہش ہے کہ میں مال کو زمین میں بوئل اور اس کے نتیجہ میں زمین سے جو لہو نکلتے اس لہو سے میں درختوں کی طرح سیم و جواہر کے پھل لگے ہوئے ہوں اور میں ان سے جی بھر کر فائدہ حاصل کر دوں۔

مال و دولت کی اس غیر معمولی محبت کے باعث خلفاء راشدین ان سے ہمیشہ بدگمان رہے حتیٰ کہ حضرت عمرؓ نے تو ایک مرتبہ ان کا بہت سا مال ضبط بھی کر لیا تھا۔ حضرت عثمانؓ کے عہد میں ان کی ولایت مصر سے معزولی کا سبب بھی یہی ہوا تھا کہ امیر المومنین کو خیال تھا کہ عمرو بن العاص نے خراج کی کثیر رقم اپنے پاس رکھ لی ہے اور اسے بیت المال میں داخل نہیں کرایا۔

حضرت عمرو بن العاص میں بڑائی اور سلف رسکٹ کا مادہ بے حد پایا جاتا تھا اور یہ صفت ان میں بچپن سے لے کر آخر عمر تک برقرار رہا۔

پنے جذبات و عواطف پر قابو پانے میں بہت کم لوگ ان کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتے تھے۔ جمل میں وہ جذبات کی مطلق پروا نہ کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا اپنا ایک مغل بھی اس صفت کے مقابلے میں روشنی ڈالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں :-

پر پوری طرا ترین شخص وہ ہے جس کی مائے اس کی خواہشات کو دور کر دے اور بہادر ترین انسان وہ ہے جس کے اپنے جمل کو دور کر دے۔

عربوں کے نزدیک عرب کے عقل مند ترین انھیں چار سمجھے۔ عربوں نے ان چاروں کی خصوصیات مقرر کر رکھی تھیں جو ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے ممتاز کرتی تھی۔ چنانچہ وہ کہا کرتے تھے تمناؤں پر غور و فکر میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ عمرؓ و بن العاص کو حاضر جوابی میں کمال حاصل ہے مغیرہؓ مشکل امور کو حل کرنے میں اپنی نظیر آپ ہیں اور زیادہ ہر چھوٹے بڑے کام کو انتہائی خوشامدلی سے سرانجام دیتے ہیں جیسا ہے۔

مشکلات اور مصائب کے موقع پر حضرت عمرؓ و بن العاص ان کے انار کے لیے فوراً کوئی نہ کوئی تدبیر نکال لیتے تھے۔ ان کی زندگی میں اس کی ان گنت مثالیں موجود ہیں۔ خطرات کا زمانہ ہو یا امن و اطمینان کا، حضرت عمرؓ و بن العاص کا ذہن رسماً مشکل امور کو حل کرنے اور اُلجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے میں برابر مصروف رہتا تھا۔ ان کے دوست احباب بھی جب کسی مشکل مسئلہ کو حل کرنے سے عاجز آجاتے تھے تو اسے حضرت عمرؓ و بن العاص ہی کے سپرد کیا کرتے تھے اور وہ غٹوں میں اسے حل کر دیتے تھے۔ وہ عجیب و غریب ذکاوت و فطانت اور مضبوط عزم و ارادے کے مالک تھے۔ وہ اپنے دل میں کوئی بات چھپا کر نہ رکھتے تھے بلکہ برملا ظاہر کر دیتے تھے۔ ابن حجر عسقلانی ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کی نظر میں عمرؓ و بن العاص سے زیادہ کلام اللہ کا عالم اور شریف النفس انسان اور کوئی نہیں ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ حضرت عمرؓ و بن العاص مضبوط جسم اور زبردست عقل و خرد کے مالک تھے۔ مشکلات اور مصائب پر تاقور پانے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ ان کا عزم و ارادہ پہاڑ کی مانند تھا۔ وہ بہت بڑے بہادور تھے۔ میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں وہ جو تدبیر بھی اختیار کرتے تھے بڑے غور و فکر کے بعد اختیار کرتے تھے۔ دینی امور کی انجام دہی اور عبادات کی ادائیگی میں بہت کم لوگ ان کے ہم پلہ تھے۔ وہ پاک دامن اور شریف النفس انسان تھے۔ اپنے قبیلے میں ان جیسا نسیم اور عاقل انسان اور

۱۳ عرب کے ان چار عقلمند ترین اصحاب کے نام یہ ہیں (۱) حضرت معاویہ بن ابی سفیان (۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ (۳) حضرت عمرؓ و بن العاص اور زیادہ بن ابیہ۔ مؤخر الذکر تینوں حضرت معاویہؓ کے دست در باز اور ان کے زیر دست معاونوں میں سے تھے (محمد احمد)

۱۴ بعض روایات میں یہ قول خود حضرت عمرؓ و بن العاص کی طرف منسوب کیا گیا ہے جو انہوں نے کسی موقع پر حضرت معاویہؓ کے دربار میں کہا تھا۔

کوئی نہ تھا۔

گمانے سے انہیں بہت لگاؤ تھا۔ اگر گمانے کی آوازاں کے کانوں میں پڑ جاتی تھی تو اس سے پوری طرح لطف اندوز ہوئے بغیر انہیں چین نہ آتا تھا۔ شعر و شاعری سے بھی انہیں بہت شغف تھا۔ ان کی شخصیت بہت پرکشش تھی اور لوگ بے اختیار ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ اس کے نتیجے میں حضرت عمرو بن العاص ان سے باسانی ہر قسم کا کام لے لیتے تھے۔ ان میں ایک بہادر شاعر، متقی اور پارسیا النہان کی صفات مجتمع تھیں۔ ان کا ظاہر و باطن ایک جلیا تھا۔ جو بات انہیں کہنی ہوتی تھی بلا جھجک کہہ دیتے تھے۔ اور کسی شخص کی ناراضی کی مطلق پروا نہ کرتے تھے۔ ان کے پیش نظر ہمیشہ بلند مقاصد رہتے تھے اور ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کو تیار ہو جاتے تھے۔

حضرت عمرو بن العاص نے نوجوانی میں شام، حبشہ اور مصر کے متفرق سفر کیے تھے۔ ان سفروں کے دوران میں انہیں مختلف اقوام سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس چیز نے انہیں بے حد فائدہ پہنچایا۔ ان کے علم میں بے حد اضافہ ہوا، ذہنی افکار کو جلا ملی۔ مختلف علاقوں کے حالات اور دہاں کے رسم و رواج سے اچھی طرح واقفیت ہو گئی۔ ذہن صیقل ہو گیا اور دماغ میں جہالت کی تابیگی کا بجائے علم کی روشنی پھیل گئی۔

شجاعت۔ بے خوفی، بہت و استقلال، علم و حکمت، عقلمندی و نازداری کی جو صفات حضرت عمرو بن العاص میں جمع تھیں وہ مشاہیر عالم میں سے بہت کم لوگوں کے حصہ میں آئی ہیں۔ وہ کیتائے زمانہ انسان تھے۔ اپنی قوم میں جو مرتبہ انہیں حاصل تھا اور کسی کو حاصل نہ تھا۔ سرزمین عرب کو ان پر فخر تھا۔ وہ منجملہ ان ستونوں کے تھے جن پر عرب سیاست کی عمارت قائم تھی اور اس ستون کے ٹوٹنے سے عرب سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔

شغل تجارت | چونکہ عرب کی زمین بالعموم تیلی تھی۔ اس لیے وہاں عام طور پر زراعت نہ ہو سکتی تھی۔ اس مجبوری کے باعث اہل عرب نے اپنے لیے تجارت کا پیشہ اختیار کیا تھا۔ ان کے تجارتی قافلے جزیرہ نما عرب سے حبشہ، یمن، شام اور اطراف عراق میں جایا کرتے تھے۔ اس طرح انہیں ستمدن دنیا کے لوگوں سے میل جول بڑھانے اور ان کی تہذیب و ثقافت کا مطالعہ کرنے کا بہت اچھا موقع مل گیا تھا۔ چونکہ مکہ کا شہر یمن، شام اور حبشہ جانے والے راستوں کے درمیان واقع تھا اس لیے وہاں کے باشندوں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود بھی تجارت شروع کر دی اور بہت جلد اس پیشہ میں مہارت حاصل کر لی۔ قریش کے نوجوانوں کو تجارت کی ٹریننگ اسی طرح دی جاتی تھی۔ جس طرح جلی

علوم و فنون اور شہسواری کی تجارت کے لیے اہل کہ سال میں دو بار نکلا کرتے تھے۔ سردیوں میں ان کا سفر یمن کی جانب ہوتا تھا اور اسے "بہرحلۃ الشتاء" کہا جاتا تھا اور گرمیوں میں شام کی طرف اور اسے "بہرحلۃ الصيف" کہا جاتا تھا۔

حضرت عمر بن العاص کے باپ عاص بن وائل کا شمار بھی بڑے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ مکہ کے تجارتی قافلوں میں بیشتر سرمایہ عاص بن وائل کا لگا ہوا ہوتا تھا۔ اہل تجارت نے کبھی تو وہ خود باہر جانا تھا۔ اور کبھی کسی بھروسہ کے قابل شخص کے سپرد کر دیتا تھا جو اسے فروخت کئے ذمہ نافع اس کے حوالے کر دیتا تھا۔ قریش کے دیگر لوگوں کی طرح اس نے بھی اپنے بیٹوں کو تجارت کی ٹریننگ دینی شروع کی اور جب انہوں نے اس فن میں خوب مہارت حاصل کر لی تو دوسرے شخصوں کے سپرد اہل تجارت کرنے کی بجائے اس نے اپنے بیٹوں کو قافلوں کے ساتھ بھیجا شروع کر دیا۔ کنزی نے کتاب القضاة والولاة صفحہ ۷ میں لکھا ہے کہ عمر بن العاص عطریات کی تجارت کرتے تھے اور اس سلسلہ میں وہ اکثر شام، حبشہ، یمن اور مصر جاتے رہتے تھے۔ انہوں نے ان سفروں اور غیر توہم سے میل جول کے نتیجہ میں بہت زبردست فائدہ حاصل کیا۔ شہریت اور تہذیب تمدن کے درس انہوں نے ان سفروں ہی میں سیکھے۔ اس طرح یہ سفر ان کے لیے بہترین مدرسہ سے قیامت پورے جہاں وہ زندگی کے گوناگوں مسائل کا درس لیتے تھے اور جہاں انہیں مختلف لوگوں کے عادات و خصائل معلوم کرنے کا بہترین موقع ملتا رہتا تھا۔

عمر بن العاص کے سفر اسطیر مندرجہ بالا میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ عمر بن العاص کو تجارت کی خاطر متعدد دفعہ بیرونی ممالک کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ اس عہد ہم نونہ کے طور پر ان کے دو سفروں کا ذکر کریں گے جو انہوں نے عین عقیان شباب میں کیے اور جن کا شمار ان کے اہم ترین سفروں میں ہوتا ہے۔
۱۔ سفر حبشہ ۱۰ھ اذ حوالی کے ایام میں ایک مرتبہ عمر بن العاص کو حبشہ کا سفر درپیش ہوا۔ ان کے ساتھ بنو مخزوم کا ایک اور نوجوان عمار بن ولید (جو حضرت خالد بن ولید کا بھائی تھا) بھی تھا۔

۱۱ھ عہد جاہلیت کی تجارت پر وہ بیت اچھی کتابیں اردو میں لکھی گئی ہیں۔ ایک حکیم شمس اللہ قادری کی تجارت العرب قبل اسلام اور دوسری طب و ہند کے تعلقات از مولانا عبد سلیمان ندوی (محمد احمد پانی پتی)

۱۲ھ عمر بن العاص نے حبشہ کی جانب ایک اور سفر بھی کیا تھا جس کا ذکر ہم آگے چل کر اسلام کے بارے میں عمر بن العاص کا رفقہ کے باب میں کریں گے

عمردین العاص شادی شدہ تھے اور انہوں نے اپنی بیوی کو بھی سفر میں ہمراہ لے لیا تھا۔ عمارہ بہت ہی بدخلق اور بد نظرت نوجوان تھا۔ کشتی میں شراب بھی موجود تھی۔ عمارہ نے اتنی شراب پی کہ وہ بالکل مدہوش ہو گیا۔ اسی مدہوشی کی حالت میں اس نے عمردین العاص کی بیوی سے عشق و محبت کا اظہار کرنا اور اس کے قریب ہونا شروع کیا۔ بالآخر اس نے یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ وہ اسے بوسہ دے۔ یہ سب باتیں عمردین العاص کے سامنے ہو رہی تھیں لیکن وہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اس معاملے کو عقلمندی اور ہوشیاری سے سلجھانا چاہا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کوئی حرج نہیں۔ عمارہ تمہارا چچا زاد بھائی ہے۔ تم اس کا بوسہ لے لو خاندان کے کہنے پر بیوی نے عمارہ کا بوسہ لے لیا۔ عمارہ کی عقل اور سچی ماری گئی اور اس نے خیال کیا کہ عمردین العاص کی بیوی ضرور اسے چاہتی ہے۔ اس پر اس نے کلمہ کھلا اس کے متعلق عاشقانہ جذبات کا اظہار شروع کر دیا۔ جب اس نے عورت کی بے رخی دیکھی تو یہ سمجھا کہ وہ اپنے خاندان کے ڈر سے ایسا کر رہی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی راہ سے اس کا نٹے کو ہٹانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ وہ برازنک میں رہا اور ایک دن موقع پا کر عمردین العاص کو چپکے سے پانی میں دھکیل دیا۔ خوش قسمتی سے عمردین العاص تیرنا جانتے تھے۔ وہ تیر کر کشتی میں چڑھ آئے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے سمندر میں گر کر چھتیا چلانا شروع کر دیا اور ملاحوں نے انہیں کھینچ کر کشتی میں چڑھالیا، جب وہ دوبارہ کشتی میں پہنچے تو عمارہ نے اپنی بے وقوفی سے یہ فقرہ کہہ دیا: عمردین العاص! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم تیرنا جانتے ہو تو میں تمہیں کبھی سمندر میں دھکانہ دیتا! اس فقرہ سے عمردین العاص کو عمارہ کی بدبختی کا حال معلوم ہو گیا اور وہ اس سے انتقام لینے کے لیے کسی مناسب موقع کی انتظار میں رہنے لگے۔

عمارہ بے حد خوبصورت نوجوان تھا اور عورتیں ایک نظر دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتی تھیں۔ جب وہ سرزمین حبشہ میں پہنچے تو عمارہ نے اپنے حسن جہاں سوز سے نجاشی کی بیوی کو اپنے دام میں گرفتار کر لیا۔ اور وہ بلا روک ٹوک اس کے محل میں جانے لگا۔ عمارہ نے یہ تمام ماجرا عمردین العاص سے بھی بیان کر دیا اور ایک دن ثبوت کے طور پر نجاشی کے تیل کی ایک شیشی بھی لادی۔ شیشی کو دیکھ کر عمردین العاص

سارے بعض روایات میں ہے کہ عمارہ کو خود عمردین العاص نے بہلا پھسلا کر نجاشی کی بیوی کے پاس بھیجا تھا۔

سارے واقعات نے لکھا ہے کہ عمردین العاص نے عمارہ سے کہا تھا کہ میں تو اس وقت تک تمہاری باتوں پر یقین نہیں کر سکتا جب تک تم مجھے نجاشی کے روپڑے نہ لادو۔ چنانچہ عمارہ نے اسے نجاشی کے دو کپڑے لاد دیے۔ وہ کپڑے عمردین العاص نے جھٹ نجاشی کے سامنے پیش کر دیئے (افغانی جلد ۵ صفحہ ۵۰)

نے کہا " واقعی تم سچ کہتے تھے۔ تو نے ایسی چیز حاصل کی ہے جو آج تک کوئی عرب حاصل نہ کر سکا۔ بادشاہ کی بیوی سے اس طرح تعلق قائم کیا ہے کہ ہمارے ذہن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔"

اب انتقام لینے کا وقت آ پہنچا تھا۔ عمرو بن العاص اسی وقت نجاشی کے پاس گئے اور کہنے لگے تمہارا پتلا میرا چچا زاد بھائی انتہائی بے وقوف انسان ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنے ساتھ مجھے بھی کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے۔ میں اس کی کڑوت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ آپ کی کسی بیوی کے پاس گیا اور وہاں سے تیل کی یہ شیشی لگا کر مجھے دی ہے۔ یہ سن کر نجاشی نے تیل کو سد لگھا اور کہنے لگا تم سچ کہتے ہو یہ میرے استعمال کرنے کا تیل ہے اور میری بیویوں کے علاوہ اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ یہ کہہ کر نجاشی نے عمارہ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ایک جادوگر کو بھی بلا یا۔ جادوگر نے کچھ منتر پڑھ کر عمارہ پر پھونکے۔ جس کے باعث اس کے ہوش و حواس بالکل زائل ہو گئے اور وہ پہاڑوں اور بیابانوں کی طرف نکل گیا۔ اسی حالت میں پہاڑوں اور درختوں سے ٹکرا کر کچھ دنوں میں مر گیا۔

۲۔ سفر مصر | سلوٹلی نے اپنی کتاب حن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاهرہ (جلد ۲ صفحہ ۴۱) پر عمر بن العاص کے سفر مصر کا حال بڑے افسانوی طریقے سے بیان کرتے ہوئے لکھا ہے :-
" ایک مرتبہ عمرو بن العاص قریش کے چند لوگوں کے ہمراہ تجارت کے لیے بیت المقدس گئے۔ ایک روز وہ وہاں کے پہاڑوں میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے (اس زمانے میں دستور تھا کہ سفر میں باری باری ایک آدمی سارے قافلے کے اونٹ چرایا کرتا تھا)

۳۔ بعض روایات میں ہے کہ عمرو بن العاص نے نجاشی سے کہا میرا یہ ساتھی عورتوں کا بے حد دلدادہ ہے اور اس کی نظر آپ کے اہل خانہ پر ہے وہ اس وقت بھی وہیں بیٹھا ہوا ہوگا۔ نجاشی نے ایک آدمی کو بھیجا تو واقعی عمارہ نجاشی کی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شخص اسے نجاشی کے دربار میں لے آیا۔ نجاشی نے اس سے کہا " اگر یہ میرا مہمان نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ تاہم میں اس کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو قتل سے بھی بدتر ہوگا۔"

۴۔ اس واقعے سے دو باتوں کا علم ہوتا ہے اول عمرو بن العاص کی بے نظیر دانائی اور فہم و فراست کا جس سے کام لے کر انہوں نے اپنی بیوی پر بری نظر کھنے والے شخص کا خاتمہ کر دیا۔ دوم اس تعلق کا جو عمرو بن العاص کو نجاشی سے تھا۔ عمرو بن العاص نجاشی سے جو بات بھی کہتے تھے خواہ وہ اس کے اہل خانہ کے متعلق ہی کیوں نہ ہوتی تھی وہ اسے بہت غور سے سنتا تھا۔ نجاشی عمرو بن العاص کو دوست کہہ کر پکارتا تھا۔ حتیٰ کہ عمرو بن العاص کی اسلام کی طرف رہنمائی بھی نجاشی ہی نے کی تھی۔

کہ ادھر سے ایک آدمی گزر رہا جس کا نام شماس تھا۔ اس دن شدید گرمی تھی۔ شماس کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ عمرو بن العاص نے اسے اپنے مشکیزے سے پانی پلایا۔ سیر ہو کر پانی پینے کے بعد وہ وہیں لیٹ کر سو گیا۔ اس کے قریب ہی ایک گڑھا تھا، وہاں سے ایک بہت بڑا سانپ نکلا۔ عمرو بن العاص نے اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے کمان میں تیر جوڑا اور شست باندھ کر سانپ کی طرف چلا دیا۔ نشانہ ٹھیک بیٹھا اور سانپ کا سر اڑ گیا۔ جب شماس بیدار ہوا اور اسے اس واقعہ کا پتہ چلا تو اس نے عمرو بن العاص کے سر کو بوسہ دیا اور کہا "اے آپ نے مجھے دو بار رحمت کے منہ سے بچا یا ہے۔ ایک بار شدید پیاس سے اور ایک مرتبہ اس موذی سانپ کے ڈسنے سے۔ میں آپ کے اس احسان کا بدلہ کسی طرح ادا نہیں کر سکتا" پھر اس نے آپ سے پوچھا آپ کے نزدیک آپ کو اس سفر میں کتنا منافع ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا "جو مال میرے پاس ہے اسے فروخت کرنے سے مجھے کتنا منافع ہونے کی امید ہے"۔ اس نے پھر پوچھا "اے آپ کے ہاں مقتولین کا خون نہا کتنا دیا جاتا ہے؟" انہوں نے جواب دیا "سو اونٹ" شماس نے کہا "ہمارے ہاں اونٹوں کا نہیں بلکہ سگے کا رواج ہے۔ اس حساب سے بتائیے" انہوں نے جواب دیا "نقدی کے حساب سے خونہا ایک ہزار دینار کا ہوتا ہے" شماس نے کہا میں اس علاقے میں اجنبی ہوں۔ میں نے نذر مائی تھی کہ بیت المقدس میں آکر عبادت کر دوں گا اور ان پہاڑوں میں ایک ماہ تک گشت کر دوں گا۔ میں اس منت کو پورا کرنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ اب میں اپنے شہر واپس جانے والا ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ وہاں چل کر آپ کو خون بہا اور دوں گا۔ کیونکہ خدا نے مجھے آپ کے ذریعے سے دو مرتبہ زندہ کیا ہے۔ عمرو بن العاص نے پوچھا تم کس شہر کے رہنے والے ہو؟" اس نے جواب دیا "میں اسکندریہ کا رہنے والا ہوں جو مصر کا مشہور شہر ہے" عمرو بن العاص نے کہا "میں آج تک نہ تو کبھی ماں گیا ہوں اور نہ کبھی اس شہر کا نام سنا ہے" شماس نے کہا آپ وہاں چلیئے مجھے یقین ہے کہ آپ نے آج تک اس جعبیا اور کوئی شہر نہ دیکھا ہوگا" عمرو بن العاص نے کہا اگر تم مجھے یقین دلاؤ کہ تم نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر دے گا تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے مسئلہ پر غور کر سکتا ہوں۔ شماس نے کہا میں عہد کرتا ہوں کہ میں نے آپ سے جو کچھ کہا ہے اسے ہر حال میں پورا کر دوں گا۔ عمرو بن العاص نے پوچھا "تمہیں آنے جانے میں کتنا عرصہ لگے گا؟" شماس نے کہا "دس دن جانے میں لگیں گے۔ دس دن تک آپ کا اسکندریہ میں قیام ہوگا۔ اور دس دن واپسی میں صرف ہوں گے۔ میں یہاں سے آپ کو بحفاظت لے جاؤں گا اور واپسی پر بھی آپ کو آپ کے ساتھیوں کے پاس بحفاظت پہنچانے کا انتظام کر دوں گا" عمرو بن العاص

نے کہا اچھا تھوڑی سی مصلحت دو۔ میں ساتھیوں سے مشورہ کر لوں۔ چنانچہ وہ ساتھیوں کے پاس گئے اور انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا اور کہا کہ وہ ان کی واپسی تک ان کا انتظار کریں اور اپنے میں سے ایک شخص کو ان کے ساتھ کریں تو جو مال انہیں شامس سے ملے گا اس میں سے آدھا وہ ان میں بانٹ دیں گے۔ ان کے ساتھی مان گئے اور عمرو بن العاص ان میں سے ایک آدمی کو ہمراہ لے کر شامس کے ساتھ مصر روانہ ہو گئے۔ جب اسکندریہ پہنچے تو وہ شہر کی شاندار اور بلند دیوالا عمارات دہاں کی خوبصورتی، رونق اور مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر بہت متحیر ہوئے اور کہا میں نے اب تک ایسا عظیم نشان شہر نہیں دیکھا تھا۔

اتفاق یہ ہوا کہ جس دن عمرو بن العاص اسکندریہ پہنچے اس روز باشندگان شہر کوئی جشن منا رہے تھے جس میں شہر کے حکام اور رؤسا بھی شریک تھے۔ تمام لوگ ایک میدان میں جمع تھے۔ ان کے پاس سونے کی ایک چمکی گیند تھی جسے وہ ہوا میں اچھالتے تھے اور تمام لوگ آستینیں پھیلائے منتظر ہوتے تھے کہ کس شخص کی آستین میں وہ گیند گرتی ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ وہ گیند جس شخص کی آستین میں گرے گی وہ اس وقت تک زمرے کا حجب تک اسے اس شہر کی بادشاہی نہ مل جائے۔ اسکندریہ پہنچنے پر شامس نے عمرو بن العاص کو دیباچ کا لباس پہنایا اور نہایت تعظیم و تکریم سے اس جگہ لاکھڑا کر دیا۔ سونے کی گیند اچھالی جا رہی تھی۔ جب گیند اچھالی گئی تو وہ عمرو بن العاص کی آستین میں آگری لوگوں نے بڑے تعجب سے عمرو بن العاص کو دیکھا اور کہا کہ اس گیند نے اس مرتبہ کے سوا اور کبھی ہمیں دھوکا نہیں دیا۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ بدد ہمارا حاکم بن جائے؟ نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس کے بعد شامس نے شہر والوں کے پاس جانا شروع کیا اور انہیں بتایا کہ کس طرح عمرو بن العاص نے دو مرتبہ اس کی جان بچائی اور اس کے صلے میں اس نے انہیں دو ہزار دینار دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے وہ یہ رقم جمع کر دیں۔ شہر والوں نے بڑی خوشی سے دو ہزار دینار کی رقم جمع کر کے عمرو بن العاص کے حوالے کر دی۔ جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو شامس نے بڑے اعزاز و اکرام سے انہیں رخصت کیا اور دو آدمیوں کو بطور رہنما ان کے ساتھ کر دیا۔ اس طرح انہیں مصر کے راستوں سے بخوبی آگاہی ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مصر زر خیزی اور دولت و ثروت کے لحاظ سے اردگرد کے تمام علاقوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ جب وہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو وعدے کے مطابق ایک ہزار دینار ان میں تقسیم کر دیے اور ایک ہزار دینار خود رکھ کر کہا "یہ بھلا مال ہے جو میں نے جمع کیا ہے"

ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن نے اپنی کتاب "تاریخ عمرو بن العاص" میں سیوطی کے بیان کردہ اس قصہ کو من گھڑت اور ناقابل اعتبار بتایا ہے اور اپنی تائید میں مندرجہ ذیل دلائل دیئے ہیں۔

- ۱۔ کنذی نے لکھا ہے کہ عمرو بن العاص نے اوائلی عمر میں اسکندریہ دیکھا تھا اور وہ وہاں کے ماستروں اور شہروں سے خوب اچھی طرح واقف تھے کیونکہ وہ جاہلیت میں بسلسلہ تجارت کنی دقتہ مصر جا چکے تھے۔

- ۲۔ سونے کی گیند اچھا کر بادشاہ بنانے کا قصہ بالکل فرضی ہے کیونکہ تاریخ سے ہمیں کسی ایسے بادشاہ اور حاکم کا پتہ نہیں چلتا جو سیوطی کی بیان کردہ رہایت کے مطابق سونے کی گیند کے باعث مصر کا بادشاہ بنا ہو۔

- ۳۔ مصر کے حاکم براہ راست شہنشاہ روم کی جانب سے مقرر کیے جاتے تھے اور صرف وہی شخص حاکم بنا یا جاتا تھا جو اسکندریہ کا باشندہ ہو اور اسے رومی شہریت کے حقوق حاصل ہوں۔

- ۴۔ شام کی زبان یونانی یا قبلی تھی اور عمرو بن العاص اسے سمجھنے سے بالکل قاصر تھے۔ دوسری طرف شام عربی سے بالکل نا بلد تھا اور دونوں کے درمیان بات چیت کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔

- ۵۔ سیوطی کے بیان کے مطابق شام کو اسکندریہ والوں سے مانگ کر دو ہزار دینار کی رقم جمع کرنی پڑی۔ جب یہ رقم اس کے پاس تھی ہی نہیں تو اس نے عمرو بن العاص سے اس کے دینے کا حتمی وعدہ کس بنیاد پر کیا لکھا۔

ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن کی طرح عباس محمود العقاد نے بھی اپنی کتاب "ابن العاص" میں اس واقعہ کا انکار کیا ہے اور اسے من گھڑت اور ناقابل یقین بتایا ہے۔

عمرو بن العاص اور اسلام | اس دوران میں جبکہ اہل عرب معیمل کے مطابق پر سکون زندگی بسر کر رہے تھے یکایک کو میں ایک غلغلہ برپا ہوا اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی صدا بلند کر کے تمام عرب میں ایک ہیجان برپا کر دیا۔ آپ نے اعلان کیا کہ خدا نے اپنے نبی کو ہدایت دینے اور انہیں گناہوں اور ضلالت کی تاریکی سے نکال کر ان کے دلوں کو نور ایمان سے معمور کرنے کی خاطر مجھے مبعوث فرمایا ہے لہذا مجھ پر ایمان لاؤ اور تمہوں کی عبادت کو چھوڑ کر خدا کے واحد لاشریک کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔

اہل مکہ نے اس دعوت کو بڑی تشویش کی نظر سے دیکھا کیونکہ اس تحریک کی کامیابی کا مطلب یہ تھا کہ ان کے صدیوں پرانے رسوم و رواج اور آباؤی عقائد پر مکمل تباہی آجائے۔ اس لئے وہ پورے جوش و خروش

سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اس نئے دین کو مکہ میں ہرگز پھیلنے پھولنے نہ دیں گے۔ اسلام کے شدید ترین معاندین میں عمر بن العاص کے والد اور بنو سہم کے سردار عاص بن وائل کا نام سرفہرست ہے۔

اپنے باپ کے ساتھ عمر بن العاص نے بھی اسلام کی مخالفت میں کوئی کسر اٹھانا رکھی ظہور اسلام کے وقت ان کی عمر چونتیس سال کی تھی۔ انہوں نے صحت یہ کہ دیگر مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ایذا میں پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ بلکہ وہ اس مشورہ میں بھی شریک تھے جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانان مکہ کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا اور جہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ناقابل برداشت صحاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس اجتماع کی کسی قدر تفصیل درج ذیل ہے۔

جب اہل مکہ کی شدید مخالفت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ حق کے فریضے سے باز نہ آئے اور آپ کے تبعین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا تو قریش کو بڑی تشویش لاحق ہوئی اور انہوں نے اہلحرم میں جو کنانہ کے ہاں ایک مجلس مشاورت منعقد کی جس میں یہ قرار پایا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے بنو ہاشم سے جو اس مجلس میں موجود تھے کہا کہ محمد نے ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں میں فساد ڈال دیا ہے لہذا مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے تاکہ یہ عداوت ختم ہو۔ تم ہم سے اس کے بدلے کوئی گناہ نہ لے لو اور ہمیں اسے قتل کرنے دو تاکہ ہم اس مصیبت سے نجات پا سکیں اور تم بھی آرام اور چین سے بیٹھ سکو۔ لیکن بنو ہاشم نے یہ تجویز قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر قریش نے غضبناک ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کر دیا جائے اور انہیں مکہ سے باہر نکال کر شعب ابی طالب میں محصور کر دیا جائے۔ مکہ کا کوئی قبیلہ ان سے کسی قسم کا علاقہ نہ رکھے۔ ذان سے صلح کی جائے اور نہ کسی قسم کی نرمی کا سلوک کیا جائے۔ جب تک وہ محمد کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کریں۔ چنانچہ اسلکس مضمون پر مشتمل ایک دستاویز لکھی گئی اور اسے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ اس پر بنو ہاشم اور بنو مطلب کو با مجبوری مکہ سے نکل کر شعب ابی طالب

۱۔ سیرۃ الحلیبیہ میں لکھا ہے کہ دستاویز میں یہ عبارت مندرج تھی: "بنو ہاشم کو روکیاں دو اور نہ ان کی کوئی لڑکی۔ ذان

کے ہاتھ کوئی چیز نہ دہنت کر و اور نہ ان سے کوئی چیز خریدو۔ اور ان سے کسی قسم کی صلح مت کرو۔"

۲۔ مسابہہ کو خانہ کعبہ میں اس غرض سے لٹکا دیا گیا تاکہ قریش کے تمام قبائل صحیحی سے اس پر کاربند رہیں۔ (باقی اگلے صفحہ)

میں محصوری کی زندگی گزارنی پڑی۔ صرف ابولہب ایسا شخص تھا جس نے قریش کے مقابلے میں اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ یہ واقعہ محرم سنہ نبوی کا ہے۔

صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اس محاصرہ کے باعث بنو ہاشم کی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ انہیں درختوں کے پتے چبانے پر مجبور ہونا پڑا۔ سہیلی نے لکھا ہے کہ جب مکہ میں کوئی قافلہ آتا تو شعب ابی طالب کے محصورین میں سے کوئی شخص بازار میں آکر سامان خورد و نوش خریدنا چاہتا۔ لیکن ابولہب کھڑا ہو جاتا اور کہتا:-

آسے گروہ تجار احمد کے ساتھیوں کو اپنی چیزوں کی اتنی گراں قیمت بتاؤ کہ وہ کسی طرح بھی انہیں خریدنے کی جرأت نہ کر سکیں۔ اس طرح تمہارا جس قدر نقصان ہو گا وہ میں پورا کروں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کس قدر مال دار ہوں اور یہ بھی پتہ ہے کہ میں ذلے سے کاکس قدر پاس کرتا ہوں چنانچہ ابولہب کے یہاں پر تاجرا اپنے مال کی قیمت کئی گنا بڑھا دیتے اور شعب ابی طالب سے آنے والے کس و بے بس شخص حسرت و یاس کے ساتھ اپنے بھوک سے پلکتے ہوئے بچوں کے پاس خالی ہاتھ چلا جاتا۔ اگلے روز تجار ابولہب کے پاس جاتے اور وہ معقول منافع دے کر ان کا مال خرید لیتا۔

جب مسلمانوں پر قریش کے مظالم ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ جیشہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ تمیل ارشاد میں تراسی مردوں اور اٹھارہ عورتوں کا قافلہ مکہ سے بجانب جیشہ روانہ ہو گیا۔ مردوں میں سے جعفر بن ابی طالب، مقداد بن الاسودؓ اور بن مسعود اور عبید اللہ بن جحش کے نام قابل ذکر ہیں۔

بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعریؓ بھی اس قافلہ میں شامل تھے۔ لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ پچاس آدمیوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی غرض سے یمن سے کشتی میں سوار ہو گئے۔ لیکن طوفان نے انہیں عرب کی سرزمین پر اتارنے کی بجائے جیشہ کی سرزمین پر لا ڈالا۔ اس طرح وہ بھی ان مہاجرین کے ساتھ مل گئے جو مکہ سے جیشہ

بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۷؛ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ دستاویز ابوجہل کی خالہ کے پاس تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے خالوہ میں لٹکانے سے قبل اس کے پاس رکھوایا گیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی کئی نقیوں کی گئی ہوں اور ایک نقل ابوجہل کی خالہ کے پاس بھی ہو۔

آئے تھے۔ عورتوں میں سے جنہوں نے ہجرت کی ان میں سے بنت عمیس زوجہ جعفر بن ابی طالب اور ام حبیبہ بنت ابی سفیان زوجہ عبداللہ بن حبش کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان ہاجرین کی واپسی فتح خیبر کے موقع پر ہوئی۔

ہاجرین کے اس پہلے گروہ کی مجلس میں خوب پذیرائی ہوئی اور یہ لوگ نجاشی کے زیر سایہ آرام اور اطمینان کی زندگی گزارنے لگے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ مسلمان ہاجرین مجلس میں پُر امن زندگی بسر کر رہے ہیں اور بلا خوف و خطر خدائے واحد کی پرستش کر رہے ہیں تو انہیں بڑا خطرہ محسوس ہوا۔ انہیں خیال پیدا ہوا کہ جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دیگر تبعین کو اپنے صحابیوں کی پُر آسائش زندگی کا حال معلوم ہوگا تو وہ بھی بھاگ کر مجلس چلے جائیں گے اور وہاں آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھا کر مکہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔

اس واقعہ سے مشرکین کو کاغیظ و غضب اس حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ آئندہ کے لیے مسلمانوں پر مجلس کا ماسہ مسدود کرنے کی کوشش کی بلکہ جو لوگ ہجرت کر کے وہاں پہنچ چکے تھے انہیں واپس لانے کی تدابیر بھی شروع کر دیں۔

مسلمانوں کو مجلس سے واپس لانا اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک نجاشی انہیں اپنے ملک سے نکالنے پر آمادہ نہ ہو جاتا۔ نجاشی کو اپنے دھب پر لانے کے لیے ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جس کا عقلمندی، دور اندیشی اور حسن تدبیر میں جواب نہ ہو۔ اس غرض کے لیے اُن کو عمرو بن العاص سے بہتر آدمی ملنا مشکل تھا۔ چنانچہ اس اہم کام کی بجا آوری انہی کے سپرد کی گئی۔ عمرو بن العاص نے روانگی سے قبل چند قیمتی تحفے فراہم کیے۔ جن میں سے بعض نجاشی کے لیے تھے اور بعض اس کے وزیروں

سے بعض لوگوں کے دلائل میں یہ سلا پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا کہیں حکم دیا اور اس غرض کے لیے دوسرے عرب علاقوں مثلاً حبشہ، عسوان اور یمن پر آپ کی نظر انتخاب کبھی نہ پڑی۔ مؤرخین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ عرب اور حبشہ کے درمیان پہلے سے تجارتی تعلقات قائم تھے اور اہل حبشہ عربوں سے خوب واقف تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حبشہ آزاد و درختدار سیلی ملک تھا جبکہ حبشہ اور یمن کے کسی جڑی اذہب ایرانیوں اور عسوانی سیسی رومی سلطنت کے ماتحت تھے۔ اور یہ لوگ بطور خود کسی ایسے مذہب کی حمایت کرنے کی جرأت نہ کر سکتے تھے جہاں کے آقاؤں کے دین کے مخالف اور مخالف تھے۔

اور حاشیہ نشینوں کے لیے۔ ذریعوں اور حاشیہ نشینوں کو تحفے دینے سے غرض یہ تھی تا وہ بادشاہ کے سامنے ان کے مطالبے کی حمایت کریں۔

حبشہ پہنچنے پر عمرو بن العاص نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئے۔ سب سے پہلے اسے سجدہ کیا اور پھر وہ تحفے پیش کیے جو وہ مکہ سے لائے تھے۔ نجاشی نے تحفے قبول کر لیے اور حبشہ آنے کی غرض و غایت دریافت کی۔ عمرو بن العاص نے کہا ”مجھے میری قوم نے آپ کی طرف بھیجا ہے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ آپ عادل بادشاہ ہیں اور کوئی ظالم آپ کے علاقے میں نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد نجاشی اور عمرو بن العاص کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ درج ذیل ہے:-

نجاشی: عمرو بن العاص تم سچ کہتے ہو میرے ملک میں کوئی مجرم اور ظالم نہیں رہ سکتا..... کیا کسی نے تم پر زیادتی کی ہے؟

عمرو بن العاص: جہاں پناہ! آپ کا خیال درست ہے۔

نجاشی: مجھے تو یقین نہیں کہ کسی نے تم پر ظلم کیا ہو۔ کیونکہ اہل حبشہ غیر ظالموں کا احترام کرتے ہیں اور کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔

عمرو بن العاص: جہاں پناہ! وہ لوگ اہل حبشہ میں سے نہیں ہیں

نجاشی: جب وہ لوگ اہل حبشہ میں سے نہیں ہیں تو میں ان کے متعلق کیا کر سکتا ہوں

عمرو بن العاص: جہاں پناہ! وہ ظالم اور مجرم لوگ آپ کے علاقے میں موجود ہیں۔

نجاشی: میرے علاقے میں؟ مجھے ہرگز یقین نہیں ہے کہ میرے علاقے میں کوئی ظالم موجود ہوگا۔

ہم ظالموں کو اپنے ہاں ہٹنے ہی نہیں دیتے۔ آخر تم نے کیسے گمان کر لیا کہ سرزمین حبشہ میں ظالم لوگ بھی رہتے ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کس جگہ ہیں؟

عمرو بن العاص: جہاں پناہ! وہ لوگ حبشی نہیں ہیں بلکہ عرب ہیں۔

نجاشی: عرب؟

عمرو بن العاص: جی ہاں جہاں پناہ! وہ ہمارے رشتے دار ہیں اور ہم سے اور ہمارے مسودوں

سے برگشتہ ہو کر آپ کے ہاں آ گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا بلکہ خود ہی ایک نیا دین

گھڑ لیا ہے۔ قریش نے آپ کے پاس اپنے سزورترین آدمی اس غرض سے بھیجے ہیں کہ آپ انہیں واپس کر لیں

نجاشی: مگر وہ ہیں کہاں؟

عمرو بن العاص: وہ اس شہر میں موجود ہیں۔ چونکہ انہیں یہاں امن اور اطمینان نصیب ہو گیا ہے اس لیے وہ یہیں مقیم ہو گئے ہیں۔ اب ان کے دوسرے بھائی بند بھی ان کے پاس پہنچنے کی فکر میں ہیں۔ نجاشی: خدا کا شکر ہے کہ میرا ملک مظلوموں کے لیے کموں اور خوف زدہ لوگوں کی پناہ گاہ ہے۔ عمرو بن العاص: حضور! وہ مظلوم نہیں بلکہ ظالم ہیں۔

نجاشی: عمرو بن العاص! میں تو تمہیں بڑا عقلمند سمجھتا تھا۔ بھلا کبھی ظالم بھی اس طرح خوف کے مارے بھاگا بھاگا پھرا کرتا ہے؟

اس موقع پر بادشاہ کے درباریوں اور امراء و وزراء نے مداخلت کی اور نجاشی سے عرض کی جہاں پناہ! مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیجئے۔ کیونکہ ان کے حالات سے یہ اچھی طرح واقف ہیں۔

بادشاہ نے کہا یہ کبھی نہیں ہو گا۔ جب تک مجھے بطور خود ان کے حالات کا اچھی طرح علم نہیں ہو جائے گا۔ اس وقت تک میں کبھی انہیں ان لوگوں کے حوالے نہ کر سکتا ہوں گا۔

عمرو بن العاص نے کہا: دو دن بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں اور نہ اس کے آگے کو نش بجالاتے ہیں۔ کیونکہ ان کے مذہب نے انہیں اس بات کی ممانعت کی ہوئی ہے اور ان کا مذہب آپ کے مذہب سے اور ان کے طریقے آپ کے طریقوں سے بالکل مختلف ہیں۔

نجاشی نے عمرو بن العاص کی باتوں پر کان نہ دھرا اور ایک آدمی کو مسلمانوں کے بلانے کے لیے بھیجا۔ نجاشی کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے مسلمانوں نے باہم تصفیہ کر لیا تھا کہ ان کی طرف سے جعفر بن ابی طالب نجاشی سے گفتگو کریں گے۔

دریں اثنا نجاشی نے اپنے اسقف اعظم اور دوسرے پادریوں کو بھی دربار میں بلالیا تھا اور وہ اپنی کتابیں کھولی کر نجاشی کے گرد بیٹھ گئے تھے۔

جب جعفر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہنچے تو انہوں نے پکار کر کہا جعفر دروازہ پر موجود ہے اور وہ دربار میں حاضر ہونے کا طلب گار ہے اس کے ساتھ "حزب اللہ" (خدا کی جماعت) بھی ہے۔

۱۰ جب نجاشی کا ناصد مسلمانوں کے پاس آیا تو دربار میں جانے سے پہلے سب مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے اور مشورہ کرنے لگے کہ نجاشی سے کیا بات چیت کی جائے۔ جعفر نے کہا: تم صبح کی طرف سے میں بات کروں گا اور اس سے وہی باتیں کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں اور جن کا میں حکم دیا ہے۔

نجاشی نے جواب دیا: "ہاں! آپ سب لوگ بے شک اللہ کی امان اور اس کی ذمہ داری کے ساتھ دربار میں آجائیں۔"

چنانچہ جعفرؓ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دربار میں داخل ہو گئے۔ جب نجاشی کے سامنے پہنچے تو جعفرؓ نے اسے سلام کیا۔

یہ ماجرا دیکھ کر عمرو بن العاص نے اپنے ساتھی سے کہا: "تم نے دیکھا کہ کس طرح جعفرؓ نے اپنے ساتھیوں کو حزب اللہ قرار دیا اور نجاشی نے اس کو کس قدر نرمی کے ساتھ جواب دیا؟ اس کے بعد وہ نجاشی کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے: "جہاں پناہ! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ لوگ کس قدر متکبر اور مغرور ہیں۔ انہوں نے کدیش بجالانا بھی پسند نہیں کیا۔" نجاشی نے جعفرؓ سے پوچھا: "تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا اور اس طرح مجھے سلام کیوں نہیں کیا جس طرح عام طور پر کیا جاتا ہے؟" جعفرؓ نے جواب دیا: "ہم مسلمان لوگ اللہ عزوجل کے سوا اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔" نجاشی نے پوچھا: "کیوں؟" جعفرؓ نے جواب دیا: "کیونکہ اللہ ہی نے ہم میں اپنا ایک رسول بھیجا ہے جس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کو سجدہ نہ کریں۔ اسی طرح اس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جب جنتی آپس میں ملیں گے تو السلام علیکم کہہ کر ایک دوسرے سے خطاب کریں گے۔ ہم نے بھی آپ کو مخاطب کرتے ہوئے یہی الفاظ استعمال کیئے۔ اس رسولؐ نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے۔"

اس سوال و جواب کے بعد عمرو بن العاص نجاشی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے:۔

۱۰ اس موقع پر عمرو بن العاص کا ساتھی عمارہ بن ولید تھا۔ اس کی تائید جعفرؓ نے ابی طالب کی اس رعایت سے بھی ہوتی ہے جو ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ یا مرقاہ بن زکریا نے کہا ہے کہ عمارہ بن ولید وہی زویان تھا جسے قریش نے ابی طالب کی خدمت میں پیش کر کے کہا تھا کہ یہ مکہ کا سب سے حسین اور خوب روڑ جوان ہے تم اسے اپنے پاس رکھ لو اور محمد کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے کر دو۔ اس پر ابی طالب نے جواب دیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ غیر کے بچے کو لے کر پرورش کروں اور اپنا بچہ پرورش کرنے کے لیے تمہارے حوالے کر دوں۔ خدا کی قسم ایسا کبھی نہ ہوگا۔

۱۱ السیرۃ العلییہ جلد اول میں لکھا ہے کہ جعفر کا مطلب نانائے صوفی اور دو رکعتیں شام پڑھنا تھا۔ موجودہ صورت میں نانائے صوفی نہ ہوتی تھی۔ اسی طرح زکوٰۃ سے ان کا مطلب پاکیزگی تھا۔ کیونکہ زکوٰۃ شہرہ میں دینے میں فرض ہوتی ہے۔

جہاں پناہ: ابن ربیع کے بارے میں یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے نہیں تھے؟

نجاشی نے جعفرؓ سے پوچھا تم لوگ ابن مریم اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
جعفرؓ نے جواب دیا ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کا کلمہ تھے جسے اس نے پاک و امن مریم پر نازل کیا تھا۔

نجاشی نے یہ سن کر اپنے ارد گرد بیٹھنے والے پادریوں اور ماہیوں سے پوچھا:-
میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر جس نے عیسیٰ پر انجیل نازل کی ہے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہاری کتابوں میں حضرت عیسیٰ اور قیامت کے درمیان کسی نبی کے آنے کا ذکر ہے؟
انہوں نے جواب دیا جہاں پناہ! یقیناً ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ہمیں اس رسولؐ کے آنے کی خوشخبری دی ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص اس پر ایمان لایا دراصل محمدؐ پر ایمان لایا اور جس نے اس کا انکار کیا اس نے دراصل میرا انکار کیا۔

نجاشی نے کہا: اگر میں بادشاہ نہ ہوتا اور حکومت کی ذمہ داریاں میرے سر پر نہ ہوتیں تو میں یقیناً اس شخص کے پاس جاتا اور اس کی جو تیریاں اٹھا کر اپنے سر پر رکھنے میں فخر محسوس کرتا۔
اس کے بعد وہ مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا تم حبشہ میں جہاں جا ہو رہو۔ تمہیں پوری طرح امن حاصل ہو گا۔

اپنے اہل کاروں کو اس نے حکم دیا کہ ان مسلمانوں کے کھانے پینے اور آرام و آسائش کا پورا خیال رکھا جائے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر کسی شخص نے ان لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائی تو وہ میری نافرمانی کے جرم کا مرتکب ہو گا۔

اس کے بعد اس نے عمر بن اعصاب کے دینے ہوئے تحفے منگوائے اور انہیں واپس کرتے ہوئے کہا:-
”مجھے سونے کا گھر بنانے کی خواہش نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ہدیے واپس کر دو۔ کیونکہ مجھے ان کی عزت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی قسم! جب اللہ نے مجھے میرا ملک واپس کرتے ہوئے مجھ سے رشوت نہیں لی تو میں رشوت کیوں لوں؟“

۱۔ حضرت عائشہ نے نجاشی کے اس قول کی تشریح اس طرح فرمائی ہے:-

نجاشی کا باپ حبشہ کا بادشاہ تھا۔ لوگوں نے بغاوت کے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی عیال کے بھائی یعنی نجاشی کے (باقی اگلے صفحہ پر)

اسی طرح حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کو باضابطہ طور پر سرزمین حبشہ میں امن وامان اور سکون و اطمینان سے رہنے کی اجازت مل گئی۔

ذیل میں ہم حضرت جعفرؓ کی زبانی جعفر بن عمرو بن العاص اور نجاشی کی ملاقات کا حال بیان کرتے ہیں:-
 جب ہم مکہ سے سرزمین حبشہ میں وارد ہوئے تو وہاں ہمارا واسطہ نیک لوگوں سے پڑا جنہوں نے ہمیں اپنی دینی عبادت بجالانے کی پوری آزادی دے دی اور ہمیں ہر طرح کا امن حاصل ہو گیا۔ نہ کوئی ہمیں تکلیف دیتا تھا اور نہ کوئی ایسی بات ہمارے سامنے کہتا تھا جو ہمیں بُری لگے۔ جب قریش کو یہ حال معلوم ہوا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حبشہ سے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے دو ہوشیار اور چالاک آدمیوں کو بھیجا جائے جو نجاشی کو اپنے ڈھب پر لانے کے لیے عمدہ عمدہ تحفے بھیج کر سے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس زمانہ میں سب سے عمدہ تحفہ حمیرا خیال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بہت سا چمڑا اکٹھا کیا اور وہاں کے پادریوں کے لیے بھی عمدہ عمدہ تحفے اکٹھے کیے اور عمرو بن العاص اور عمار بن ولید کو ان تحفوں کے ہمراہ حبشہ بھیجا دیا۔ یہ دونوں حبشہ پہنچنے پر سب سے پہلے وہاں کے پادریوں اور مسکونوں سے ملے اور ان کی خدمت میں تحفے پیش کر کے درخواست کی کہ جب ہم باوثقہ سے مسلمانوں

بقیہ حاشیہ ص ۶۳ :- چچا کو تخت پر بٹھا دیا۔ نجاشی کے چچا کے بارہ لڑکے تھے لیکن ان میں سے کوئی حکومت اور سلطنت کی لیاقت نہ رکھتا تھا۔ جب اہل حبشہ کو نجاشی کی شرافت اور لیاقت کا علم ہوا تو انہیں حدیث ہو کہ اگر کہیں یہ اپنے چچا کے بعد حکومت پر قابض ہو گیا تو ہم سب کو اپنے والد کا انتقام لینے کی غرض سے قتل کر ڈالے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے چچا سے اس کے قتل کرنے کے لیے کہا لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، تاہم اسے شاہی محل سے نکل کر کسی کے ہاتھ بطور نعام بیچ ڈالا۔ ایک رات کو اس کے چچا پر بجلی گری اور وہ مر گیا۔ اب حبشہ میں نجاشی کے سوا کوئی شخص لیاقت تھا جو حکومت سنبھالنے کا اہل ہوتا۔ چنانچہ سلطنت کے سرکردہ لوگ نجاشی کے آقا کے پاس گئے۔ مسقول حقیقت ان کے اسے آزاد کرایا اور اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر کے اس کی تاجپوشی کی۔ نجاشی نے بول لینے کی بجائے ہی سے درگزر کیا اور بہت زری سے حکومت کرنے لگا۔ بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے نجاشی کو خرید لیا تھا وہ عرب تھا۔ وہ اسے اپنے علاقے میں لے گیا۔ کافی مدت تک نجاشی اس کے پاس رہا۔ بالآخر اہل حبشہ اس کے آقا کے پاس آئے اور اسے آزاد کرانے کے لیے اپنے ہمراہ حبشہ لے گئے اور وہاں اس کی تاجپوشی عمل میں آئی۔

کی واپسی کے متعلق گفت و شنید کریں تو آپ ہماری پوری پوری حمایت کریں۔ تمام بادریوں نے پرزور وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ نجاشی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تحفے پیش کرنے کے بعد عرض کیا۔

”اے بادشاہ! حضور کے علاقے میں ہمارے بعض بے وفوف نلام آگئے ہیں۔ جنہوں نے اپنا دین ترک کر دیا ہے اور ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے جو ہمارے اور آپ کے دینوں سے قطعاً مختلف ہے اس نئے دین کی بنیاد (نعوذ باللہ) ایک کذاب شخص نے رکھی ہے جو ہماری ہی قوم کا ایک فریبے اور اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے۔ چند بے وفوف لوگوں کے سراہم میں سے کسی نے بھی اس کی پیروی اختیار نہیں کی۔ اب ہماری قوم نے ہمیں اس غرض سے بھیجا ہے کہ انہیں آپ سے وراثت کر کے واپس لے آئیں۔“ حسب قرار داد بادریوں نے بھی جو دربار میں حاضر تھے ان کی تائید کی اور کہا۔

”اے بادشاہ! یہ دونوں سچ کہتے ہیں۔ ان (مسلمانوں) کے حالات کو ان کی قوم بہتر جانتی ہے۔ لہذا آپ انہیں ان دونوں کے حوالے کر دیں تاکہ وہ انہیں واپس اپنے ملک میں لے جائیں۔ پھر وہ جانیں اور ان کی قوم۔“

یہ سن کر نجاشی کو بے حد غصہ آیا اور اس نے کہا۔

”خدا کی قسم! میں ان لوگوں کو جنہوں نے دوسروں کو چھوڑ کر میری پناہ ڈھونڈ لی ہے اور دوسرے علاقوں میں جانے کی بجائے میرے علاقوں کو مان سمجھ کر یہاں رہائش اختیار کر لی ہے، اُس وقت تک ان دونوں کے حوالے نہ کروں گا جب تک انہیں اپنے دربار میں بلا کر ان کے متعلق پوری تحقیقات نہ کر لوں، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ بلا کسی وجہ کے یہاں آگئے ہیں تب تو میں انہیں ان کے حوالے کر دوں گا ورنہ صلوات انکار کروں گا اور جب تک وہ لوگ میرے ہاں رہنا چاہیں گے میں انہیں اچھی طرح اپنے ہاں رکھوں گا۔“

چنانچہ اس نے ہمیں بلایا، ہم نے دربار میں حاضر ہو کر اسے سلام کیا۔ درباریوں میں سے ایک کہنے لگا تم نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا ہم اللہ عزوجل کے سوا اور کسی کو سجدہ نہیں کیا کرتے۔ اس کے بعد نجاشی میری طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا۔ ”وہ کونسا دین ہے جس کے باعث تم نے اپنی قوم کا دین ترک کر دیا ہے اور اپنی قوم کے دین کو چھوڑ کر ہمارے دین یا کسی اور دین میں داخل نہیں ہوئے؟“ ہم نے عرض کیا اے بادشاہ! ہم جہالت کی زندگی گزارتے تھے۔ بتوں کی پرستش کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے باسلوک کرتے تھے، طاقتور آدمی کمزور آدمی پر ظالم دستم ڈھانا اپنا حق سمجھتا تھا۔ ہم اسی گندگی کی حالت میں پڑے ہوئے

تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت پر رحم کرتے ہوئے ہم میں ایک رسول مبعوث فرمایا جس طرح اس نے اس سے قبل اور بھی رسول مبعوث فرمائے تھے۔ ہم اس رسول کے حسب و نسب اصدق و امانت اور پاک و امنی سے خوب واقف تھے۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہایا اس کی توحید کی طاعت و عبادت دی اور اس کی عبادت کی تلقین کی۔ ہمارے باپ فادان بن تہوں اور سبقتوں کو پوجتے تھے ان کی عبادت سے منع کیا۔ اس نے حکم دیا کہ ہم اس خدا کی پرستش کریں جو وحدہ لا شریک ہے۔ نماز پڑھیں۔ زکوٰۃ دیں۔ ہمیشہ سچی بولیں۔ امانت میں خیانت نہ کریں۔ ہمدردی کریں۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ناحق خون بہانے سے پرہیز کریں۔ بے حیائی کے کانوں کے قریب نہ جائیں۔ جھوٹ سے سخت نفرت کریں۔ تھیم کا مال نہ کھائیں۔ پاک و امن عورتوں پر تمہمت نہ لگائیں۔ ہم نے اس کی ان باتوں کی تصدیق کی، اس پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت اختیار کی۔ اس پر ہماری قوم نے ہم پر ظلم و ستم توڑنا شروع کر دیا تاکہ ہم تنگ آکر دوبارہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں۔ اور جن بڑی باتوں کو ہم نے اسلام لانے کے بعد ترک کر دیا تھا انہیں دوبارہ اختیار کر لیں۔ جب ان کے ظلم و ستم کا سلسلہ بہت لمبا ہو گیا اور ہمارے لیے کوئی چارہ کار باقی نہ رہا تو سخت مجبوری کی حالت میں مکہ سے ہجرت کرنے آپ کے ملک میں چلے آئے اور دوسرے بادشاہوں کی بجائے آپ کے سایہ میں رہنے کو ترجیح دی۔ اے بادشاہ ہمیں امید ہے کہ آپ کی مملکت میں ہم پر ظلم نہ ہو گا۔

میری تقریر سن کر نجاشی نے کہا "اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول پر جو وحی نازل کی ہے کیا اس کا کوئی حصہ تمہیں یاد ہے؟" میں نے عرض کیا جی ہاں یاد ہے۔ اس نے کہا مجھے سناؤ "چنانچہ میں نے اسے سورۃ ریم کی چند آیات سنائیں جنہیں سن کر اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگا اور اس کی داڑھی آسودوں سے تر ہو گئی۔ جو پادری دربار میں موجود تھے وہ بھی آیات سن کر رونے لگے اور انہوں نے کہا "اے جعفر اس پاک کلام میں سے ہمیں کچھ اور سننا۔" نجاشی نے کہا "خدا کی قسم اس وحی کا اور موسیٰ کی وحی کا بیچ ایک ہی ہے" (بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ اس وحی کا اور موسیٰ کی وحی کا بیچ ایک ہی ہے) میں نے نجاشی سے کہا "آپ ان دونوں سے پوچھیے کیا ہم غلام میں یا آزاد ہیں۔ اگر ہم غلام میں تو بے شک ہمیں ہمارے مالوں کے پاس نہ پس بھیج دیجئے" عمر بن العاصی نے کہا "نہیں یہ آزاد ہیں۔ میں نے دوبارہ نجاشی سے کہا "ان دونوں سے پوچھیے کہ کیا ہم نے ان میں سے کسی کا ناحق خون بہایا ہے جس کا انتقام لینے کے لیے یہ یہاں آئے ہیں۔ یا ہم نے ناحق کسی کا مال غصب کیا ہے جس کی واپسی کے لیے قریش نے ان دونوں کو بھیجا ہے؟" عمر بن العاصی نے کہا "نہیں"

نجاشی نے عمرو بن العاص اور عمارہ سے کہا: کیا ان لوگوں پر تمہارا کوئی قرض واجب ہے؟ انہوں نے کہا: "نہیں" اس پر اس نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں ان لوگوں کو کبھی تمہارے معاملے نہ کروں گا۔
 اس طرح اس مہم میں انہیں سراسر ناکامی ہوئی۔ اس ناکامی سے جھنجھلا کر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ میں رہنے والے مسلمانوں پر عرصہٴ حیات اور تنگ کر دیا۔ ان کی آتش غضب سرد ہونے کی بجائے اور تیز ہو گئی۔ بالآخر انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ابھی وہ اپنے ہاتھ لگائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے قتل کو حرام قرار دیا اور آپ نے عینِ یاس لات لکھ کر اوداع کہا: جب کفار نے قتل کرنے کے ارادہ سے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا۔

جب کفار کو آپ کے بچ نکلنے کا علم ہوا تو انہوں نے مختلف افراد اور متعدد جماعتوں کو آپ کی تلاش میں ادھر ادھر روانہ کیا۔ ان جماعتوں میں عمرو بن العاص بھی شامل تھے۔ لیکن وہ آپ کو پانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بخیریت یثرب پہنچ گئے۔
 کفار کی آتش غضب اب بھی سرد نہ ہوئی۔ اور انہوں نے دینہ پر حملہ کرنے کے لئے پے درپے لشکر بھیجنے شروع کیے۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان سب سے پہلی لڑائی بدر الکبریٰ کی تھی۔ اس جنگ میں عمرو بن العاص شریک نہ تھے۔ انہوں نے بعد میں قریش کی عزت ناک شکست کا حال سنا۔
 قریش اس شکست کو آسانی سے نہ بھلا سکے اور اگلے سال پرری تیاری کے ساتھ پھر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکلے اور جنگ اُحد پیش آئی۔ اس موقع پر عمرو بن العاص بھی قریش کی فوج میں شامل تھے۔ لیکن انہوں نے اس سے زیادہ اور کوئی کام سرانجام نہ دیا کہ وہ صفوں میں گشت لگا کر لوگوں کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔

اس کے بعد خندق کا معرکہ پیش آیا۔ اس موقع پر بھی عمرو بن العاص قریش کی فوج میں شامل تھے۔ جب تمام قبائل عرب پر مشتمل دس ہزار کاشکریہ مدینہ کے سامنے پہنچا تو اپنے سامنے خندق کھدی ہوئی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اور اسے مجبوراً خندق سے باہر ہی قیام کرنا پڑا۔
 خندق کھود لینے کے باوجود بظاہر مسلمانوں کی کامیابی کی کوئی امید نہ تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے

۱۔ اس جگہ حضرت جعفر کی بیان کردہ روایت ختم ہو جاتی ہے
 ۲۔ یثرب کا نام بعد میں مدینۃ النبیؐ پڑ گیا۔ اور آج تک اسی نام سے مشہور ہے۔ (محمد احمد)

فضل سے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ اور وہ ان کے مقابلے میں کوئی قابل ذکر کارروائی نہ کر سکے۔ اسی عرصہ میں ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور اس طرح ان کی طاقت اور کمزور ہو گئی۔ بالآخر رات کے وقت ایک سخت آندھی نے ان کے تمام دلوں اور ارادوں کو بلیا سیٹ کر دیا۔ ان کی ہڈیاں الٹ گئیں، جیسے اڑ گئے۔ اور سارے لشکر پر سخت دہشت طاری ہو گئی۔ چنانچہ وہ اسی دہشت و اضطراب اور خوف و ہراس کی حالت میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان بھاگنے والوں میں عمرو بن العاص بھی تھے۔ ان پے درپے واقعات نے عمرو بن العاص کی آنکھیں کھول دیں اور وہ سنجیدگی سے قریش اور مسلمانوں کی کشمکش کے انجام پر غور کرنے لگے۔ بالآخر وہ ایک راتے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے قریش کے چند ایسے لوگوں کو جمع کیا جو ان کی طرح مضطرب اور حیران تھے اور ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کشمکش کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ عمرو بن العاص نے اپنی راتے ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر ہمارے لیے یہ مناسب ہے کہ ہم سب جیشہ میں نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہاں رہائش اختیار کر لیں۔ اس دوران میں ہم بغور دیکھتے رہیں کہ محمد اور قریش کی باہمی کشمکش کا کیا نتیجہ نکلا ہے اگر بالآخر محمد کو فتح حاصل ہوئی تو ہم مدد ہونے کے باعث اس کی غلامی میں آنے سے بچ جائیں گے۔ اور اگر قریش کو فتح حاصل ہوئی تو ہم فوراً واپس آجائیں گے۔

اس راتے کو تمام لوگوں نے پسند کیا اور وہ ان کے ساتھ جیشہ روانہ ہو گئے۔ جیشہ پہنچ کر عمرو بن العاص کی نظروں کے سامنے ہر وقت یہ نظارہ رہتا تھا کہ مسلمانوں کی فوجیں جھڈے اٹھاتے ہوئے عرب کے ہر حصے میں پھیل گئی ہیں اور عرب کا کوئی گوشہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے خالی نہیں رہا۔ جب اس قسم کی تصویریں ان کے ذہن میں گھومتیں تو معان کے دل میں خیال آتا کہ اب ان کے لیے ترقی کرنے کی کیا راہ ہے۔ اور ان کا مستقبل کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے۔

یہ ذہنی کشمکش اس قدر تیز ہو گئی کہ انہوں نے جیشہ چھوڑ کر دوبارہ مکہ آنے کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ مکہ پہنچے تو تمام حالات کو دیکھتے ہوئے انہیں یقین ہو گیا کہ اب اسلام روز بروز ترقی کرتا جائے گا اور ان کا مستقبل اسی صورت میں محفوظ رہ سکتا ہے جب وہ بھی اسلام کے ساتھ گہرا تعلق قائم کر لیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیں۔

(۲)

زمانہ اسلام

”مخد کے دین کو عروج حاصل ہوگا۔ اور
 بُت پرستی روز بروز کم ہوتی جائے گی۔ ہم بہت
 دیر تک خراب غفلت میں مدہوش رہے۔
 میں اپنی غفلت پر سحنت نام ہوں اور سوچتا
 ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
 کیا منہ لے کر حاضر ہوں گا۔“
 (عمر بن العاص کی گفتگو خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ کے ساتھ)

عرب اور اسلام | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت پر اہل مکہ مختلف گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک گروہ نے آپ کی رسالت کا انکار کر کے اس دین میں شمولیت اختیار کر لی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ یہ لوگ السابقون الاولون کہلائے۔

۴۱) ایک گروہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کو بڑی تشویش کی نظر سے دیکھا۔ اس گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جو اپنے آبائی دین اور رسوم و رواج پر سختی سے قائم تھے اور اسلام قبول کرنے کی صورت میں ان سب سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا جس کے لئے وہ کسی طرح تیار نہ تھے۔ لہذا یہ لوگ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے مختلف تدابیر کے ذریعے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اسلام کی اشدّ عنت سے باز رکھنا چاہا۔ جب یہ تدابیر کارگر ثابت نہ ہوئیں تو انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیغمبر پر عرصہ جہالت تنگ کر دیا اور بے کس مسلمانوں پر ظلم و ستم توڑ کر انہیں اسلام سے گشتہ کرنے کی کوشش کی۔ جب اس تدبیر میں بھی ناکامی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ جب اللہ نے انہیں اس کوشش میں بھی ناکام و نامراد رکھا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے پیغمبر کے ہمراہ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے تو انہوں نے متعدد بار فوج کشی کر کے اسلام کو نسبت دنا بوا اور اس کے نئے مرکز کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔

(۴۲) ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی تھا جس نے درمیانی رکش اختیار کیے رکھی۔ نہ تائید کی اور نہ مخالفت۔ اس گروہ میں جو لوگ شامل تھے ان کے دل اسلام کی حقانیت کے معترف تھے اور انہیں اس امر کا احساس تھا کہ جلد بابدیر اس نئے دین کو غلبہ حاصل ہو گا اور تمام عرب کو محمد کے آگے تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ لیکن چونکہ انہیں اپنی قوم کے عیس و شیخ کاؤ اور معاشرے میں انہیں جو مرتبہ حاصل تھا اس کے چھین جانے کا خوف تھا اس لیے وہ بچلکھلا اپنی رائے کے اظہار کی جرأت نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے خیالات اور احساسات کو دل ہی میں رکھا۔ تاہم ان میں سے بعض لوگ زیادہ عرصہ تک صبر نہ کر سکے اور انہوں نے مدینہ جا کر اسلام قبول کر لیا۔ البتہ کچھ لوگ بدستور عافیت کوشی کی پالیسی پر عمل پیرا رہے۔ انہوں نے اس وقت تک انتظار کیا جب حتی و باطل کی اس کشمکش کا واضح نتیجہ ان کے سامنے آجائے۔

اسلام کے متعلق عمر بن العاص کا موقف | عمر بن العاص اس آخری گروہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے قدم روز بروز مضبوط ہو رہے جا رہے ہیں۔ اسلام کو روز افزوں

ترقی نصیب ہو رہی ہے۔ جو طاقت بھی ان کے مقابل آتی ہے شکست کھا جاتی ہے۔ پے در پے ان حالات کو دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ اسلام اب عرب کے اطراف و جوانب میں پھیل جائے گا اور مستقبل میں میں صرف یہی دین عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ لیکن چونکہ وہ اپنے باپ سے بہت فرستے تھے اس لیے انہیں اپنے خیالات ظاہر کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔

ابن عسکر اپنی تاریخ میں زبیر بن بکر سے روایت کرتے ہیں کہ عمرو بن العاص سے بعض لوگوں نے

پوچھا:-

”آپ نے اسلام قبول کرنے میں دیر کیوں کی؟ حالانکہ عقل و دانش کے لحاظ سے آپ قریش میں بہت بلند مرتبہ کے مالک تھے؟“

انہوں نے جواب دیا:-

”ہماری قوم کے رؤساء کی عقلیں پارٹل سے بھی زیادہ بھاری تھیں جو راستہ وہ اپنے لئے اختیار کرتے تھے، ہمیں بھی اسی پر چلنا پڑتا تھا خواہ وہ کتنا ہی دشوار گزار کیوں نہ ہوتا۔ چنانچہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا تو ہم نے بھی بغیر سوچے سمجھے ان کی تقلید کی اور حضور کا انکار کر دیا۔ لیکن جب بزرگ ٹھنڈے اور قوم کا بوجھ ہمارے کندھوں پر آ پڑا تو ہمیں اسلام کے متعلق غور و فکر کرنے کا موقع ملا۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اس وقت سے میرے دل میں اسلام کی حقانیت کا یقین پیدا ہونا شروع ہوا۔ جب قریش نے دیکھا کہ میں اسلام کے خلاف ان کی معاندانہ کوششوں میں ان کا ساتھ نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ رکھتا ہوں تو انہیں میرے متعلق شک و شبہ پیدا ہونے لگا۔ چنانچہ ایک آدمی میرے پاس بھیجا گیا۔ اس نے اگر مجھ سے کہا:-

”اے ابوعبداللہ! قوم کا خیال ہے کہ تمہارا میلان محمد کی جانب ہے؟“

میں نے اس سے کہا:-

”اے میرے بھتیجے! میں تمہیں اس خدا کی قسم دلا کر پوچھتا ہوں جو تمہارا اتنا بڑا ہے کہ تمہارے بعد میں

آنے والوں کا رب ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں یا اہل فارس و روم؟“

انہوں نے کہا:-

”ہم ہدایت پر ہیں“

میں نے پوچھا:-

”یہ بتاؤ کہ کیا ہم معاشی لحاظ سے بہتر ہیں یا اہل فارس و روم اور ہماری سلطنت زیادہ وسیع ہے یا فارس و

روم کی :

اُس نے جواب دیا :-

"فدکس روم کی"

یہی لئے کہا :

"اگر اس دنیا کے بعد اور کوئی زندگی نہیں تو پھر ہماری فضیلت اور ہدایت ہمارے کس کام آئی جب طاقت و قوت، شوکت و غرور، اور وسعت سلطنت میں رومی و فارسی ہم سے بہتر ہیں۔ اس لئے میرا دل گویا دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہاںکل صداقت پر مبنی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک جہان اور بھی ہے جہاں نیکی کا بدلہ نیکی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا۔ اے میرے بھتیجے! میرے دل میں ہر وقت یہی خیالات گردش کرتے رہتے ہیں۔ بس زیادہ دیر تک گمراہی میں پڑے رہنے سے کیا نفع؟

عبدالرحمن بن زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن العاص سے پوچھا :-

جب تمہاری ذہانت اور عقلمندی کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ تم ہمارے آدل کے زور سے میں کیوں شامل نہ ہوئے؟

حضرت عمر بن العاص نے جواب دیا :-

"عمر! انسان کا دل اس کے اپنے اختیار میں نہیں بلکہ ایک اور ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ یہی جلد چاہتا ہے اور پھیر دیتا ہے"

حضرت عمر نے فرمایا :-

"تم کا کہتے ہو"

عمر بن العاص حبشہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کی باہمی آدیر کشی نے طل پکڑا تو عمر بن العاص نے کہ چھوڑ کر حبشہ جانے کا قصد کیا۔ تاکہ وہاں علیحدگی میں بیٹھ کر اس آویزش کا انجام دیکھ سکیں۔ طبری نے اس واقعہ کا ذکر حضرت عمر بن العاص ہی کی زبانی اس طرح کیا ہے۔

"جب ہم جنگ خندق سے واپس آئے تو میں نے قریش کے بعض ایسے آدمیوں کو جمع کیا جو اکثر میری مائے سے اتفاق کیا کرتے تھے۔ اور میری بات کو جبر سے سنا کرتے تھے۔ میں ان سے کہا :-

خدا کی قسم! مجھے تو اب یہ دکھائی دے رہا ہے کہ محمد کے عروج کا ستارہ اوج پر پہنچنے والا ہے۔

اس حالت میں ہمارے لئے یہی بہتر ہے کہ ہم حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہاں

حکومت اختیار کر لیں کیونکہ نجاشی کی حکومت میں رہنا منکر کے تابع ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ اگر محمدؐ نے ہماری قوم پر غلبہ حاصل کر لیا تو اس طرح ہم اس کی دسترس سے باہر رہیں گے اور اگر ہماری قوم غالب آگئی تو ہجر ہمارے دار سے نیا رہے ہیں" ۱۔

عمرو بن العاص کا قبول اسلام | عمرو بن العاص کا یہ اقدام بظاہر انہیں اسلام سے دور لے جانے والا تھا لیکن دراصل یہی ان کے اسلام قبول کرنے کا باعث بن گیا۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں :-

..... جب میں نے یہ تجویز اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کی تو ان سب نے میری تائید کی

اور کہا :-

"آپ کی رائے بہت درست اور صائب ہے۔"

میں نے ان سے کہا :-

"اب جبکہ تم نے حبشہ جانے کا قصد کر لیا ہے تو نجاشی کے لئے کچھ عمدہ سوچائیں لے چلو" ۲
ہم نے ان چیزوں سے بہتر کوئی سوچا نہیں سمجھی جاتی۔ چنانچہ ہم نے بہت سا چمڑا اکٹھا کیا اور حبشہ کی جانب روانہ ہو گئے۔

جب ہم نجاشی کے محل کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ عمرو بن امیہ ضمیری (جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفرؓ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نجاشی کے پاس بھیجا تھا) بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے اور وہاں کچھ دیر ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا :-

یہ عمرو بن امیہ ضمیری جا رہا ہے۔ میں نجاشی کے پاس جا کر اسے طلب کروں گا۔ اگر اس نے اسے میرے حوالے کر دیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس طرح محمدؐ کے ایچی کو قتل کرنے کے باعث میں بھی دیگر قریش کے ہم پلہ ہو جاؤں گا۔"

جب میں نجاشی کے دربار میں پہنچا تو حسب دستور اسے سجدہ کیا۔ نجاشی نے کہا :-

"اؤ دوست! کیا تم اپنے ملک سے میرے لیے کوئی بدیہ لائے ہو؟"

میں نے جواب دیا :-

جہاں پناہ! لایا ہوں۔"

۱۔ ابن اسحاق نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب کی تیسری جلد کے صفحہ ۳۰ پر بیان کیا ہے۔

یہ کہہ کر وہ چمچڑا جو میں مکہ سے ہمارا لایا تھا اس کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس نے دیکھ کر بہت پسند کیا میں نے موقع غنیمت جان کر اس سے کہا:-

”جہاں پناہ! میں نے ابھی ایک آدمی کو آپ کے دربار سے نکلنے دیکھا ہے۔ وہ ہمارے دشمن کا ایچی ہے۔ آپ کی بڑی نوازش ہوگی اگر اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر دوں۔ کیونکہ اس نے ہمارے متعدد سرداروں اور عزیزین کو قتل کیا ہے۔“

یہ سن کر نجاشی سخت غضبناک ہوا اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچ کر اس زور سے اپنی ناک پر مارا کہ میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور ٹوٹ گئی ہوگی۔ میں یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا۔ اور کہا:-

”جہاں پناہ! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو یہ بات ناگوار گزرے گی تو میں کبھی ایسا سوال آپ سے نہ کرتا۔“

اس نے کہا:-

”کیا تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں اس شخص کے (ایچی کو قتل کرنے کے لئے تمہارے حوالے کر دوں جس کے پاس وہی ناموس اکبر (جبریل) آتا ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا؟“

میں نے عرض کیا:-

”جہاں پناہ! کیا اتنا اسی طرح ہے؟“

اس نے جواب دیا:-

”اے عمرو! تم پر انیسویں تم میرا کمانا اور اس کی اطاعت قبول کر لو۔ خدا کی قسم! وہ حق پر ہے اور جس طرح موسیٰ فرعون پر غالب آگئے تھے، اسی طرح یہ شخص بھی اپنے دشمنوں پر غالب آجائے گا۔“

میں نے کہا:-

”میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اسلام پر میری بیعت لے سکتے ہیں؟“

اس نے جواب دیا:-

”کیوں نہیں؟“

یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور میں نے اسلام پر اس کی بیعت کر لی۔

۱۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے نجاشی کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی۔ لیکن اپنے ساتھیوں سے اس امر کو پوشیدہ رکھا۔ اس کے بعد میں غاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک پر بیعت کرنے کی غرض سے مدینہ روانہ ہوا۔ اس روایت کی تائید ابن عساکر سے بھی ہوتی ہے۔ ابن عساکر کی روایت میں جو حافظہ ابن نعیم سے مروی ہے یہ ذکر بھی ہے کہ حضرت عمر بن العاص کے (باقی اگلے صفحہ پر)

نجاشی کے دربار سے نکل کر یہ ساتھیوں کے پاس آیا اور عاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی عرض سے مدینہ روانہ ہوا۔ راستے میں مجھے خالد بن ولید کے آتے ہوئے سنے (یہ فتح مکہ سے چھ ماہ قبل کا واقعہ ہے) میں نے ان سے پوچھا تائے المسلمان! کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا:-

”مجھ پر یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے میں تو اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں۔ آخر کب تک ہم ان کی مخالفت کرتے چلے جائیں گے؟“ میں نے کہا:-

خدا کی قسم میں بھی مسلمان ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ چنانچہ ہم دونوں مدینہ پہنچے۔ مسجد نبوی سے باہر ہم نے اپنی اذنیباں ٹھہرائیں اور نئے کپڑے پہن کر مسجد میں داخل ہوئے۔ اسی دوران میں عصر کی اذان ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے۔ حضور کو ہماری آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ اور آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ دوسرے مسلمان بھی ہمارے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش تھے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر بیعت کی۔ پھر عثمان بن طلحہ نے بیعت کی۔ اس کے بعد میری باری آئی۔ میں آگے بڑھا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آگے بیٹھ گیا لیکن شرم کے مارے میری نگاہ آپ کے سامنے نہ اٹھتی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میں اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے پچھلے سب گناہ بخشا ہو جائیں۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۴ کے ساتھیوں کو جب کسی ذریعے سے ان کے اسلام لانے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے انہیں کچھ کر زور دیکر کیا اور ان کا مال و متاع بھی چھین لیا۔ وہ فریاد لے کر نجاشی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نجاشی نے ان کے ساتھیوں سے ان کا ملے کر انہیں واپس وڑایا۔

۱۰۔ زبیر بن عوف نے جو روایت بیان کی ہے۔ اس میں حضرت عمر دین العاص سے یہ الفاظ منسوب کیے گئے ہیں:-
جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چونکہ میں خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ سے عمر میں بڑھتا ہوں اس لیے میں نے بیعت کے وقت ان دونوں کو آگے بڑھایا۔ ان دونوں نے اس شرط پر بیعت کی کہ ان کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ میں نے یہ دیکھ کر اپنے دل میں سوچا کہ میں اس شرط پر بیعت کروں گا کہ میرے آگے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں لیکن جب میں بیعت کرنے کا تو اٹھنے لگا ہوں کی معافی کا ذکر کرنا بھول گیا۔ اس روایت کی تائید ابن عساکر کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو عمر بن حفص ثقیفی سے مروی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”لئے عمرو و سعیت کر لو۔ اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ہجرت بھی پچھلے گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔“
 میرے اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے دوران میں دوسرے مسلمانوں اور میرے
 اور خالد بن ولید کے درمیان کوئی فرق نہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے عہد خلافت میں بھی ہماری وہی
 قدر و منزلت قائم رہی جو سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھی۔ حضرت عمرؓ بھی مجھ سے فری
 صلہ رکھتے رہے جو اس سے قبل مجھ سے ہوتا تھا۔“

حضرت عمرو بن العاص کی اس روایت کی تائید حضرت حضرت خالد بن ولید کے بیان سے بھی ہوتی
 ہے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے اسلام لانے کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں :-

”..... جب میں نے مکہ سے نکلنے کی تیاری مکمل کر لی تو میں صفوان بن امیہ سے ملا اور اس کا
 لئے ابو وہب! تم دیکھتے ہو کہ محمد عرب اور محمد پر غالب آگئے ہیں۔ اگر ہم ان کے پاس جا کر ان کی اطاعت
 قبول کر لیں تو جو شرف ان کو حاصل ہوئے وہاں ہے اس میں ہم بھی حصہ دار بن جائیں گے۔“

صفوان نے جواب دیا :-

”اگر تمام دنیا بھی محمد کو قبول کر لے اور میرے سوا ہر شخص مسلمان ہو جائے تب بھی میں ان پر ایمان نہیں

لاؤں گا۔“

میں نے یہ سن کر اپنے دل میں کہا :-

”یہ بے چارہ مجبور ہے کیونکہ اس کا باپ اور اس کے بھائی جنگ بدر میں مارے جا چکے ہیں۔“
 اس کے بعد میں عکرمہ بن ابو جہل سے ملا اور وہی بات جو میں نے صفوان سے کہی تھی اس سے بھی
 کہی اس نے بھی وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا۔ تب میں نے اس سے یہ درخواست کی کہ وہ ان
 باتوں کو اپنے ملک ہی محدود رکھے اور کسی سے ان کا ذکر نہ کرے۔ یہ بات اس نے قبول کر لی اور کہا :-
 میں ان کا کسی سے ذکر نہ کر دوں گا۔“

عکرمہ کے بعد عثمان بن طلحہ سے ملا جو میرا دوست تھا۔ پہلے تو میں نے وہی باتیں اس سے بھی کہنے
 کا ارادہ کیا۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس کا باپ طلحہ، چچا عثمان اور چچا بھائی مسافع، حلاس، حنیف اور کلاب جنگ
 احد میں قتل کیے جا چکے ہیں۔ کہیں یہ بھی مجھے وہی جواب نہ دے۔ اس لیے میں نے خاموش رہنا چاہا۔
 لیکن زیادہ ویر تک خاموش نہ رہ سکا اور بات کہتے ہی بن پڑی۔ میں نے اس سے کہا :-

ہماری مثال اس لوطی کی سی ہے جو بھٹ میں چھپی ہوئی ہو۔ لیکن بھٹ میں اگر کثرت سے

پانی ڈالا جائے تو اسے دہاں سے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلمان ہم پر غالب آجائیں گے کیوں نہ ہم پہلے ہی اسلام قبول کر لیں؟

میری توقع کے تقاضا برعکس عثمان نے فوراً آمادگی ظاہر کر دی۔ اس کے بعد مدینہ چلنے کی بات ہوئی اور یہ طے پایا کہ اگلے روز صبح سویرے ایک مقام پر ہم دونوں پہنچ جائیں اور جو پہلے پہنچ جائے وہ دوسرے کا انتظار کرے۔ اگلے روز ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ ہم دونوں مقررہ جگہ پر پہنچ گئے اور وہاں سے مدینہ کی راہ لی۔ جب ہم تہہ کیے مقام پر پہنچے تو ہمیں عمر و ابن العاص نے جو جلسہ سے آ رہے تھے علیک سلیم کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا:

ابو سلیمان! کہل کا ارادہ ہے؟

میں نے جواب دیا:

اللہ کی قسم! مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور میں مسلمان ہونے کے ارادے

سے مدینہ جا رہا ہوں۔

چنانچہ ہم اگلے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب مدینہ پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ ہم نے اپنے اڈنٹ بٹھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے آنے کی خبر پہنچ گئی۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا:

تم لو! کہنے اپنے جگر گوشے نکال کر تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں۔

میں نے نئے کپڑے پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے چلا ہاتھ میں مجھے میرے بھائی رولید بن ولید، جو حضرت خالد بن ولید سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، لے۔ وہ کہنے لگے:

جلدی چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آتے سے بہت مسرور ہیں۔

چنانچہ ہم سب جلدی جلدی مصحف کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جس وقت میں مصحف کے سامنے پہنچا تو حضور مسکرا رہے تھے۔ میں نے قریب جا کر اسلام علیکم کہا۔ حضور نے نہایت خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا:

حضور! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں پڑایت فرمائی۔ مجھے یہی امید تھی کہ تمہاری عقل بلا غریدہ راستے کی طرف ضرور تیار رہنا ہی کرے گی۔“

میں نے عرض کیا:-

”یا رسول اللہ! میں آپ کے خلاف کئی جنگوں میں لڑ چکا ہوں آپ اللہ سے میرے اس گناہ کی سزا کے لیے دعا فرمائیں۔“

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:-

”اسلام پھیلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔“

میں نے کہا:-

”کیا واقعی؟“

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:-

”ہاں۔“

اس کے بعد آپ نے یہ دعا فرمائی:-

”اے اللہ! خالد کی پھیلی تمام لغزشوں کو جو اس سے تیرے دین کی مخالفت کرتے ہوئے سرزد ہوئیں معاف فرما۔ میرے بعد عمر بن العاص اور عثمان بن طلحہ آگے بڑھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ ہم حضرت سے ہیں ورنہ پہنچے تھے۔ خدا کی قسم جس دین سے میں نے اسلام قبول کیا اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور دوسرے صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔“

بعض روایات میں اس گفتگو کی تفصیل بھی درج ہے جو حبشہ سے واپس آتے ہوئے حضرت عمرو بن العاص اور حضرت خالد بن ولید کے باہم ان دونوں کی پہلی ملاقات کے وقت ہوئی تھی۔ ہم بھی اسے یہاں درج کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔

خالد - عمرو! کہاں کا اداوہ ہے؟

عمرو - خالد! میرا تو جہاں جانے کا اداوہ ہے سو ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟

خالد - عمرو! مسکو کیوں جا رہے ہو؟ کیا میرے متعلق تمہیں کچھ بدگمانی ہے؟

عمرو - مجھے تمہارے اور تمہارے ساتھی عثمان بن طلحہ کے متعلق کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ تاہم پھر

بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟

خالد - عمرو! جس راستے پر تم جا رہے ہو اسی پر میں بھی جا رہا ہوں۔

عمرو۔ میرے راستے پر؟

خالد۔ ہاں تمہارے راستے پر۔ جو خیالات تمہارے دل میں پیدا ہوئے وہی ہمارے دل میں پیدا ہوئے۔ اور جس نتیجے پر تم پہنچے، اسی نتیجے پر ہم پہنچے۔

عمرو۔ خالد! یہ تو تم نے بہت دل خوشکن بات سنائی۔ خالد! اب تو فرزندِ دشمن کی طرح ثابت ہو گیا ہے۔ کہ محمد اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آؤ کب تک مخالفت کرتے جاؤ گے؟ چلو آپ کے پاس چل کر اسلام قبول کر لو۔

عمرو۔ خدا کی قسم! میں تو مسلمان ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ خالد۔ عمرو! ہمارے دلوں کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اب محمد کو کوئی طاقتِ مذہب نہیں کر سکتی۔ کیا کھلے کھلے اذیتوں کے بعد کوئی شک باقی رہ سکتا ہے؟ نہ معلوم قریش اب کیوں مزید انتظار کر رہے ہیں؟ محمد سے ان کے عقلمند اور دشمنی کی کوئی وجہ جواز موجود نہیں۔

عمرو۔ خالد! اس دشمنی کا نتیجہ وہ عنقریب دیکھ لیں گے۔ محمد کے بین کو عروج حاصل ہوگا۔ اور بہت پرستی روز بروز ملتی جائے گی۔ ہم بہت دیر تک طوایبِ غفلت میں دم بوش پڑے رہے۔ اور اب اپنی غفلت پر سخت نادم ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ محمد کے سامنے کیا منہ لے کر حاضر ہوں گا؟ وہ روایات جن میں حضرت عمر بن العاص کے اسلام لانے کا ذکر ہے، ان امور پر متفق ہیں:-

۱۔ حضرت عمر بن العاص صحت میں اسلام لائے۔

۲۔ اسلام حضرت عمر بن العاص کے دل و دماغ میں پوری طرح گھر کر گیا تھا۔ اگرچہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان دیر میں کیا لیکن وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخالفین کے درمیان موازنہ کرتے تھے۔ اور ہمیشہ ہی ان کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہوتی تھی۔ انہیں اس امر کا یقین تھا کہ اسلام کو بالآخر فتح حاصل ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فاتحانہ حیثیت سے مکہ واپس آئیں گے۔ انہوں نے اسلام کو پوسے اشرافِ صدر کے ساتھ قبول کیا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایسی مہم پر بھیجا چاہا جس میں کافی مالِ غنیمت حاصل ہونے کی امید تھی تو انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا۔

میں نے مال کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اس لیے قبول کیا کہ میرے دل میں اس کی حقانیت گھر کر گئی تھی۔

۳۔ حضرت عمرو بن العاص نے اسلام کا اعلان کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ جب ان کا ارادہ بچتہ ہو گیا تو انہوں نے کسی قسم کے خطرے کی پروا کیے بغیر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اس کا پختہ ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے کہ جب انہوں نے نجاشی کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مدینہ روانہ ہوئے تو راستہ میں انہیں خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ ملے۔ ان کے یہ روزوں اس سے قبل اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ لیکن انہوں نے کسی پس و پیش کے بغیر ان پر اپنے اسلام کا بحال ظاہر کر دیا۔ اس سے پہلے وہ قریش کے ایچی کے سامنے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کر چکے تھے۔ جب قریش کو یہ بات محسوس ہوئی کہ عمرو بن العاص ان کی امداد سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ اور ان کا میلان اسلام کی طرف ظہور پا رہا ہے تو انہوں نے ایک ایچی کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اس سے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا۔

”مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق محمد جو کچھ کہتے ہیں وہ سچا ہے۔۔۔۔۔“ پھر کہا۔

”بطل پر اصرار کرتے چلا جانا اور اپنی ضد پر قائم رہنا درست نہیں ہے۔“

۴۔ حضرت عمرو بن العاص کو اس معاملہ میں تاخیر کرنے سے بہت خرمندگی تھی۔ خصوصاً اس صدمت میں جبکہ ان کے بھائی ہشام ان سے پہلے ایمان لائے تھے۔ اس ندامت کا اظہار اس نعرہ سے بخوبی ہو سکتا ہے جو انہوں نے اپنے قبل اسلام کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا۔

..... پھر میں آگے بڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا گیا۔ لیکن خرمندگی کے باعث میری نگاہ آپ کے سامنے نہ اٹھتی تھی۔

اس کا دوسرا ثبوت اس طرح ملتا ہے کہ جب وہ بیعت کرنے لگے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور و عافز میں اللہ تعالیٰ میرے پچھلے گناہوں کو معاف کرے۔ ان کی نیت

بشیر حاشیہ صفحہ ۳۹: ان کی حیثیت اس روایت کے مقابل میں کیا باقی رہ جاتی ہے؛ واقعہ یہ ہے کہ کچھ تمام بیانات میں کلمات تھیں اور محض حضرت عمرو بن العاص کو بدنام کرنے کے لیے وضع کی گئی تھیں۔ اس کے سوال کا اٹنی اور مختصر تھا (محمدا صہ پانی تھی)۔

۵۔ حضرت عمرو بن العاص نے زبان سے جو کچھ کہا اپنے عمل سے اُسے کو کہے دکھا دیا۔ اور جب اُن پر سچائی کھل گئی تو فوراً بلا پس و پیش اُسے قبول کر لیا۔

جب کھل گئی بھائی۔ پھر اُس کو معاف لینا۔ نیکوں کی ہے پخصلت ما و حیا ای ہے (محمدا صہ پانی تھی)

تو یہ بھی تھی کہ وہ اپنے اگلے گناہوں کی معافی کی درخواست بھی کریں۔ مگر انہیں یاوں نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے انہیں خوشخبری دی کہ اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہجرت بھی گزشتہ گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔

۵۔ حضرت عمرو بن العاص نے اسلام لاتے ہی عزم صحیح کر لیا تھا کہ آئندہ اپنی تمام قومیں اسلام کی سر بلندی کے لئے وقف کر دیں گے۔ انہیں اسلام کے شاندار مستقبل پر کامل یقین تھا ان کے اسی ایمان کامل اور عزم ماسخ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا:۔
”دوسرے لوگ اسلام لائے لیکن عمرو بن العاص ایمان لائے۔“

۶۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن العاص کے اسلام لانے سے اتنے خوش تھے اور آپ کو ان پر اتنا بھروسہ تھا کہ ابھی انہیں مدینہ پہنچے اور اسلام کا اعلان کیے چند روز بھی نہ گزرے تھے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں ایک لشکر کی قیادت فرما کر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے روانہ فرما دیا۔ اور اس طرح آغاز ہی سے انہیں اسلام کی خاطر خدمات سر انجام دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔

عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکوں کے دوران میں دوسرے مسلمانوں اور میرے اور خالد بن ولید کے درمیان کوئی فرق نہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کے عزم صحیح، عقل و خرد اور ذکاوت فطانت کا حل دوسرے لوگوں سے زیادہ معلوم تھا۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سر یہ ذات السلاسل کی قیادت سپرد کی اس سر یہ کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ اسلامی فوج میں تین جلیل القدر صحابی حضرت ابوبکر حضرت عمراء حضرت ابو عبیدہ رضوان اللہ علیہم بھی شامل تھے۔

اس سر یہ کے علاوہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی ایمانی قوت اور اعلیٰ صلاحیتوں سے متاثر ہو کر اور بھی متعدد اہم کام ان کے سپرد کیے جن کی تفصیل آئندہ صفحات میں بیان ہوگی۔

انہدام سواع | سواع ایک بت عورت کی شکل کا تھا۔ سب سے پہلے اس کی پرستش حضرت نوح کی قوم کے شروع کی تھی۔ یہ بت حضرت شیث بن آدم کے لڑکے سواع کے نام پر بنایا گیا۔ قوم نوح کے بعد ہندوں کے قبیلہ نے جو مکہ سے تین میل کے فاصلہ پر آباد تھا اس کی پرستش شروع کر دی۔ فتح مکہ کے

لے ابن جریر نے لکھا ہے کہ سواع بن شیث بن آدم کے فوت ہونے کے بعد ان کی وہی عظمت کی وجہ سے ان کا مجسمہ بنایا گیا اور لوگوں نے اس کی تعظیم و تکریم شروع کر دی۔ سواع نے لکھا ہے کہ اس مجسمہ کی عبادت حضرت نوح علیہ السلام سے قبل (باقی اگلے صفحہ پر)

قبل تک ہر سال میں جگہ میلہ لگا کرتا تھا۔ اور اس پر کثرت سے چڑھاوے چڑھتے تھے۔ ان تمام امور کی نگرانی نبی کریم ﷺ کرتے تھے اور تمام چڑھاوے بھی انہی کے پاس جمع ہوتے تھے۔

جب فتح مکہ کی وجہ سے اسلام کو عرب میں دیگر ادیان پر کئی غلبہ حاصل ہو گیا۔ تمام عرب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا کو بچھنے لگی۔ عربوں نے اسلام کے تابندہ اصول قبول کر لیے تو ان بت خاں کے خلاف کارروائی کرنی ضروری ہو گئی جو کعبہ اور مکہ کے قرب و جوار میں قائم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو منہدم کر دیا جائے۔ آپ نے مکہ میں منادی کرا دی کہ اہل مکہ میں سے جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ رکھے بلکہ توڑ پھوڑ ڈالے۔ اس کے ساتھ آپ نے چند صحابہ کو مشہور بت خاںوں کو منہدم کرنے کے لئے مامور کیا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولیدؓ، عرو بن مسعودؓ اور سعید بن زین الاشمیؓ کو مناتہ بت کے توڑنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ تعمیل حکم میں حضرت عمرو بن العاصؓ چند ساتھیوں کے ہمراہ بت خاں کو منہدم کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔ کسی توڑخ نے حضرت عمرو بن العاصؓ کے ہمراہیوں کی تعداد نہیں لکھی۔ چونکہ انہیں صرف اس بت کے منہدم کرنے کا کام سپرد کیا گیا تھا اور بت خانہ میں ایک محافظ کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا اس لئے عقل کہتی ہے کہ حضرت عمرو بن العاصؓ کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ہوں گے۔

خود حضرت عمرو بن العاصؓ اس مہم کا حال اس طرح بیان کرتے ہیں :-

..... میں بت خانہ میں داخل ہوا۔ اس وقت سوائے ایک محافظ کے اس کے پاس اور کوئی موجود نہ تھا اس نے میرے آنے کی عرض پر تجھی۔ میں نے کہا: "مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کے توڑنے کے لئے بھیجا ہے" اس نے کہا تم اسے کسی طرح بھی نہ توڑ سکو گے؟ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا یہ بت تیس ایسا کرنے سے روک دے گا" میں نے کہا تم پر انوس تم اب تک باطل پر اڑے ہوئے ہو۔ بھلا کیوں یہ بت بھی دیکھتے اور سنتے ہیں؟ اس کے بعد میں اس کے قریب گیا اور اسے توڑ ڈالا۔ اپنے

یقتیہ حاشیہ صفحہ ۸۱: ہدایہ بن قینان کے عہد میں شروع ہو گئی ہے۔ بخاری میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت زراح کی قوم نے جرت بنائے تھے وہ نیک اور پارسا لوگوں کے نام پر بنائے تھے۔ جب وہ لوگ فوت ہو جاتے تھے تو شیطان لوگوں کے دونوں میں یہ بات ڈال دیتا تھا کہ جن لوگوں پر ان لوگوں کی رشتہ منیٰ ایسی جگہ ان کے مجھے بنا تے اور انہی کے نام پر ان کا نام رکھیں +

ساختیوں کو میں نے اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا۔ جہاں تمام چڑھاؤ سے اکٹھے کیئے جاتے تھے۔ لیکن وہاں سے کچھ نہ نکلا۔ اس کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں نے محافظ بھاری سے پوچھا اب تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا: ”مجھ پر حقیقت کھل گئی ہے اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔“

عمر بن العاص مملکت عمان میں

حضرت عمر بن العاص میدان جنگ کے ہی شہسوار نہیں تھے ان کی عقل و خرد اور ذکاوت و فطانت کے باعث دوسرے اہم کام بھی ان کے سپرد کیئے جاتے تھے۔ سیاسی امور میں ان کی مہارت اور بصیرت کی وجہ سے وہ ایک تجربہ کار سپہ سالار کے علاوہ ماہر سیاست دان بھی کھئے۔ پھر ایمان و اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایاں محبت کی وجہ سے مذہب اسلام بھی ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گیا تھا اور دینی امور کو سمجھنے کا ان میں بہترین ملکہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس طرح عمر بن العاص میدان جنگ کے شہسوار بھی تھے، ماہر سیاست دان بھی تھے اور ایک سچے مومن اور عالم بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ان صلاحیتوں اور خوبیوں کا بخوبی علم تھا۔ لہذا حضور نے ان کے سپرد محض جنگی کام ہی نہیں کیئے، بلکہ سیاسی اور دینی معاملات میں بھی ان سے اکثر کام لیا۔

ذی الحجہ ۵ھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تبلیغی مہم پر عمان بھیجا۔ عمان جزیرہ عرب کے جنوب مشرق میں ایک مملکت تھی جہاں کے باشندے آگ کی پرستش کرتے تھے۔ وہاں دو بھائی حاکم تھے، بڑے کا نام جعفر تھا اور چھوٹے کا نام عباد۔

حضرت عمر بن العاصؓ کے ساتھ کئی مدد تھے۔ صرف ایک تبلیغی خط تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا اور جس میں انہیں اسلام لانے اور توحید و رسالت کی گواہی دینے کی تلقین کی گئی تھی۔

اس خط کی عبارت یہ تھی:-

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد بن عبد اللہ خدا کے رسول کی طرف سے جلدی کے بیٹوں جعفر اور عباد کے

نام ہے۔ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی اختیار کرے۔ میں تمہیں اسلام لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جاؤ۔ امن میں رہو گے۔ میں تم لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے آنے کی غرض یہ ہے کہ اس شخص کو خدائی عذاب سے خبردار کر دوں جو (روحانی طور پر) زندہ ہو اور کافروں پر اتمامِ حجت کر دوں۔ تم دونوں اگر اسلام قبول کر لو گے تو میں تمہیں بدستور تمہارے علاقے کا حاکم بنائے رکھوں گا۔ لیکن اگر انکار کرو گے تو عنقریب تمہارا ملک تمہارے ہاتھوں سے چھین جائے گا۔

حضرت عمر بن العاص پہنچے لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط فوراً ان دونوں بھائیوں کے حوالے نہیں کیا۔ وہ بہت دانشمند انسان تھے اور انہیں معلوم تھا کہ ہر کام حکمت اور غور و فکر سے کرنا چاہیئے۔ انہوں نے پہلے دونوں بھائیوں کی شخصیتوں کا مطالعہ کیا۔ مطالعہ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ چھوٹا بھائی عباد بروہاری اور اخلاق میں بڑے بھائی جعفر سے بڑھا ہوا ہے۔ جعفر میں لالچ اور خود پسندی کا مادہ ہے۔ لہذا انہوں نے پہلے چھوٹے بھائی سے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا۔

عمر بن العاص کی عباد سے گفتگو | وہ عباد کے پاس پہنچے اور اسے بتایا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے یہاں آئے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان حسب ذیل گفتگو ہوئی ہے۔

عباد۔ عمر بن العاص تمہارے نبی کیا چاہتے ہیں؟
عمر۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں اسلام قبول کر لیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں آگ کی عبادت ترک کر دیں اور زمین و آسمان اور پانی اور آگ کے خالق کی پرستش کریں۔

عباد۔ عمر بن العاص! کیا تم نے تمہوں کی پرستش ترک کر دی ہے
عمر۔ جی ہاں ہم نے اس صنمات کو جس نے ہمارے دل و دماغ کو مفلوج کر دیا تھا چھوڑ دیا ہے اور اسلام کی صحت بخش روشنی سے اپنے دلوں کو منور کیا ہے۔

عباد۔ عمر بن العاص! تم کب اسلام لائے۔ ہم نے تو تمہیں داعیِ اسلام کے خلاف جنگیں کرتے دیکھا ہے۔

عمر۔ عباد! میں اسلام لے آیا ہوں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دینا چاہتا تھا اس لئے اس نے میرے لئے بھلائی کے سامان پیدا کر دیے اور مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔

عباد۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ محمدؐ کو تعلیم دیتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور

دنیا میں اس نے جو اعمال کیئے ہوں گے ان کا حساب دوسری دنیا میں اسے دینا پڑے گا۔ اس کے اعمال کے نتیجے میں اسے جنت یا دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ عمرو بن العاص! کیا واقعی یہ سچ ہے؟

عمرو۔ اے عباد آپ نے ٹھیک سنا واقعی محمدؐ یہی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر بعثت بعد الموت احساب کتاب اور ثواب و عذاب کا سلسلہ نہ ہو تو نیک اعمال کا بدلہ کس طرح ملے اور مجرموں اور گناہوں کی سزا دہی کی صورت کیا ہو۔ بعثت بعد الموت ضروری ہے تاکہ ہر شخص کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل سکے جو اس نے اس دنیا میں کیئے ہوں۔

عباد۔ عمرو بن العاص! کیا تمہارا دین آخرت کا دین ہے؟

عمرو۔ ہمارا دین دنیا کا دین بھی ہے اور آخرت کا بھی۔ اسے قبول کرنے سے دونوں جہان کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جب تم دونوں بھائی اسلام قبول کر لو گے تو تمہارا ملک تمہارے ہی قبضے میں رہے گا اور یہاں تمہاری ہی حکومت قائم رہے گی۔ تم دونوں احکام الہی کی روشنی میں ملک کا نظم و نسق چلاؤ گے مظلوموں کی مدد اور کمزوروں کی دست گیری کرو گے۔ امیروں سے فقیروں کا حق لو گے۔۔۔۔۔ دنیا کی بہتری کے لئے اس سے زیادہ سامان اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب تمہاری دنیا درست ہو جائے گی تو آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ اے عباد! اسلام لے آؤ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کا ثواب مرحمت فرمائے گا۔

عباد۔ عمرو بن العاص! جو باتیں تمہارا دین پیش کرتا ہے وہ واقعی اچھی ہیں۔ کاش میرا بھائی بھی میرا ساتھ دیتا تو ہم دونوں تمہارے رسولؐ کے پاس جا کر اس کی رسالت پر ایمان لے آتے۔ لیکن میرا بھائی حکومت کا بہت زیادہ حریف ہے۔ وہ حاکم ہونے کی مجھے کسی کی اطاعت قبول کرنا اور کسی کے تابع ہونا کبھی گزارا نہ کرے گا۔

اس واقعہ سے تاریخ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ حضرت عمرو بن العاص پہلے چھوٹے بھائی عباد کے پاس گئے۔ بڑے بھائی کے پاس نہیں گئے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی نظانت اور عقل سے معلوم کر لیا تھا کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے زیادہ حکومت کا حریف ہے۔ لہذا اگر اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا تو وہ فوراً انکار کر دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوگا۔ لیکن چھوٹے بھائی کی یہ حالت نہیں ہے۔ چونکہ اسے حکومت میں زیادہ عمل دخل نہیں ہے اس لئے وہ سامانی سے باتیں سننے کے لئے تیار ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمرو بن العاص نے اس سے گفتگو کر کے حضرت اسے اسلام قبول کرنے پر تیار کر لیا۔ بلکہ اس بات پر بھی آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی سے بات چیت کر کے اسے بھی قائل کرنے کی کوشش کرے تاکہ دونوں بھائی ایک ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں۔

عمرو بن العاص! اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں تمہیں کسی کی ماتحتی قبول نہیں کرنی پڑے گی۔ بلا تم بدستور اپنے ملک پر قابض رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی اور نیکی کی طرف بلا تے ہیں۔ تسلط اور اقتدار حاصل کرنا آپ کا مقصد نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک کام کئے گا وہ اسلام کا ایک ستون بن جائے گا۔ لیکن جو شخص مخالفت کرے گا اور دشمنی پر کرے گا وہ بھلائی اور سعادت و خوش نصیبی کو خود اپنے ہاتھوں سے کھو دے گا۔

عبادہ میں جا رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ میرے بھائی کے پاس چلیں اور جو خط آپ لائے ہیں وہ اسے پڑھ کر سنائیں۔ یقیناً وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرنے لگا۔ آپ اپنی لیاقت اور نکالت کو کام میں لاکر اسے ہموار کرنے کی کوشش کریں۔ میں بہار آپ کی تائید کرتا رہوں گا اور اسے اسلام قبول کرنے پر آمادہ کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دے گا اور اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔

عمرو بن العاص کی جغیر سے بات چیت | چنانچہ عبادہ نے مناسب موقع پر اپنے بھائی جغیر کو اس گفتگو کا خلاصہ سنایا جو اس کی حضرت عمرو بن العاص سے ہوئی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ آپ سے بھی اس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں۔ کچھ دن تک تو حضرت عمرو بن العاص کو اجازت نہ ملی۔ آخر ایک روز جغیر نے انہیں بلایا۔ اور ان کے آنے کی غرض دریافت کی۔ حضرت عمرو بن العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے حوالے کیا۔ اس نے پہلے اسے خود پڑھا اور پھر اپنے بھائی کو دے دیا کہ وہ بھی اس کے معنوں سے واقف ہو جائے۔ اس کے بعد اس کی حضرت عمرو بن العاص سے مندرجہ ذیل گفتگو ہوئی۔

جغیر۔ عمرو بن العاص کیا تمہارے نبی تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیئے گئے ہیں۔

عمرو۔ جی ہاں! تمام جہاں کے لوگوں کی طرف۔

جغیر۔ مگر میں ان کی دعوت قبول نہ کروں تو تمہو کیا کریں گے۔

عمرو۔ اس کا جواب خط کے آخر میں ہے۔۔۔۔۔ آپ ہر بانی کر کے خط کو دوبارہ پڑھیں

جغیر۔ عمرو بن العاص تفریق کے ساتھ کیا سلوک کیا تمہارا؟

عمرو۔ بعض لوگ اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہو گئے اور بعض تلوار سے مغلوب ہو کر لاکر آپ

اسلام نہ لائے تو مسلمانوں کے گھوڑوں کے ٹاپوں آپ کی سرزمین کو روند ڈالیں گے اور وہ آپ کے آدمیوں

کو ہلاک کر دیں گے۔ آپ اسلام لے آئیے امن میں رہیں گے اور بدستور اپنے عہد پر قائم رہیں گے۔

لے اس گفتگو کا نودان مطلب یہ تھا کہ اسلام لانے کے لیے جبر بھی کیا جاتا تھا کہ یا تو مسلمان ہو ورنہ تلوار سے ہلاک کر دیئے جائیں گے (باقی اگلے صفحہ پر)

جیفر مجھے معلوم ہوا ہے کہ اسی قسم کے خطوط بعض اور بادشاہوں کو بھی بھیجے گئے ہیں۔ ان میں سے بعض نے آپ کے نبی کا مذاق اڑایا۔ ان کے خطوط کو چھارٹرک مہینیک ویا اور ان کے قاصد کی توہین کی۔
عمروہ عنقریب مسلمانوں کے گھوڑے ان کی سرزمین کو اپنے ٹاپوں سے روند ڈالیں گے اور اس حرکت کا نتیجہ انہیں بخوبی معلوم ہو جائے گا۔

جیفر۔ اور فارس اور روم کے بادشاہوں کا کیا بتے گا؟
عمروہ۔ ان کے اور آپ کے علاقے مسلمانوں کے نیزوں کی زد سے دور نہیں ہیں، وہ نیزے تیزی کے ساتھ کافروں کے دلوں میں پیوست ہو جاتے ہیں۔

جیفر۔ عمرو بن العاص! تم مجھے دھکیاں دیتے ہو؟
عمروہ۔ میں آپ کو دھکیاں نہیں دیتا بلکہ بھلائی کی بات پیش کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس خط کا جواب دے دیں تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں لے جا کر اسے پیش کر دوں۔ مجھے آپ کی عقل و خرد اور اصابت رائے کو دیکھتے ہوئے امید ہے کہ آپ کا جواب نعمی کی بجائے اثبات میں ہوگا
جیفر۔ عمرو بن العاص! میں اس خط کا جواب کل دوں گا۔

چنانچہ حضرت عمرو بن العاص اپنی قیام گاہ پر واپس چلے گئے۔ اگلے روز وہ دوبارہ جیفر کے پاس پہنچے۔ رہا ان دونوں میں یہ گفتگو ہوئی:-

جیفر۔ عمرو بن العاص۔ میں نے اپنی رائے قائم کر لی ہے؟
عمروہ۔ انشاء اللہ وہ بہتر ہوگی۔

جیفر۔ ہاں! وہ ہمارے لئے بہتر ہے لیکن تمہارے لئے بُری ہے۔
عمروہ۔ میرے لئے بُری ہے؟ کس شخص کی یہ طاقت ہے کہ وہ مجھے کوئی ضرر پہنچا سکے؟
جیفر۔ میرا مطلب تمہاری قوم سے ہے نہ کہ تمہاری ذات سے۔ محمد کو یہ بات پہنچا دو کہ ان کی تلواروں کی زد سے عمان کا علاقہ محفوظ ہے۔ اگر انہوں نے یہاں کا قصد کیا تو ان کے مقابلے کے لئے بھی تلواریں اور نیزے حاضر ہوں گے۔ انہیں یہ بتا دینا کہ آباؤ اجداد کا ملک کوئی شخص اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں قریش پر فتح پانے کا غرور ہے اور اس غرور نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ تم دوسروں

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۶) ظاہر ہے کہ یہ بات قرآن کے ارشاد لاکلہ فی الدین کے سراسر خلاف ہے۔ پس ثابت ہوا کہ یہ جاری روایت زنی ہے۔ دحض علیہ السلام نے ایسا کئی حکم دیا، نہ حضرت عمرو بن العاص نے کوئی اس قسم کی بات کی۔ (مٹھا صاحبان پتی)

کی سرزمین پر تسلط حاصل کرنے کے خواہاں ہوا اور کسریٰ کی سلطنت پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ عمرو بن العاص نے آپ کی باتیں سن لی ہیں۔ آپ کو اپنے بغض و عناد اور انکار کا خمیازہ بھگتنا پڑ گیا۔ دونوں بھائیوں کا قبول اسلام | حضرت عمرو بن العاص کا آخری جملہ دونوں بھائیوں کے درمیان موقوف بحث اور دونوں کے افکار و خیالات میں انتشار پیدا کر کے کا باعث بن گیا۔ عباد اپنے بھائی سے زیادہ تاج و عواقب پر نظر رکھنے والا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کے مابین لمبی گفتگو ہوئی۔ دونوں نے مل کر کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا۔ ہر بار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس فقرہ پر ان کی نظر اٹک جاتی تھی۔

اگر تم اسلام کا اقرار کر لو گے تو میں تمہیں بادستور حاکم بنائے رکھوں گا لیکن اگر انکار کر دو گے تو تمہارا ملک تم سے چھین جائے گا.....“

یہ قول بالکل واضح تھا اور عبارت میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں تھی۔ ان کے سامنے دو راستے کھلے تھے ایک راستہ اختیار کرنے سے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہوتی تھی اور دوسرا راستہ اختیار کرنے سے ہلاکت اور زوال حکومت کا مہیب خطرہ سامنے نظر آتا تھا۔

بالآخر جیغرنے بھی معاملہ کی اہمیت کو سمجھ لیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے اور اسلام میں داخل ہونے کے لئے تیار ہو گیا۔ عمرو بن العاص اس وقت عمان سے رخصت ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ جیغرنے انہیں روک لیا اور انہیں اپنے پاس بلا کر مصافحت کیا کہ وہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کیسے کرے۔ حضرت عمرو بن العاص نے دونوں بھائیوں کو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی تلقین کی۔ چنانچہ ان دونوں نے ایسا ہی کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ باشندگان مملکت نے بھی ان کی تقلید کی اور کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح چند روز میں سارا عمان مسلمان ہو گیا۔

زکوٰۃ کی تحصیل | حضرت عمرو بن العاص شادان و فرحان مدینہ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس کارنامہ کی تفصیل بتائی جس میں انہیں عموماً استعمال کرنا پڑی اور نہ کوئی اور اختیار۔ انہوں نے ٹیم محض اپنی عقل سیاست اور دینی امور سے واقفیت کی بنا پر سر کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس کارنامہ سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے مناسب سبب سمجھا کہ عمرو بن العاص کو اسی علاقہ سے زکوٰۃ وصول کرنے اور وہاں کے لوگوں کو اسلامی احکام سکھانے کا کتاب اللہ کا درس دینے اور خدائی نذر پھیلانے کا کام سپرد کروا جائے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں دوبارہ عمان روانہ فرما دیا۔ حضرت عمرو بن العاص نے

بھی اپنی حکمت، فطانت اور ریاست کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے دل موہ لئے اور ہر شخص آپ سے محبت کے باعث خوشی خوشی اسلام کے احکام کی بجا آوری کے لئے تیار ہو گیا۔

دو سال تک حضرت عمر بن العاص عثمان میں اپنا مفوضہ کام سرانجام دیتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کا خط پہنچا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حادثہ فاجعہ کی خبر دی گئی تھی اور ہدایت کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو احکام دیتے تھے اور جو ذمہ داری سپرد کی تھی اسے بدستور بجا لاتے رہیں اور کسی قسم کی کوتاہی کے مرتکب نہ ہوں۔

اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن العاص کی وفات ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عمر بن العاص بڑے اخلاص اور محبت سے آپ کے احکام کی بجا آوری میں مشغول رہے۔ اور آپ کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لئے تیار رہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کے جانشین سے بھی ان کا تعلق اسی طرح قائم رہا جس طرح حضور سے قائم تھا۔ اللہ وہ اسلام کی سر بلندی اور اشاعت کے لئے ہر آن معزز عمل رہے۔

باب دوم

عمر بن العاص

میدان جنگ میں

- جنگ ذات السلاسل
- جنگائے مرتدین
- جنگائے شام و فلسطین
- فتح مصر
- فتوحات برقہ و طرابلس
- عمر بن العاص کے اصول جنگ

(۱)

جنگِ ذاتِ السلاسل

ابو عبیدہ! ہم جہاد میں مصروف ہیں، یہ سال
مراتب کا سال پیدا نہیں ہوتا، آپ اور آپ کے
تمام ساتھی میرے ماتحت ہیں۔ کیونکہ میری مدد کو کئے
میں۔ سپہ سالار کی حیثیت سے امامت کرا تا بھی میرا
ہی حق ہے؟

عمر دینِ العاص
کی گفتگو حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے

قبول اسلام کے بعد جنگ ذات السلاسل پہلی جنگ ہے جس میں حضرت عمر بن العاص کو قیادت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ جنگ قبیلہ قضاہ سے لڑی گئی تھی جو مدینہ سے دس دن کے فاصلے پر ذات القریٰ سے پرے تھی اور عذراہ کی بستیوں میں آباد تھا۔ اسے غزوہ ذات السلاسل اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں مشرکین نے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے زنجیروں کے ساتھ باندھ لیا تھا تاکہ میدان جنگ سے بھاگنے کی راہ بالکل مسدود ہو جائے۔ لیکن جب مسلمان ان کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسا عیب ڈالا کہ انہیں فرادہ ہوتے ہی بن پڑی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس مقام پر یہ جنگ ہوئی وہاں ایک چشمہ سلاسل نام کا تھا۔ اس چشمہ کے نام پر اس غزوہ کا نام ذات السلاسل پڑ گیا ایک اور روایت میں ہے کہ اس جگہ ریت کے پہاڑ زنجیر کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے اس جنگ کو ذات السلاسل کہا جانے لگا۔ یہ جنگ جمادی الثانی ۳ھ میں واقع ہوئی تھی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ حضرت عمر بن العاص نے بھی اسی سال اسلام قبول کیا تھا۔ وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قبیلہ قضاہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تین سو مہاجرین کا ایک لشکر تیار کیا اور اس کی قیادت حضرت عمر بن العاص کے سپرد کی۔ اس لشکر میں تیس گھوڑے تھے۔

حضرت عمر بن العاص اس مہم کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں :-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا بھیجا کہ میں کپڑے اور سہیاد پان کران کی خدمت میں حاضر ہوں جب میں تعمیل ارشاد میں حضور کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا :-

”عمر بن العاص! میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک لشکر کا سردار بنا کر باہر بھیجوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مل غنیمت سے سرفراز فرمائے گا اور ہر قسم کے خطرات سے تمہاری حفاظت کرے گا۔“

میں نے عرض کیا :-

”یا رسول اللہ! میں نے مال و دولت کے لالچ میں اسلام قبول نہیں کیا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- المال الصالح للہم الصالح یعنی تصالح مرد کو صالح مال ملتا ہے۔“

۱۔ قبیلہ ثقی، ثقی بن عمرو بن الحاتم بن قضاہ کی طرف منسوب تھا

۲۔ قبائل عذراہ اعذرہ بن سعد بن قضاہ کی طرف منسوب تھے۔

روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص کو سفید چھڑا مرحمت فرمایا اور ساتھ ہی ایک سیاہ چھڑا بھی دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ راستے میں سے قبائل کو اپنی مدد کے لئے ساتھ لے لیں۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص عینہ سے قضاہم کی جانب روانہ ہو گئے۔ کوچ کا طریق انہوں نے اختیار کیا کہ دن کے وقت چھپ جاتے اور رات کو سفر کرتے تھے۔

عمرو بن العاص کی جانب سے ملک کی درخواست | جب اسلامی لشکر دشمن کے علاقے کے قریب پہنچا تو مدد دہم پڑا کہ فزقی مخالفت کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چونکہ اسلامی لشکر کی تعداد بہت کم تھی۔ اس لئے حضرت عمرو بن العاص نے رافع بن کیث الجہنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج کر ملک کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہؓ بن جراح کو دو سو مہاجرین و انصار کے ہمراہ عمرو بن العاص کی مدد کے لئے روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ بھی شامل تھے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے روانگی سے قبل حضرت ابو عبیدہؓ کو مختلف انصاح کیں اور فرمایا کہ سب متحد رہنا اور اختلاف کی زبنت نہ آنے دینا۔

مسئلہ قیادت | حضرت ابو عبیدہؓ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عمرو بن العاص کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ لشکر کی قیادت کون کرے؟ عمرو بن العاص جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اس مہم کو سر کرنے کے لئے بھیجا تھا، یا ابو عبیدہؓ بن جراح جنہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عمرو بن العاص کی مدد کے لئے روانہ فرمایا تھا۔

جب نماز کا وقت آیا تو حضرت ابو عبیدہؓ نے امامت کرانی چاہی لیکن حضرت عمرو بن العاص نے کہا: آپ میری مدد کے لئے آئے ہیں، میں امیر ہوں اس لئے امامت میں ہی کراؤں گا! حضرت ابو عبیدہؓ نے جواب دیا:

ہنیں۔ تم اپنا مفوضہ کام سرانجام دو اور میں اپنا مفوضہ کام سرانجام دوں گا! حضرت عمرو بن العاص نے یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ تمام جنگی امور کو اپنی منشا کے مطابق انجام دینے کا حق صرف انہیں حاصل ہے۔ حضرت ابو عبیدہؓ بہت نرم مزاج انسان اور بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ دُنوی عزت ان کی نظر میں کچھ چیز نہ تھی۔ حضرت عمرو بن العاص کے

سلاہ آج کئی بیرونی طریقہ رائج ہے۔ لڑائیوں کے دوران میں فوجیں بالعموم رات کو سفر کرتی ہیں تاکہ دشمن سے ان کی نقل و حرکت

کے اصرار پر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد آ گیا جس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں اختلاف سے بچنے کی تلقین فرمائی تھی۔ انہوں نے عمرو بن العاص سے کہا۔

”عمرو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ تم دونوں اختلاف نہ کرنا۔ اس لئے اگر تم میرا کہا نہ بھی مانو گے تب بھی میں تمہاری اطاعت کروں گا۔“

بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک روز حضرت ابو عبیدہ نے امامت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمرو بن العاص نے اعتراض کیا۔ اس پر دونوں کے درمیان مندرجہ ذیل گفتگو ہوئی۔

ابو عبیدہ۔ عمرو بن العاص! امامت کرانا تمہارا حق نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امیر بنا کر بھیجا ہے۔

عمرو۔ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امیر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میری مدد کے لئے آئے ہیں اس لئے آپ اور آپ کے ساتھی میرے لشکر کا ایک حصہ ہیں۔

ابو عبیدہ۔ لیکن میرے ساتھی تو کبار صحابہ میں شامل ہیں۔

عمرو۔ یقیناً وہ کبار صحابہ میں شامل ہیں لیکن اس وقت ہم جہاد میں مصروف ہیں۔ یہاں مراتب کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اور آپ کے تمام ساتھی میرے ماتحت ہیں کیونکہ میری مدد کو آئے ہیں۔

سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے امامت کرنا بھی میرا ہی حق ہے۔

ابو عبیدہ۔ تب ہم دونوں امارت کے فرائض سرانجام دیں اور ہر شخص وہی کام کرے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے۔

عمرو۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ امیر ایک ہی ہو گا اور امامت بھی ایک ہی شخص کو اسے گا۔ ہم ایک صف میں کھڑے ہو کر دشمن سے مقابلہ کریں گے۔

ابو عبیدہ۔ عمرو بن العاص۔ اختلاف پیدا نہ کرو۔ کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔

عمرو۔ اگر میں آپ کا کہنا نہ مانوں تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے؟ ابو عبیدہ۔ یہ کہ میں تمہاری اطاعت کروں۔

عمرو۔ تب میں آپ کا کہنا نہیں مانتا۔ اور امامت میں ہی کراؤں گا۔

حضرت عمرو بن العاص کے اصرار پر حضرت ابو عبیدہ نے امارت و امامت سے دست کشی اختیار کر لی اور ان کے ماتحت ہو کر کام کرنا قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص ہی لوگوں کو ناز پڑھاتے رہے اور جنگ میں

دو ذول لشکروں کی قیادت بھی انہوں ہی نے کی۔

جنگ | حضرت عمرو بن العاص فوج کو لے کر آگے بڑھے اور دشمن کے علاقے میں پہنچ کر اس پر اچانک حملہ کر دیا۔ قضاہ نے کچھ دینک تو مسلمانوں کا سخت مقابلہ کیا لیکن پھر انہیں بھاگتے ہی بن پڑی اور وہ صحراء میں تقریباً ہونے لگے۔ حضرت عمرو بن العاص وہاں تین روز تک ٹھہرے۔ آپ روزانہ کچھ دستوں کو ادھر ادھر روانہ کرتے وہ بکریاں پکڑ لاتے۔ مسلمان انہیں ذبح کرتے اور کھا جاتے۔ اس جنگ میں تقسیم کرنے کے لئے کوئی مال مال غنیمت ہاتھ نہ آیا۔

لیکن بلاذری نے اس جنگ کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے :-

عمرو بن العاص نے قضاہ کے علاقے میں پہنچ کر ان پر حملہ کیا۔ دشمن بھاری تعداد میں مجتمع تھا لیکن مسلمانوں نے اتنے زور سے حملہ کیا کہ ان کی جمعیت پرالندہ ہو گئی۔ ان کے بے شمار آدمی قتل ہوئے اور کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا۔

حاکم بن بربہ بیان کرتے ہیں کہ اس جنگ میں حضرت عمرو بن العاص نے لشکر کو یہ حکم دیا تھا کہ کوئی شخص سردی سے بچاؤ کی خاطر آگ نہ جلانے۔ حضرت عمرو بن الخطاب کو یہ حکم سن کر بہت غصہ آیا اور انہوں نے اس کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا۔ حضرت صدیق نے جواب دیا :-
 عمر! عمرو بن العاص جو چاہتے ہیں انہیں کرنے دو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنگی ہمت کو دیکھ کر ہی انہیں سپہ سالار بنایا ہے!

یہ سن کر حضرت عمرو بن العاص خوش ہو گئے۔

ان حیاں سے روایت ہے کہ اسلامی لشکر نے عمرو بن العاص سے آگ جلانے کی اجازت مانگی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ لوگوں کو یہ حکم بہت گراں گزرا کیوں سخت سردی کے دن تھے اور لوگ آگ تاپنا چاہتے تھے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے شکایت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمرو بن العاص سے اس کے متعلق بات چیت کی۔ انہوں نے کہا۔

اس سے پہلے روایت کہ اس جنگ میں مال غنیمت کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا غلط ہے۔ کیونکہ حضرت عمرو بن العاص کو اس مہم پر بھیجے ہوئے فرمایا تھا یا محمد! انی اسرید ان الجنک علی حبیش فیخندک اللہ ویسلمک۔ یعنی تیرے عمرو! میں تمہیں ایک لشکر کا سردار بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مال غنیمت عطا فرمائے گا اور تم سلامت رہو گے! پس حضور کا فرمان اس طرح غلط ہو سکتا ہے (محمد احمد بانی تہی)

اس سے یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کرام کس قدر ضبط و تحمل اور خلوص و ایثار سے کام لیتے تھے (محمد احمد)

انگولی شخص آگ جلاتے گا تو میں اسے اسی آگ میں پھینک دوں گا"۔
بعض روایات میں ہے کہ عمرو بن العاص حضرت ابو بکر صدیق سے بہت سختی سے پیش آئے۔
اور انہیں کہا:-

"کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میری اطاعت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟"
حضرت ابو بکر نے جواب دیا۔ "بیشک"

حضرت عمرو بن العاص نے کہا "متب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجالائے"
جب حضرت عمرؓ کو عمرو بن العاص کی اس درشتی اور سخت کلامی کا علم ہوا تو انہیں بہت غصہ
آیا اور انہوں نے عمرو بن العاص کے پاس جا کر اس معاملہ کے متعلق گفتگو کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن
حضرت ابو بکر نے انہیں روک دیا۔

قتضائے کی شکست کے بن مسلمانوں نے ان کا تعاقب کرنا چاہا۔ لیکن حضرت عمرو بن العاص نے
انہیں اس سے بھی منع کر دیا۔ اور حکم صادر کیا کہ اپنی جگہ پر رہو اور بھاگنے والوں کا پھیمانہ کرو۔ بعض
لوگوں کو یہ حکم سن کر بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا:-
"آپ ہمیں مال عنینت حاصل کرنے اور مقررین کا تعاقب کر کے ان کا کلی طور پر قلع ترح کرنے سے
کیوں روک رہے ہیں؟"

حضرت عمرو بن العاص نے جواب دیا:-

تمہارے لئے دشمنوں کے وہ سرکائی ہیں جو دادی میں پھرے پڑے ہیں"۔
مسلمانوں نے اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے دوبارہ کہا۔

"لیکن خاتج فریق کا حق ہے کہ وہ بھاگنے والوں کا پھیمانہ کرے....."
حضرت عمرو بن العاص نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا:-

"میں نے جو حکم دیا ہے۔ اس میں تبدیلی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں اور جو شخص حکم عدویٰ کرے گا اسے
سخت سزا دی جائے گی۔"

۱۔ یہی روایت ابن مساکر نے اسماعیل بن ابی خالا کے حوالے سے بیان کی ہے۔
۲۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو مصنف کا وہ دعویٰ کہاں گیا جس میں اس نے کہا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص کو
کی بہت محبت تھی۔ انگوں کی محبت ہوتی تو وہ ضرور مقررین کا تعاقب کر کے مال عنینت حاصل کرتے (محمد احمد)

ابن حیان نے بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں نے جب دشمنوں کو شکست دی تو انہوں نے ان کا پھینکا کرنا چاہا لیکن حضرت عمرؓ بن العاص نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا جب مسلمان مدینہ واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ بن العاص سے پوچھا۔

”عمر! تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟“

حضرت عمرؓ بن العاص نے جواب دیا

”یا رسول اللہ! میں نے اسی میں بہتری سمجھی تھی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا

”تم نے مسلمانوں کو دشمن کا پھینکا کرنے سے کیوں روک دیا؟“

حضرت عمرؓ بن العاص نے جواب دیا۔

”یا رسول اللہ! ہم نے دشمنوں کے علاقے میں جا کر ان سے جنگ کی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر مسلمانوں نے ان کا پھینکا کیا اور پھینکا کرتے کرتے روز نکل گئے تو کہیں دشمن ملک لے کر ان پر لوٹ نہ پڑے۔ اللہ اس طرح ایک بار فتح حاصل ہونے کے بعد ہمیں شکست کا مزہ دیکھنا پڑے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔

”آگ کا کیا قصد ہے؟ جب تائیں سخت سردی ہوگی تو تم نے مسلمانوں کو آگ کیوں نہ جلانے دی؟“

حضرت عمرؓ بن العاص نے جواب دیا۔

”یا رسول اللہ! میں بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح سخت سردی محسوس کر رہا تھا اور میری بھی یہی خواہش تھی کہ آگ جلا کر تاپوں۔ لیکن مجھے ڈر تھا کہ جب روشنی پھیلے گی اور دشمن مسلمانوں کو دیکھے گا تو کہیں وہ ان کی قلت تعداد کو دیکھ کر ان پر حملہ نہ کر لیں۔“

یہ مسلمانوں نے جنگوں کے دوران میں آگ سے کئی مرتبہ کام لیا ہے۔ آگ سے کام لینے کا سب سے پہلا موقع فتح مکہ کے وقت پیش آیا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو خائف کرنے اور مسلمانوں کی بھاری تعداد سے ڈرانے کے لئے پہاڑ کے اوپر آگ روشن کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے بھی بعض روایات کی رو سے جنگ مؤتہ کے موقع پر آگ روشن کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ دشمن کو یہ خیال پیدا ہو کہ مسلمانوں کو بھاری کمک پہنچ گئی ہے۔ اور اس طرح اسلامی لشکر کی تعداد میں گراں قدر اضافہ ہو گیا ہے۔ لیکن غزوہ فاتحہ کے موقع پر حضرت عمرؓ بن العاص نے مسلمانوں کو سختی سے آگ جلانے سے اس لئے روکا کہ دشمن کو مسلمانوں کی قلت تعداد کا علم نہ ہونے پائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذرات قبول فرمائیے اور انہیں کچھ نہ کہا۔
قبولِ اسلام کے بعد حضرت عمر و بن العاص کو پہلی مرتبہ اس جنگ میں شرکت کرنے اور قیادت حاصل
کرنے کا موقع ملا تھا۔ اور اس میں ان کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس
کامیابی سے بے حد خوش ہوئے اور عمر و بن العاص کو مزید کامیابیوں کی نشاندہ دیتے ہوئے فرمایا۔
استعدا یا عمرو! لفتح المجدد ایدا۔ یعنی اے عمرو! اب نئی فتوحات کے لئے تیار ہو۔
اس کامیابی سے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ عمر و بن العاص میں قیادت کی اعلیٰ صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور
انڈازہ ہو گیا کہ گوانہیں اسلام لائے زیادہ عرصہ نہیں گزرنا چکیں، اہم اور نازک موقعوں پر ان پر کامل اعتماد
کیا جاسکتا ہے۔

اس جنگ کے واقعات کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر و بن العاص نے اس
موقع پر جن اصول جنگ کو اختیار کیا تھا وہ نہ صرف اس وقت حصولِ فتح میں مدد و معاون بنے بلکہ آئندہ
کے لئے بھی مسلمان تائیدین کے لئے مشعلِ ماہِ ثابت ہوئے۔ ان اصول کو پیش نظر رکھ کر ہر سپہ سالار اپنے
لئے کامیابی کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ ذیل میں ان کی قدرے تفصیل درج کی جاتی ہے۔

۱۔ دشمن کے مقابلے کے لئے سب سے ضروری امر یہ ہے کہ اپنے پاس اتنا لشکر ہو جس سے اس کا
بآسانی مقابلہ کیا جاسکے۔ انتہائی قلیل لشکر کے ساتھ بہت بھاری فوج کا مقابلہ کرنا بہت بڑی فوجی
حماقت ہے۔ حضرت عمر و بن العاص کو شروع ہی میں احساس ہو گیا تھا کہ ان کے اور دشمن کے لشکروں میں
بہت بھاری فرق ہے۔ اس لئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمک کی درخواست کی
تھی تاکہ فریقین کی قوتوں کا توازن برقرار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس امر کا احساس
تھا۔ چنانچہ جو پہلی حضرت عمر و بن العاص کی طرف سے مدد کی درخواست تھی، آپ نے حضرت
ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں ایک لشکر ان کی امداد کے لئے بھجوا دیا اور حضرت عمر و بن العاص
اس فوج کی مدد سے دشمن پر فتح پانے اور اس کی جمعیت کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

۲۔ حضرت عمر و بن العاص کو اپنی فوج کی سلامتی کا بے حد خیال رہتا تھا اور حقیقت یہ ہے
کہ جنگ کے دوران میں سپہ سالار پر سب سے اہم فرض یہ قائم ہوتا ہے کہ وہ اپنی فوج کو ملاقنت
سے بچائے۔ کامیاب تائید ہی کھلایا جاسکتا ہے جو جنگ سے پہلے، جنگ کے دوران میں
اور جنگ کے بعد ایسی تدابیر اختیار کرے جن کے نتیجہ میں اس کی فوج ہر طرح کے نقصان اور مزہد
سے محفوظ رہے۔ جنگ ذاتِ اسلامیہ کے واقعات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت

عمر دین العاص اپنی فرج کی سلامتی کے حد درجہ خواہاں تھے۔ اثنائے سفر میں وہ دن کی بجائے رات کو سفر اختیار کرتے اور دن میں کسی ایسی جگہ قیام کرتے۔ جہاں آنے جانے والوں کی نظریں لشکر پر نہ پڑ سکتیں۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ دن میں زوجوں کی نقل و حرکت سے دشمن کو بہت سی ایسی باتوں کا علم ہو جاتا ہے جو رات کے وقت کوچ کرنے سے نہیں معلوم ہو سکتیں۔ اس طرح انہوں نے دو بنیادی مقاصد حاصل کر لیے۔ اول یہ کہ اثنائے سفر میں ان کی فرج ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہی دوسرے یہ کہ نقل و حرکت کو خفیہ رکھنے کی وجہ سے دشمن ان کی آمد سے بالکل بے خبر رہا اور مسلمانوں سے مقابلے کے لئے خاطر خواہ تیاری نہ کر سکا۔

رات کے وقت لشکر کی آگ جلائے کی اجازت نہ دینے سے بھی اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عمر دین العاص کو اپنے آدمیوں کی سلامتی کا بے حد خیال تھا۔ ان کے اس حکم پر ان کے لشکر کے لوگ بہت تھلائے۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے تو اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کا بھی ارادہ کر لیا۔ کیونکہ رات سخت سرد تھی اور لوگوں کو گرمی حاصل کرنے کے لئے آگ جلانے کی بے حد ضرورت تھی۔ خود حضرت عمر دین العاص سردی سے بے تاب تھے لیکن اس نے باوجود انہوں نے اپنے اس حکم کو برقرار رکھا اور آگ جلانے کی اجازت دینے سے قطعاً انکار کر دیا۔ اس کی وجہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیان کی کہ مجھے ڈر تھا آگ کی روشنی میں دشمنوں کو مسلمانوں کی قبیل تعداد کا علم ہو جائے گا اور وہ ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔

اپنے لشکر کی سلامتی چاہنے کا ایک اور بڑا ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے کہ حضرت عمر دین العاص نے جنگ کے بعد اپنے لشکر کو دشمنوں کا تعاقب کرنے سے روک دیا اور اس معاملہ میں اتنی سختی کی کہ اعلان کر دیا جو شخص دشمن کا تعاقب کرے گا اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ مدینہ پہنچ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا۔

”ہم نے دشمن سے ان کے علاقے میں جا کر جنگ کی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور اپنی قیام گاہ سے دور نکل گئے تو کہیں دشمن ملک سے کران پر ٹوٹ نہ پڑے۔“

حضرت عمر دین العاص کو اس امر کا شدت سے احساس تھا کہ ایک لشکر میں دو قیادتوں کا ہونا انتہائی خطرناک اور اپنے ہاتھوں لشکر کو تباہی کے گڑھے میں اتارنے کے مترادف ہے۔ اسی لئے انہوں نے حضرت ابو عبیدہؓ کے اصرار کے باوجود ان کی علیحدہ قیادت کو تسلیم کرنے سے سختی سے انکار کر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت ابو عبیدہؓ کا مرتعہ درست نہ تھا اور اگر خدا نخواستہ حضرت عمر دین العاص

ان کی بات قبول کر لیتے تو لشکر کو انتہائی خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت عمرؓ نے ان سے صاف صاف کہا کہ ویا کہ مسلمان ایک قیادت کے ماتحت متحد ہو کر دشمن سے جنگ کریں گے اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میری مدد کے لئے بھیجا ہے اس لئے آپ میرے ماتحت ہوں گے اور یقیناً حضرت عمرؓ نے ان کا یہ موقف سونپھری درست تھا۔

۴۔ کوئی شخص بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت عمرؓ نے انتہائی بیدار مغز اور مستقل مزاج قائد تھے۔ چیکاپوسٹ اور ترو و کا ان میں نام و نشان تک نہ تھا۔ جنگ ذات السلاسل میں تین یونٹوں پر انہوں نے اپنے مستقل مزاج ہونے کا ثبوت دیا۔ اول اس وقت جب انہوں نے اصرار کیا کہ وہی قیادت کے فرائض سرانجام دیں گے۔ دوسرے اس وقت جب انہوں نے لوگوں کو آگ جلانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ تیسرے اس وقت جب انہوں نے لشکر کو دشمن کا قاتل کرنے سے روک دیا۔ مستقل مزاجی ایسی صفت ہے جس کا ایک سہ سالہ بچہ ہوتا ہے حد ضروری ہے۔ متردو اور مزید بے قائد کو کبھی اپنے آدمیوں کا اعتماد حاصل نہیں ہوتا کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا قائد کسی ایک راستے پر قائم نہیں رہتا۔ کبھی کوئی راستے اختیار کرتا ہے اور کبھی کوئی اور۔ کبھی کوئی حکم صادر کرتا ہے اور کبھی اس کے بالکل الٹ حکم دیتا ہے۔ اُسے خود اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی حکم صادر کرنے کے بعد جب وہ اس پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے وہ حکم نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ تب وہ اسے غور کر کے کوئی اور حکم صادر کرتا ہے لیکن غور و فکر کرنے کے بعد اس میں بھی کوئی نہ کوئی نقص نظر آتا ہے اس طرح نہ اس کی نائے کو استحکام حاصل ہوتا ہے اور نہ وہ ایک بات پر قائم رہتا ہے۔ اس طرح جنگ کے موقع پر جبکہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنی پریشانی خیالی کے باعث دشمن کے مقابلے میں کوئی ٹھوس اقدام کرنے میں ناکام رہتا ہے جس کا حیا زہ اسے شکست اور ناکامی کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔

حضرت عمرؓ نے ان میں یہ بات نہ سمجھی۔ وہ جب کوئی حکم دیتے تھے تو سختی سے اس پر قائم رہتے تھے اور اس میں کسی قسم کا رد و بدل کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ اس جنگ کے موقع پر اپنی اس خصلت کی بدولت انہیں ایک ایسے شخص سے بھی سختی سے پیش آنا پڑا۔ جو مسلمانوں میں انتہائی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ اور وہ تھے حضرت ابو بکر صدیقؓ۔ اپنے احکام کو سختی سے مزانے کے جذبہ کے تحت ہی انہوں نے یہ دھکی بھی دی تھی کہ جو شخص ان کی مخالفت کرے گا اسے موت کی سزا دی جائے گی۔

۵۔ ایک اور صفت جس میں حضرت عمرو بن العاص کو دوسروں پر امتیاز حاصل تھا وہ ان کی غیر معمولی دانشمندی تھی۔ اسی دانشمندی اور عقل و خرد کے بل بوتے پر انہوں نے بڑی بڑی جنگیں جیتیں اور بڑے بڑے دشمنوں پر کامیابی حاصل کی۔

بہترین قائد وہی شخص خیال کیا جاتا ہے جو جنگ کے موقع پر دشمنوں کے قابو میں آنے کی بجائے مختلف تدابیر کے ذریعے انہیں اپنے چنگل میں گرفتار کر لے۔ حضرت عمرو بن العاص میں یہ صفت بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ وہ دشمن کو اس طرح اپنے چنگل میں گرفتار کر لیتے تھے کہ وہ ہزار ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود نکل نہ سکتا تھا۔

جنگ ذات السلاسل کے موقع پر بھی بعض ایسے واقعات پیش آئے جن سے حضرت عمرو بن العاص کی عقلمندی اور ذہنی کا پتہ چلتا ہے۔ جب قیادت کے مسئلہ پر ان کا حضرت ابو عبیدہ سے جھگڑا ہو رہا تھا تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کی زبان سے یہ فقرہ سنا۔

”عمرو بن العاص! ہمیں اختلافات نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اختلافات سے بچنے کی نصیحت فرمائی ہے۔“

حضرت عمرو بن العاص نے پوچھا کہ اگر میں آپ کا کہنا نہ مانوں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روشنی میں آپ کیا طرز عمل اختیار کریں گے؟

حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا ”تب میں آپ کی اطاعت کروں گا“ حضرت عمرو بن العاص نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً کہا۔

”تب اے ابو عبیدہ! میں تمہارا کہنا ماننے اور تمہیں قائد تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں“ یہ دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قیادت کے دعوے کو ترک کر دیں تاکہ اختلافات پیدا نہ ہوں۔

۱۔ اس خطرناک موقع پر جبکہ طاقتور شخص سامنے تھا حضرت ابو عبیدہ جیسے مقتدر صحابی نے نہایت عقلی اور بڑی ذرا ذہنی اور بیدارمانی سے کام لیتے ہوئے اپنی قیادت کے دعوے کو چھوڑ دیا اور نہایت ایشاد و خلاص سے کام لیتے ہوئے حضرت عمرو بن العاص کی سپہ سالاری کو برقرار رکھتے ہوئے تسلیم کر دیا۔ حضرت امین عاصم نے موقع پر حکم پر پوری سے کام دیتے اور اپنی قیادت پر اصرار کرتے تو یقیناً مسلمانوں میں بھڑک پڑ جاتی اور اس صورت میں فاتح ہرگز حاصل نہ ہو سکتی جو امت کی صورت میں حاصل ہوئی۔ (محمد احمد پانی پتی)

حضرت عمرو بن العاص کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہی عقلمندی اور زیرکی و دانائی تھی۔ ان کی آئندہ جنگی زندگی میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اس وصف سے کام لے کر کس طرح عظیم فتوحات حاصل کیں اور بعض اوقات جبکہ شکست کا سبب خطرہ سامنے نظر آ رہا ہوتا تھا کس طرح اپنی عقلمندی کی بدولت آپ جنگ کا پانسہ اپنے حق میں پلٹنے میں کامیاب ہو گئے۔

۶۔ جنگ ذات السلاسل میں کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عمرو بن العاص نے دشمن پر اچانک حملہ کر کے اسے سنبھالنے کا موقع نہ دیا اور اس کی جمعیت کو منتشر کر کے اسے میدان جنگ سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔

(۲)

جنگہائے مرتدین

”قرہ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی رہے گا
اللہ کا اور مومنوں کے سینوں میں خوشحالی رہے گا اور
مسلمانوں کے نیزے مرتدین کے سینوں کو چھید
ڈالیں گے.....“

عمر بن العاص
کی گفتگو
قرہ بن ہبیرہ کے ساتھ

فقتنہ ارتداد | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام عرب میں ارتداد کا فتنہ جھلکی کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی میں خوف اور ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا۔ ان میں سے اکثر نے اس موقع کو موزوں خیال کرتے ہوئے ارتداد اختیار کر لیا اور اسلامی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔

طبری نے اس حالت کا نقشہ ابن القایم میں کھینچا ہے۔

"نفاق کا ستارہ اوج پر پہنچ گیا۔ یہودیوں اور نصرا نیلی کی بن آئی اور باہر لوٹ مسلمانوں کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے مسلمانوں کی حالت اس بکری کی سی ہو گئی جو چارٹھے کی سرد اور بارش دالی مات کو صحرائے تن و وق میں بغیر چرواہے کے رہ جائے اور سر چھپانے کو کہیں جگہ نہ مل سکے۔"

یعقوب بن محمد الزہری مؤلف کتاب المغنی نے لکھا ہے۔

"مردین نے بھانت بھانت کی بولیاں بولنی شروع کر دی تھیں۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبی ہوتے تو کبھی وفات نہ پاتے" بعض کہتے تھے "نبوت آپ کی وفات کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ اس لئے ہم آپ کے بعد کسی کی اطاعت نہیں کریں گے"۔ بعض کہتے تھے کہ ہم صومنا اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ بعض کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لئے بھی تیار ہیں۔ لیکن زکوٰۃ دینے کے لئے تیار نہیں۔"

یہ بغاوت کسی ایک جگہ محدود نہ تھی بلکہ تمام عرب میں پھیل گئی تھی حتیٰ کہ مکہ بھی اس سے محفوظ نہ رہا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے ارتداد کی تیاریاں شروع کر دی تھیں اور عامل مکہ عتاب بن اسید لوگوں کے خوف سے وہ پلوش ہو گئے تھے۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ اہل مکہ فتنہ کی آگ سے بچے رہیں۔ اس لئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابی حضرت سہیل بن عمرو کی سعی کے نتیجے میں ارتداد سے محفوظ رہے۔ بتو یہ کہ جب انہوں نے اہل مکہ کے تذبذب کی حالت دیکھی تو تمام لوگوں کو جمع کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کر کے کہا۔

آپ کی وفات سے اسلام کی قوت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس بائیسے میں جو شخص شک و شبہ میں گرفتار ہو گا، تذبذب کی ماد اختیار کرے گا اور ارتداد کے متعلق سوچے گا۔ ہم اس کی گردن اڑا

دی گئے :

مگر حقا کہ وحکی کا الٹا اثر ہوتا۔ اس لئے سہیل نے وحکی کے ساتھ ساتھ ترقیب و تحریر سے بھی انہیں ان الفاظ میں اسلام پر قائم رہنے کی تلقین کی :-

یقیناً اسلام بدستور قائم رہے گا۔ اسے کوئی ضعت نہ پہنچے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب ارشاد خلافت بھی تمہارے ہی حصے میں آئے گی :-

سہیل کے اس پروردہ سے نے اہل کس کے وطن پر وحکی سے زیادہ اثر کیا اور وہ ارتداد اختیار کرنے سے رک گئے۔

کہ مدینہ اور طائف کے درمیان جو قبائل آباد تھے یعنی مزینہ، اشجع، اعقار، جمینہ، السلم اور خزاعہ وہ بدستور اسلام پر قائم رہے۔

ارتداد اختیار کرنے والے قبائل وہ تھے جو قریب کے زناد میں اسلام میں داخل ہوئے تھے جن کے دلوں میں اسلامی تعلیمات راسخ نہیں ہوئی تھیں۔ ان میں سے بعض قبائل نے تو دعویٰ نبوت کا ذریعہ کی پیروی اختیار کر لی اور بعض نے اسلام کا تو اقرار کیا لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور دلیل یہ پیش کی کہ زکوٰۃ وصول کرنے کا اختیار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کیونکہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی۔

اس نکتے کو فرود کرنے کی ساری ذمہ داری خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما پر عائد ہوتی تھی۔ انہوں نے صحابہ کو جمع کیا اور تمام حالات ان کے سامنے رکھ کر مشورہ طلب کیا۔ بعض لوگوں کی رائے تھی کہ موجودہ حالات میں مرتدین سے جنگ کرنی مناسب نہیں ہے۔ لیکن بعض جنگ کرنے کو ضروری سمجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو خیر الذکر فریق کے ساتھ تھے۔ آپ نے مرتدین سے لڑنے اور ان کا قلع ترح کرنے کا حکم ارادہ کر لیا اور فرمایا اگر یہ لوگ مجھے ایک دسی بھی جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

۱۔ درمیان نبوت کا ذریعہ مندوبہ ذیل تھے :- (۱) عجم، اس نے نبو اس میں نبوت کا دعویٰ کیا (۲) سہلہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا (۳) مسیلہ اس نے نبو اس میں نبوت کا دعویٰ کیا (۴) ذوالستاج لعیط بن مالک اس نے عمان میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ (۵) اسود عسی، اس نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ (۶) جن قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا وہ ہیں اذریان، بزکانہ، غلفان اور فزہ تھے۔

دولم کے زمانہ میں دیا کرتے تھے، دینے سے انکار کریں گے تو میں اس رہی تک کی خاطر ان سے جنگ کر دوں گا!

چنانچہ آپ نے گیارہ جھنڈے تیار کرائے۔ ہر جھنڈا ایک ایک سردار کے سپرد کیا گیا۔ ہر سردار کے ساتھ فوج کا ایک ایک دستہ تھا۔ ان سرداروں کو روانگی کے وقت ایک ایک قرآن ایک ایک ہی مضمون کا لکھ کر دیا گیا اور تمام سرداروں کو اللہ سے جو نبرد کی جانب مدینہ سے ایک منزل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اپنی اپنی فوج کو لے کر اپنی اپنی منزل مقصود کو روانہ ہو گئے۔ ان سرداروں میں حضرت ثرذل بن العاص بھی شامل تھے۔ ذیل میں ہر سردار اعداد اُن کی منزل مقصود کی تفصیل درج کی جاتی ہے۔

- ۱۔ خالد بن ولید۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے بزازہ جا کر طلحہ بن خویلد اسدی سے جنگ کریں اور حیب و ہاں سے فارغ ہو جائیں تو بطاح جا کر ملک بن زویہ کی سرکوبی کریں۔
- ۲۔ عکرمہ بن ابی جہل۔ انہیں سیلہ کذاب کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا گیا۔
- ۳۔ قسریہ بن حسنہ۔ انہیں عکرمہ کے پیچھے ان کی مدد کے لئے روانہ کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ حیب سیلہ کو اب سے فراغت حاصل ہو جائے تو وہ حضرموت جا کر بؤکنذہ پر حملہ کریں۔
- ۴۔ ہاشم بن ابی امیہ، انہیں اسود غنسی، عمرو بن سعدی کرب اور قیس بن کمسوح کی سرکوبی کے لئے مضافاً روانہ کیا گیا۔

۵۔ سوید بن مقرن۔ انہیں مین جا کر اہل تہام سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔

۶۔ علاء بن حضرمی۔ انہیں بحرین بھیجا گیا۔

۷۔ حذیفہ بن حصص۔ انہیں عمان جا کر ذی النجاشی بن مالک سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔

۸۔ فرج بن ہریرہ۔ انہیں اہل ہبہ کی سرکوبی کے لئے بھیجا گیا۔

۹۔ عمرو بن العاص۔ انہیں تھام کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا گیا۔

۱۰۔ معاذ بن حارث السلمي۔ انہیں حضرت سلیم امین کے شریک حال ہوازن سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا گیا۔

۱۱۔ خالد بن سید بن العاص۔ انہیں شام کی سرحد پر بسنے والے قبائل کو مطیع کرنے کے لئے روانہ کیا گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عمرو بن العاص عمان میں تھے۔ انہیں حضرت ابوبکر صدیقؓ کے خط کے ذریعے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات کی خبر ملی۔ اس خط کے پہنچنے کے بعد بھی عمرو بن العاص اس وقت تک عمان میں رہے جب تک حضرت ابوبکر صدیقؓ نہ آئے انہیں واپس بلا لیا۔

والہی پر ان کا گورنر عام کی بستیوں سے تھا۔ ان کا سجاد قرہ بن مسیرہ تھا وہ حضرت عمرو بن العاص سے بہت اچھی طرح پیش آیا احمد ان کی خوب خاطر مددات کی۔ لیکن چونکہ تمام عرب میں ارتداد کا فتنہ پھیل چکا تھا۔ اس لئے قرہ بھی اس سے متاثر تھا۔ ایک دن دونوں کے درمیان مسند و جہیل گفتگو ہوئی۔

عمرو بن العاص کی گفتگو قرہ بن مسیرہ سے

قرہ - عمرو بن العاص! تمہارا موجودہ بغاوت کے متعلق کیا خیال ہے؟

عمرو - مولیٰ شورش ہے۔ جہنم میں فرد ہو جائے گی۔

قرہ - لیکن یہ تو تمام عرب میں پھیل ہوئی ہے۔

عمرو - کیا کچھ عرصہ پہلے ساما عرب مشرک نہ تھا، آخرا سے اللہ کے دین میں داخل ہونا پڑا۔

قرہ - لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں۔

عمرو - بیشک وہ فوت ہو چکے ہیں۔ لیکن ان کا دین زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر مومن کے دلوں میں بدتور

ضولگن ہے۔ ان کی تلواریں عنقریب مرتدین کے سینوں میں ماتریں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کافر باقی رہے گا۔

قرہ - کیا تمہیں اپنی کامیابی پر پورا اعتماد ہے؟

عمرو - یقیناً۔ جن تلواروں نے کل عربوں سے جہاد کیا تھا آج بھی وہ ان سے جہاد کرنے کے لئے تیار ہیں

اور اب ان کی شدت پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی۔

قرہ - کیا لڑائی کے علاوہ بھی عربوں سے مصالحت کی کوئی صورت ہے؟

عمرو - ہاں صرف ایک۔ وہ یہ کہ وہ دائرہ اسلام میں دوبارہ داخل ہو جائیں۔ اس صورت میں ان کی

گردنیں مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہ سکیں گی۔

قرہ - عمرو بن العاص! سارا جھگڑا زکوٰۃ پر ہے۔ عرب تمہیں یہ تاوان دینے پر کبھی ماضی نہ ہوں گے

اگر تم انہیں زکوٰۃ سجات کر دو گے تو وہ تمہاری اطاعت کرنے کے لئے دل و جان سے تیار

ہوں گے لیکن اگر اپنے مطالبہ پر اصرار کر دو گے تو سارا عرب تمہارے خلاف مجتمع ہو جائے گا۔

عمرو - قرہ! کیا تم بھی ارتداد کی رو میں بہ گئے ہو۔ میں تمہیں جہنم کی آگ کے کنارے کھڑا دیکھتا ہوں

جو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بھسم کرنے کے لئے تیار ہے۔ کیا تم میں عربوں سے ڈراتے ہو؟

خدا کی قسم! ہم گھوڑوں کے سوا سے عرب کی ساری سرزمین کو روند ڈالیں گے اور تمہاری گردنیں

ہمدی تلامذوں سے کسی طرح محفوظ رہ سکیں گی۔

مدینہ پہنچ کر حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کو تمام حالات سے مطلع کیا اور کہا کہ ان سے مدینہ تک تمام قبائلی ہمدے خلافت آمادہ پیکار میں اور لشکر فراہم کر کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔

بعد میں جب قرہ بن مہیرہ حالت امیری میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں بدستور اسلام پر قائم ہوں اور شہادت میں حضرت عمرؓ کو پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت عمرؓ کو تمام حالات سے پوچھا۔ انہوں نے قرہ کی کہی ہوئی تمام باتیں دہرائی شروع کیں۔ جب زکوٰۃ کی بات پر پہنچے تو قرہ بول اٹھا۔

”بس بس۔ اسے رہنے دو“

انہوں نے کہا۔

”کیوں؟ خدا کی قسم! میں تو ساری باتیں بیان کر دیں گا۔“

تاہم حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اسے معاف کر دیا اور اس کا مسلمان ہونا تسلیم کر لیا۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ نے جو گیارہ علم تیار کرائے تھے ان میں سے ایک علم جیسا کہ آپؓ پڑھ چکے ہیں عمرؓ نے لے بھی لیا۔ آپؓ نے انہیں قضاہ کے تدبیر سے جنگ کرنے کا کام سپرد کیا۔ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جنگ فاتحہ السلاسل میں قبیلہ قضاہ سے لڑ چکے تھے اور اس قبیلہ کے تمام حالات اور تمام راستوں سے بخوبی واقف تھے۔

قضاہ غوثی سے اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے بلکہ دیگر قبائلی کی طرح انہوں نے بھی خون کے باعث یا مال و جاہ کی طرح میں اسلام قبول کیا تھا اور ان کے دل اسلام کی محبت سے خالی تھے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چونکہ انہیں مسلمانوں کی کمزوری کا احساس ہوا انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ بارگاہ خلافت سے حکم ملنے ہی عمرؓ نے اپنے لشکر کے ہمراہ اسی راستے سے جزدام کی جانب روانہ ہوئے جس سے پہلے گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ قضاہ جنگ کے لئے پوری طرح تیار ہیں۔ مقابلہ شروع ہوا اور گھسان کا ملک پہلے کی طرح اب بھی قضاہ کو شکست کھاتی رہی بلکہ حضرت عمرؓ نے ان سے زکوٰۃ لے کر اور انہیں دوبارہ حلقہ کبوش اسلام بنا کر منظر منور مدینہ واپس آگئے۔

(۳)

شام اور فلسطین کی جنگیں

” کیا مسلمانوں کی فتوحوں کے آگے اربطیوں کی کوئی
حقیقت ہو سکتی ہے..... وہ تواریخ جنوں
نے برقی کی فوجوں کو شکست نامش دی اور اس
شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیں گی جو عمرو بن العاص
کی فوج کا مقابلہ کرنے کی جرأت کرے گا.....“

عمرو بن العاص کی گفتگو
اجنادین کے میدان میں
ردی پہ سالار
ارطیوں کے ساتھ

عراق میں مسلمانوں کی پیش قدمی | فتنہ ارتداد کے فرد ہونے اور عرب کے تمام قبائل کے اطاعت قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ ان کے ذہن میں طبعاً یہ خیال آیا کہ اسلامی سلطنت کو بیرونی حملوں کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے سرزمین عراق و شام کو مطیع کیا جائے لیکن وہ ہمسایہ سلطنتوں میں پیش قدمی کرنے کی نسبت سلطنت کے داخلی استحکام کو زیادہ ضروری خیال کرتے تھے۔ اسی لئے انہوں نے ابتدا میں اپنی تمام تر توجہ عرب کے مختلف حصوں میں امن و امان قائم رکھنے کی طرف مبذول رکھی۔ اسی اثنا میں انہیں اطلاع ملی کہ ایک شخص مثنیٰ بن حارثہ شیبانی جو بحرین کے قبیلہ بنو بکر بن مائل میں سے تھا اور جس نے علامہ بن حصرمی کے لشکر میں شامل ہو کر فتنہ ارتداد کو فرو کرنے میں حصہ لیا تھا، ایک لیلیٰ فوج کے ساتھ پیش قدمی کر کے بحرین کے شمال میں دجلہ اور فرات کے درمیان تک پہنچ گیا ہے۔ وہ ایرانی حکام جنہوں نے بغاوت کی آگ بھڑکانے میں بحرین کے مرتدین کی مدد کی تھی، اس کے آگے بے بس ہو گئے اور تاپ مقادمت نہ لاکر پیچھے ہٹ گئے ہیں۔

اس صورت حال نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے لئے غور و فکر کی نئی راہیں کھول دیں۔ اب ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کیا اس موقع پر مسلمانوں کو عرب کی حدود سے باہر بھیجنا مناسب ہوگا اور کیا غمی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ عراق میں گھس کر ایرانی سلطنت کے دروازے مسلمانوں کے لئے کھولنے میں کامیاب ہو سکے گا؟

حضرت ابوبکر صدیقؓ آئندہ اقدام کے متعلق ابھی کوئی فیصلہ کرنے نہ پائے تھے کہ مثنیٰ بن حارثہ نے خود مدینہ میں آ موجود ہوئے۔ اور تمام حالات خلیفہ کے گوش گزار کر دیئے۔ انہوں نے آپ کو یقین دلایا کہ عراق کی فتح سہل الحصول ہے۔ وہاں کے عرب قبائل ایمانیوں سے دل نفرت کے باعث ضرور اپنے ہم وطنوں کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائیں گے اور ہر طرح ان کی امداد کریں گے۔ اس لئے یہ نادر موقع ہاتھ سے نہ کھوٹا جاتا ہے اور سرزمین عراق میں اسلامی فوجیں روانہ کر دینی چاہئیں۔

کوئی قطعی فیصلہ کرنے سے پہلے حضرت ابوبکرؓ نے مدینہ کے اہل الرائے اصحاب سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ انہیں بلایا اور عراق کے تمام حالات سن کر مثنیٰ کی یہ درخواست ان کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ خالد بن ولید کو بلا کر یہ سارا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید اس زمانے میں مرتدین کی سرکوبی سے فارغ ہو کر یامہ میں

مقیم تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے انہیں فوراً مدینہ طلب فرمایا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب حضرت ابوبکرؓ نے عراق پر فوج کشی کے متعلق مثنیٰ کی تجاویز ان کے سامنے رکھیں تو انہوں نے بلائیں و پیش ان پر صاف کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکرؓ نے مثنیٰ کو ان کی خواہش کے پیش نظر ان لوگوں کا سردار مقرر کر دیا۔ جنہیں ہمراہ لے کر انہوں نے عراقی حدود میں پیش قدمی کی تھی اور حکم دیا کہ فی الحال وہاں کے عرب قبائل کو ساتھ ملانے اور اسلام قبول کرنے پر آمادہ کریں۔ جلد ہی مدینہ سے بھی ایک لشکر ان کی امداد کے لئے روانہ کیا جائے گا جس کی مدد سے وہ مزید پیش قدمی جاری رکھ سکیں گے۔

حکم کی تعمیل میں مثنیٰ عراق واپس آگئے اور نئے سرے سے عراق میں پیش قدمی شروع کر دی۔ مدینہ کے بوجیب کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابوبکرؓ صدیق نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو مثنیٰ کی امداد کے لئے عراق روانہ کیا اور ان کے ذریعے وہاں مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابیاں نصیب ہوئیں۔

شام کی جانب حضرت ابوبکرؓ صدیق کی توجہ | اسی اثنا میں حضرت ابوبکرؓ صدیق کی توجہ تمام کی طرف بھی مبذول ہو گئی۔ شام کی سرحد پر اسلامی فوج کے سردار خالد بن سعید بن العاص تھے۔ انہیں ہدایت تھی کہ جب تک خلیفہ کے واضح احکام ان تک نہ پہنچیں وہ نہ اپنی جگہ سے ہٹیں اور نہ اس وقت تک دشمن سے جنگ کا آغاز کریں۔ جب تک دشمن خود پہل کر کے ان کے مقابلے پر نہ آجائے۔ البتہ وہ گرد و نواح میں بسنے والے قبائل کو ساتھ ملانے کی پوری کوشش کریں اور ان قبائل کے جو ارتداد اختیار کر چکے تھے۔

خالد بن سعید نے حضرت ابوبکرؓ صدیق کے احکام پر پوری طرح عمل کیا جس کے نتیجے میں چند دن کے اندر اندان کے جھنڈے کے نیچے ایک تیز لشکر جمع ہو گیا۔ جب ہر غل کو اپنی سرحدوں پر اس عظیم الشان لشکر کے اجتماع کی خبر ملی تو اس نے بھی پورے زور شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ خالد بن سعید نے فوراً حضرت ابوبکرؓ کو خط لکھا جس میں ہر غل کی جنگی تیاریوں کا ذکر کر کے رومی سرحدوں پر چڑھائی کرنے کی اجازت طلب کی۔ مہلدا رومیوں کا لشکر اچانک مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے اور انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑے۔

حضرت ابوبکرؓ نے اتھائی غور و فکر کے بعد حضرت عمروؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت سعید بن ابی وقاصؓ، حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت زید بن ثابتؓ اور دوسرے بڑے بڑے مہاجرین و انصار کو طلب فرمایا اور یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اہل عرب کو شامیوں کے متوقع حملوں سے ہر طرح محفوظ رکھا جائے۔ اس غرض سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو تدابیر اختیار کیں انہیں پوری

طرح جا رہی تھی پیمانے نہ پائے تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی۔۔۔۔۔ اب آپ لوگوں نے سن لیا ہے کہ ہر قتل ہلاکے مقابلے کی غرض سے کثیر تعداد میں فوجیں جمع کر رہا ہے۔ میرے خیال میں ہیں اس خطے کا مقابلہ کرنے کے لئے پوری طاقت و جرات سے کام لینا چاہیے۔ اور رومیوں سے نہ ہر آزمائی کے واسطے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوجیں شام روانہ کرنی چاہئیں۔ جو شخص مارا گیا اسے شہادت کا رتبہ نصیب ہو گا اور جو زندہ رہے وہ مجاہدین کے زمرے میں شامل ہو گا۔ اور اللہ کے ہاں اس کے لئے جو اجر لکھا جائے گا۔ اس کا کوئی حساب و شمار ہی نہیں۔ اب آپ لوگ مشورہ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس نصرتِ حال کا کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے؟

تمام لوگوں نے متفقہ طور پر خالد بن سعید کی امداد کے لئے فوجیں روانہ کرنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ اس کے لئے تیاری شروع کر دی گئی۔

اس زمانے میں حضرت عمرؓ بن العاص مرتدین سے فراغت پا کر قضاء عمر میں مقیم تھے۔ حضرت ابو بکرؓ کی خواہش تھی کہ وہ بھی شام جا کر خالد بن سعید کی امداد کریں۔ لیکن ان کے کارناموں کی وجہ سے جو انہوں نے فتنہ ارتداد فرو کرنے کے سلسلے میں انجام دیے تھے، حضرت ابو بکرؓ نے انہیں اختیار دیا کہ خواہ وہ قضاء ہی میں مقیم رہیں انہوں نے شام جا کر وہاں کے مسلمانوں کی تقویت کا باعث بنیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے انہیں لکھا:-

”اے ابو عبداللہ! میں تمہارے سپرد ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے تمہارے لئے بہتر ہے۔ لیکن تمہاری خوشی مجھے بہر حال منظور ہے۔“

حضرت عمرؓ بن العاص نے جواب میں لکھا:-

”میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں اور اللہ کے بعد آپ اس کے تیرا نواز، جس طرف آپ کو کوئی خطرہ نظر آئے آپ بلا تامل اس تیر کو چلائیے جو بہت محنت اور دشمنی کے جگر کو چھلنی کرتے والا ہے۔“

شام بھیجنے کے لئے چار لشکروں کی تشکیل | حضرت ابو بکر صدیقؓ یہ خط پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے حضرت عمرؓ بن العاص کو عمان سے بلا لیا۔ آپ نے شام کی طرف روانہ ہونے والے اسلامی فوج کے چار حصے کئے اور ہر حصے کا علیحدہ علیحدہ امیر مقرر کر کے شمال کی جانب مندرجہ ذیل علاقوں کی طرف روانہ فرمایا:-

۱۔ حضرت ابو عبیدہؓ بن جراح : حمص

۲۔ عمرو بن العاص : فلسطین

۳۔ زید بن ابوسفیان : دمشق

۴۔ شریک بن حسنة : وادی اردن

چاروں فوجوں کی مجموعی تعداد ستائیس ہزار تھی۔ حضرت عمرو بن العاص کی کمان میں نو ہزار آدمی تھے۔ روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ان اہل راہ سے فرمایا کہ ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ساتھ ہی آپ نے حضرت ابوعبیدہؓ کو ان چاروں کا امیر مقرر فرما دیا۔

سب سے پہلی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان لشکروں کی مجموعی قیادت کا شرف حضرت عمرو بن العاص اپنے لئے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ حضرت عمرؓ کے پاس گئے تاکہ وہ حضرت ابوبکرؓ سے سفارش کر کے انہیں شاہی افواج کا سپہ سالار مقرر کرادیں۔ ان دونوں کے درمیان مندرجہ ذیل گفتگو ہوئی۔
 عمرو: ابو حفص! تم جانتے ہو کہ میں دشمن پر کس قدر سختی سے حملہ کرتا اور مستقل مزاجی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ بڑا بہر پائی آپ خلیفۃ المسلمین سے سفارش کریں کہ وہ ابوعبیدہ کی جگہ مجھے امیر مقرر کریں۔
 آپ نے دیکھا ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میری کتنی قدر و منزلت تھی؛ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ تمام کومسلمانوں کے قبضے میں سے دے گا۔ اور دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔

عمرؓ: ایسا ہو گا نہیں ہو سکتا۔ مجھے تمہاری بہادری اور جنگی صلاحیتوں سے انکار نہیں لیکن میرے نزدیک ابوعبیدہؓ پر کسی شخص کو امیر مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ ابوعبیدہؓ کی قدر و منزلت ہمارے دل میں تم سے زیادہ ہے۔ لیکن وہ تم سے بہت پہلے اسلام لائے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا: ابوعبیدہ اس امت کے امین ہیں۔
 عمرو: اگر میں امیر ہو جاؤں تو ابوعبیدہؓ کی قدر و منزلت میں کیا فرق پڑے گا۔
 عمرؓ: عمرو بن العاص! تمہارا مقدمہ موت دنیوی بڑائی اور عزت و ریاست حاصل کرتا ہے۔ تم اللہ سے ڈرو اور موت آخرت کے شرف اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تمہارے ساتھ

۱۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمرو بن العاص کی یہ خواہش اپنی بڑائی اور بزرگی کے لئے نہیں تھی بلکہ اسلام کی سر بلندی اور

غیبی کی فوج سے تھی۔ (محمد احمد پانی پتی)

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں حضرت عمرو بن العاص کی فوج کی تعداد ۹ ہزار تھی اور وہ مکہ اطاعت اہواز اور نوکلاب کے لوگوں پر مشتمل تھی۔ طبری اور ابن اثیر اس امر میں متفق ہیں کہ اس لشکر کو دو کام سپرد کیے گئے تھے۔

اول: فلسطین کو فتح کرنا

دوم: ضرورت پڑنے پر دوسری فوجوں کی، جو شام کی جانب روانہ کی گئی تھیں، اندر کرنا۔ روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمرو بن العاص کو بلایا اور محضاً امرِ حمت کرتے ہوئے انہیں مندرجہ ذیل نصائح فرمائیں :-

حضرت ابوبکر صدیق کی نصائح عمرو بن العاص کو | میں نے مکہ اطاعت، ہوازن اور نوکلاب پر مشتمل اس فوج کی قیادت تمہارے سپرد کی ہے۔ تم اسے لے کر فلسطین جاؤ۔ ابوجہدہ سے برابر خط و کتابت کرتے رہنا اور ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کو پہنچانا۔ کوئی اہم کام ان سے مشورہ کیے بغیر نہ کرنا۔ ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور خلوت میں بھی شرم و حیا سے کام لینا۔ کیونکہ کوئی مخفی عمل اللہ سے مخفی نہیں۔ دیکھو! میں نے تمہیں ان لوگوں پر بھی ترجیح دی ہے جنہوں نے تم سے پہلے اسلام قبول کیا اور حرمت میں بھی وہ تم سے مقدم ہیں۔ اس لئے چاہیے کہ تمہاری تمام کوششیں آخرت کے لئے ہوں۔ تم اپنا ہر کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے انجام دینا۔ فلسطین جانے کے لئے ایلیاء کا راستہ اختیار کرنا۔ جو کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے اس میں مطلق سستی نہ کرنا اور کاپی کو پاس تک نہ پھٹکنے نہ دینا۔ خبردار! اگلیں ایسا نہ ہو، تم یہ کہنے لگو کہ ابن ابی قحافہ نے مجھے ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لئے بھیج دیا ہے جس سے لڑنے کی طاقت مجھ میں نہیں۔ اے عمرو! اچھی طرح جان لو کہ تمہارے سامنے وہ مہاجرین اور انصار ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا۔ ان کی ہر طرح تعظیم و تکریم کرنا، ان کے حقوق کا ہر طرح خیال رکھنا، امداد کی وجہ سے ان پر اپنی فوقیت نہ جتاننا۔ تمہارے دل میں یہ شیطانی دوسرہ داخل نہ ہونے پائے کہ چونکہ تمہیں ابوبکر نے امیر بنایا ہے اس لئے تم ان سے بہتر اور نفس کے دھوکوں سے خبردار رہنا۔ لوگوں سے اس طرح مل جل کر زندگی بسر کرنا گویا تم بھی انہی جیسے ایک فرد ہو۔ ہر کام میں ان سے مشورہ لینا۔ ادا تے نماز کا خیال رکھنا۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ نماز ادا کرنے کا خیال رکھنا۔ جب نماز کا وقت آجائے تو اذان دلو کہ نماز پڑھنا، دشمن کی چالوں سے خبردار رہنا اپنے ساتھیوں کو ہر دم چمکس رہنے کی تاکید کرتے رہنا۔ دشمن وہ انہیں جنہیں دشمنی ہو خبردار رہنا۔ راتوں کو اپنے رفیقوں کے ساتھ زیادہ بیٹھا۔ مقابلے کے وقت طلایہ خاطر اپنے آپ کو وقف کر کے اس فوج کو حمت

کرتے وقت اختصار سے کام لینا۔ پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اس سے تمہارے ہمتوں کی بھی اصلاح ہوگی۔ دشمن کو سامنے دیکھ کر طبع و ثبات سے کام لینا اور قدم پیچھے نہ ہٹانا۔ یہ تمہارے لئے فخر کا موجب ہوگا۔ اپنے ساتھیوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی تاکید کرتے رہنا اور زمانہ جاہلیت کے تذکروں سے روکنا۔ کیونکہ اس کی یاد ان کے دلوں میں عداوت پیدا کرے گی۔ دنیوی ساز و سامان سے کنارہ کشی اختیار کرنا تاکہ تمہارا شمار تمہارے اسلاف میں ہو اور تم ان ائمہ میں سے گننے جاؤ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے :-

وَجَعَلْنَا هُمْ اُمَّةً يَهْتَدُونَ بِاَمْرِ نَادٍ اَوْ حِينَا اِلَيْهِمْ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَ اِقَامِ الصَّلَاةِ وَ اِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (اور ہم نے انہیں امام بتایا۔ وہ تمہارے حکم سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں نیکیاں کرنے، نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی اور وہ ہماری ہی عبادت کرتے ہیں) یہ نصائح کرنے کے بعد آپ نے فرمایا :-

اب تم روانہ ہو جاؤ۔ اللہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے کام میں برکت دے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی نصائح کا تجزیہ حضرت ابوبکر صدیق کی یہ نصائح آپ کے غور و فکر کی محتاج ہیں۔ اور اب سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جنگی احمد میں مہارت تامر حاصل تھی۔ ان نصائح کی اہمیت اور بلاغت کے باعث بہت سے یورپی مؤرخین مثلاً گین مزلت زوال سلطنت روم اور واشنگٹن اورنگ فولف تاریخ خلافت محمد ﷺ نے خصوصیت سے ان کا ترجمہ اپنی کتابوں میں درج کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی نصائح سے مندرجہ ذیل جنگی اصول اخذ ہوتے ہیں۔

۱۔ لڑائی کے دوران میں فوجوں کے پیرسالا رول کے درمیان کامل تعاون ہونا چاہیے (حضرت ابوبکر کے حضرت عمر بن العاص کو ہدایت کی تھی کہ اگر ابو عبیدہ ان سے مدد مانگیں تو وہ بلاشبہ ہمیشہ ہمیں مدد میں دوران جنگ میں مختلف لشکروں کے درمیان تعاون از حد ضروری ہے۔ ایسی حالت میں جیکو دشمن کو تعاون کے لحاظ سے تفوق حاصل ہو یہ تعاون اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں ان لشکروں کو متحد ہو کر دشمن کے

Gibbon - The History of The Decline and Fall of the Roman Empire.

Ruing - A History of the of Mohammad.

505

مقابلے میں آنا چاہیے۔

۶۔ فوجی کمانڈروں کو آپس میں برابر صلاح و مشورہ کرتے رہنا چاہیے | یہ اصول داعی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیا تھا اور حضور سے آپ کے جانشین حضرت ابوبکر صدیقؓ نے لیا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے یہ بات ناپسند فرماتے تھے کہ قائد میدان جنگ میں صرف اپنی رائے سے ہر کام کرے۔ بلکہ چاہتے تھے کہ وہ اہم امور میں اپنے ساتھیوں سے برابر مشورہ کرتا رہے۔ کیونکہ حصول فتح کے لئے یہ امر بے حد ضروری ہے آپ نہ صرف قائدین کو صلاح مشورہ کر کے کی ہدایت کرتے رہتے تھے بلکہ خود بھی اس اصول پر پوری طرح عمل پیرا تھے۔ جب کبھی کوئی نازک موقعہ درپیش آتا یا اہم مسئلہ سامنے آتا تو آپ اہل الرائے اصحاب اور اپنے مشیران کا راجع کرتے اور ان سے مشورہ لیتے۔ کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ اکیلے آدمی کی رائے سے وہ پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو بہت سے لوگوں کی مجموعی رائے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی نظر بالعموم معاملے کے صرف ایک پہلو پر پڑتی ہے جبکہ مختلف لوگوں کی نظریں معاملے کے بیشتر پہلوؤں پر پڑتی ہیں اور اسی لئے ان کی رائے ایک آدمی کی رائے سے زیادہ وسیع ہوتی ہے۔

۷۔ دوران جنگ میں سپہ سالار کو اللہ کی مدد و نصرت پر کامل ایمان ہونا چاہیے | اللہ پر ایمان انسان کو قوت و طاقت، شجاعت و ہمت اور عزیمت و صبر عطا کرتا ہے، موت اس کی نظروں میں حقیر ہو جاتی ہے۔ اور وہ بے خوف ہو کر دشمنوں کے مقابلے میں نکل آتا ہے۔ ایمان باللہ اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور دوران جنگ میں اپنے سے بڑے انسر کی اطاعت ان بنیادی امور میں سے ہے جو ہر سپاہی کو پیش نظر رکھنے چاہئیں۔

۸۔ فوجی کمانڈروں کو جنگ پر بھیجنے سے پہلے ان کی صلاحیتوں کا پورا اندازہ کر لینا چاہیے | حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت عمرؓ بن العاص کو ان کی روانگی کے وقت جو نصح فرمائی تھیں ان کے مطالعہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ انہیں اس اہم کام کا پوری طرح اہل سمجھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک سپہ سالار کو جن خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے حضرت صدیق عمرؓ بن العاص میں وہ سب خوبیاں موجود پاتے تھے۔ اسی لئے آپ نے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر انہیں قائد مقرر کیا اور ایسے متعدد مہاجرین اور انصار کو ان کے ماتحت کیا جنہیں ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنے اور جنگ بدر میں حصہ لینے کا شرف حاصل تھا۔ اس عزت افزائی کے نتیجے میں حضرت عمرؓ بن العاص کے دل میں طبعاً یہ خیال پیدا ہوا کہ خلیفۃ المسلمین نے ان کے سپرد جو فرائض عائد کیے ہیں وہ انہیں بحسن و خوبی ادا کریں اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سب کام کر کے اور اسلام کی سر بلندی کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر کے اس حسن ظن

کہ قائم رکھیں جو خلیفہ کے دل میں ان کی جانب سے پیدا ہوگیلہ سے اور جس کے باعث انہوں نے ان کو جلیل القدر صحابہ پر ترجیح دیتے ہوئے قیادت کی اہم ذمہ داری ان کے سپرد کی ہے۔

۵۔ سپہ سالار لشکر کے درمیان گہرا تعلق اور مضبوط رابطہ قائم رہنا چاہیے کسی سپہ سالار کو اس وقت تک فتح کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اور اس کی فوج کے باہمی تعلقات اچھے نہ ہوں۔ اگر سپہ سالار فوج کی غیر شنود ہی حاصل کرنے میں ناکام رہے گا تو کبھی اپنے دشمنوں پر کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا لیکن اگر فوج کے سپاہی اپنے قائد سے خوش ہوں گے تو وہ اس کے کہنے پر اپنی جانیں تک قربان کرنے میں سچکچا ہٹ محسوس نہ کریں گے اور کامل وفاداری کے ساتھ اس کے احکام کی بجا آوری میں مشغول رہیں گے۔

۶۔ قائد کو اپنا نیک نود فوج کے سامنے پیش کرنا چاہیے سپہ سالار کا نود فوج کے لئے مشعل راہ کا کام دیتا ہے۔ اور اس کی کارکردگی کا انحصار اسی نود پر ہوتا ہے۔ اگر قائد لشکر کا اپنا نود اچھا نہ ہوگا تو فوج کے جنگی شعور میں انحطاط رونما ہو جائے گا اور اس کا جوش اور ولولہ سرد پڑ جائے گا۔ لشکر اپنے سپہ سالاروں کے نقش قدم پر چلتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ قائد نیک اور پارہا ہو۔ غلطیوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے۔ خوف اترود اور نفاق کا اس میں شائبہ تک نہ ہو۔ اخلاق و عادات کے لحاظ سے بہترین ہونا ہو۔ جب فوج اپنے قائد کو ان اعلیٰ صفات سے متصف پائے گی تو وہ خود بھی ان فضائل کو اپنانے کی کوشش کرے گی اور اس طرح سارے لشکر کے اخلاق میں ایک عظیم تبدیلی رونما ہو کر انہیں فتح و نصرت سے قریب تر کر دے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی نصائح میں خاص طور پر تواضع، انکسار اور فروتنی اختیار کرنے پر زور دیا تھا اور انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ امارت اور قیادت کے باعث لشکر کے لوگوں پر اپنی فوقیت نہ جتائیں اور ان کے دل میں یہ خیال نہ آئے پائے کہ وہ علم اور تجربے کے لحاظ سے ان سے بہتر ہیں یہ ایک شیطانی دوسرہ ہے اور اس سے دور رہنا بے حد ضروری ہے۔

۷۔ لشکر کی حفاظت کا خاص طور پر انتظام کرنا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق نے منجد دیگر ہدایات کے حضرت محمد بن العاص کو ایک ضروری ہدایت یہ کی تھی کہ وہ لشکر کی حفاظت کے لئے خاص تدابیر اختیار کریں اور پہرے کا کڑا انتظام رکھیں۔ مبادا دشمن ان کی لیے خیر سے فائدہ اٹھا کر اچانک ان پر حملہ آور ہو جائے۔ اور انہیں شدید نقصان اٹھانا پڑے۔ اگر پہرے کا انتظام مضبوط ہوگا تو دشمن کبھی دھوکے سے حملہ آور نہ ہو سکے گا اور اچانک حملے کے نتیجے میں جن نقصانات اور تباہیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے لشکر اس سے محفوظ رہے گا۔

۸۔ قائد دشمن کے تمام حالات کا علم حاصل کرنا چاہیے | جب تک جا سوں کے ذریعے دشمن کے تمام حالات کا علم نہ ہو وہ ان کے مقابلے کے لئے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا سکتا۔ دشمن کے متعلق مزوری معلومات کی عدم موجودگی میں وہ جو قدم بھی اٹھائے گا اس کی افادیت مشکوک ہوگی۔ جا سوں کے ذریعے قائد دشمن کی تعداد اس کے اسلحہ اس کی جنگی تیاری اور قیمت سی ضروری باتوں کا علم ہو جاتا ہے اور وہ ان مفید معلومات کی زبردستی میں اپنے لئے صحیح ماہر عمل متعین کر سکتا ہے اور ایسے طریقے اختیار کر سکتا ہے جو اسے فتح و نصرت سے یقینی طور پر ہم کنار کر دیں۔

۹۔ اسلام کی راہ میں اپنی جان کی کوئی قیمت نہیں سمجھنی چاہیے اور شہاد کا جذبہ ہر وقت دل میں موجود رہنا چاہیے | اسلام اپنے پیروں سے اس امر کی توقع رکھتا ہے کہ وہ کسی نفسانی خواہش کے تحت میدان جنگ میں نہیں آئیں گے بلکہ محض خدا تعالیٰ کی رضا اور اعلیٰ دینی مقاصد کے حصول کی خاطر دشمن سے جہاد کریں اور اس راہ میں اپنی جان کی بھل کوئی پردہ نہ کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی حضرت عثمان غوث رضی اللہ عنہما کو اس امر کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی۔

۱۔ عمرو بن العاص فلسطین میں

فلسطین کی جانب کوچ | حضرت عمرو بن العاص نے ہزار فوج کے ہمراہ فلسطین کے لئے روانہ ہوئے اور ایلیا کے واسطے سفر کرتے ہوئے غز العریات میں جا کر اترے۔ جب شہنشاہ روم کو مسلمانوں کی نقل و حرکت کا پتہ چلا اور یہ معلوم ہوا کہ ان کے چلنا شروع کرنے کے لئے مدینہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ تو اس نے ہر لشکر کے مقابلے میں ایک ہزار فوج بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ مسلمان ایک ہی وقت میں مختلف جہات میں ان فوجوں کے درمیان بچسب جائیں۔ پورا نہیں آس میں ملنے اور کوئی متحدہ محاذ بنانے کا موقع نہ مل سکے۔ اس کا خیال تھا کہ مختلف علاقوں میں مصروف پیکار ہو جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت کمزور ہو جائے گی اور وہ رومی سلطنت کو چنداں نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔

دو بیروں سے مسلمانوں کی مدد بھیجنا | جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ایک لاکھ رومی ان کے مقابلے کے لئے تیار ہیں تو ان کے دلوں میں بے حد خوف و ہراس پیدا ہوا لیکن حضرت عمرو بن العاص مطلق خوف زدہ نہ ہوئے اور انہوں نے کامل بے خوفی سے دشمنوں کے مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ جب یہ بھیجی کا مقدمہ اٹھایا جو دس ہزار سپاہ پر مشتمل تھا سامنے آیا تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو ایک ہزار فوج دے کر سامنے سے حملہ کرنے کا حکم دیا اور ایک ہزار فوج کے ہمراہ خود دوسری طرف سے حملہ

کر دیا۔ پہلے ہی تہ میں رومیوں کا سپہ سالار مارا گیا جس کے نتیجے میں رومی فرج کے دلوں پر زبردست خوں دہراں طاری ہو گیا۔ کچھ عرصہ تک گھسان کی جنگ جاری رہی۔ بالآخر رومی مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لا سکے۔ اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مال غنیمت کے علاوہ سات مویدی بھی ہاتھ آئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے صرت سات آدمی شہید ہوئے۔ عربوں کے دلوں پر اس فتح کا نفسیاتی طور پر بہت گہرا اثر ہوا۔ بعد میں رومیوں کے متعدد لشکر ان کے مقابلے کے لئے آئے جو تعداد اور قوت و طاقت کے لحاظ سے ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے لیکن خدا کے فضل و رحم اور خود اہم تادی کے بل بوتے پر انہوں نے ہر جگہ کامیابی حاصل کی۔ رومیوں سے مسلمانوں کی دوسری جنگ اس جنگ کے باعث جہاں مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے وہاں رومیوں کے دلوں میں استقامت کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے کے لئے ایک لاکھ کا عظیم الشان لشکر تیار کیا۔ اور ان کی جانب بڑھے۔ مگر حضرت عمر بن العاص نے اس عظیم الشان لشکر کو کوئی اہمیت نہ دی اور بڑے اطمینان اور کامل بے خوفی کے ساتھ مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصہ کو مختلف بہادروں کی کمان میں دے دیا۔ میمنہ کا سردار ضحاک کو بنایا۔ اور میسرہ کا سعید بن خالد کو۔ ابو اللہ داؤد کو سادہ کی کمان سپرو کی۔ اور خود طلب لشکر کی کمان سنبھالی۔

عمر بن العاص جسنگوں کے دوران میں اس امر کا خاص طور پر التزام رکھتے تھے کہ اہل لشکر کو قرآن کریم کی آیات سنا کر ان کے دلوں میں اور جوش و خروش کو برقرار رکھا جائے۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی انہوں نے چند لوگوں کو اس کام پر مقرر کیا کہ وہ برابر قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتے رہیں۔ انہوں نے خود بھی صفوں کے درمیان چکر لگا کر لوگوں کو جوش و خروش دلانا انہیں لڑائی کی ترغیب دینا اور ان کے احساسات کو ابھارنا شروع کیا۔

بالآخر جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے اپنے بیڑوں سے دشمن کے گھوڑوں کو زخمی کیا اور جب رومی ان کی پیٹھوں پر سے اترنے پر مجبور ہوئے تو ان پر اچانک حملہ کر کے انہیں تہ تیغ کرنا شروع کیا۔

۱۔ نوح اشام واقعی جلد اول صفحہ ۱۱۰۔ ۲۔ امر قابل ذکر ہے کہ واقعی کے سوا کسی قدیم مؤرخ نے اپنی کتاب

میں اس جنگ کا ذکر نہیں کیا۔ اور محدثین اور مؤرخین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جس روایت کا راوی اکیلا واقعی ہو

وہ جھوٹی اور ناقابل اعتبار ہے (محمد باقی پتی)

کچھ دیر تک گھسان کی جنگ رہی۔ اور بالآخر رومی مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لاکر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر دین العاص نے اپنے لوگوں کو ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا اور ہزاروں رومیوں کو مار ڈالا۔ اثنائے تعاقب میں مسلمانوں کو ایک نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ اور وہ اس طرح کہ اس دوران میں رومیوں کے ایک حملہ کی وجہ سے حضرت عمر دین العاص کے سوتیلے بھائی خالد بن سعید شہید ہو گئے۔

جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت عمر دین العاص نے حضرت ابو علیہؓ کو ایک خط لکھا جس میں فتح کی خوشخبری دیتے ہوئے تحریر کیا۔

تین سرزمین فلسطین میں پہنچ گیا ہوں۔ یہاں ہمارا مقابلہ رومیوں کے لشکر ہزار سے ہوا۔ جو ایک لاکھ سواروں پر مشتمل تھا۔ اور جس کی قیادت ان کا بطریق تدمر میں کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں فتح عطا فرمائی اور رومیوں کے پندرہ ہزار سوار مارے گئے۔ لیکن مسلمانوں کے صرف ایک سو تیس آدمی شہید ہوئے۔ اگر میری خدمت ہو تو میں آپ کے پاس آنے کے لئے تیار ہوں۔ والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ۱۱

۲۔ عمر دین العاص یرموک میں

طبریؒ نے لکھا ہے کہ رومیوں نے ان پے در پے شکستوں سے جھنجھلا کر زبردست فوجیں جمع کیں اور ان کا سپہ سالار بالان کو مقرر کیا۔ اس نے بہت سے پادری اکٹھے کیے اور ان کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ اپنی تقریبوں سے لشکر کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر ابھاریں اور انہیں بالکل پھین ڈالنے کی تلقین کریں۔

جب حضرت ابو بکرؓ کو رومیوں کی زبردست افواج کے اجتماع کی خبریں ملیں تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید (جو ان دنوں عراق میں ایرانیوں سے برس بپا رہتے) کو حکم بھیجا کہ وہ مسلمانوں کی مدد

۱۱ طبری نے لکھا ہے کہ اس لشکر کی تعداد ستر ہزار تھی۔ ابن اثیر نے اس کی تعداد نوے ہزار لکھی ہے۔

۱۲ فتح الشام و امدی جلد اول صفحہ ۱۲

۱۳ طبری جلد ۳ صفحہ ۲۱۔ ابن اثیر جلد ۳ صفحہ ۱۶۰ نے بھی اس کی تائید کی ہے۔

کے لئے شام پہنچ جائیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولیدؓ شام پہنچ گئے اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ یرموک میں ڈیرے ڈال دیے۔

مسلمانوں کی بھرپور تعداد چالیس ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ ہر لشکر اپنے اپنے قانڈ کے ماتحت تھا۔ اور اسی سے تمام احکام لیتا تھا۔ اسلامی لشکروں کے درمیان نہ کوئی مابطلہ قائم تھا اور نہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لئے ان کے سامنے کوئی متحدہ پروگرام تھا۔

ردمیوں کی تعداد دو لاکھ چالیس ہزار سے بھی زیادہ تھی اور عدوی لتیق کے علاوہ تنظیم، اسلحہ اور سامان رسد کے لحاظ سے بھی وہ مسلمانوں سے بڑھے ہوئے تھے۔ علاوہ انہیں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے برعکس وہ ایک قیادت کے تحت تھے۔

دن گزرتے چلے گئے۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لئے مروج کی تلاش میں تھے۔ لیکن کوئی ایسا مروج مل نہیں رہا تھا۔

مسلمانوں کو ردمیوں کی بھاری تعداد دیکھ کر بے حد خوف محسوس ہوا تھا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر ایک خط حضرت عمر دین العاص کو لکھا جس میں اس نازک اور خوفناک مرحلے سے عہدہ بہا ہونے کے متعلق ان کی رائے طلب کی گئی تھی۔ حضرت عمر دین العاص نے جواب میں لکھا:

تیسری لائے یہ ہے کہ تمام مسلمان ایک جگہ مجتمع ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں ساگرم ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو قلدت توادو کے باوجود مغلوب نہ ہو سکیں گے لیکن اگر بدستور علیحدہ علیحدہ رہیں گے تو کوئی بھی لشکر ردمیوں کی جرات افواج کے سامنے ٹھہر نہ سکے گا۔

مسلمانوں نے اسی دوران میں حضرت ابو بکر صدیق کو بھی تمام حالات کی اطلاع دی تھی اور تمام جنگی صورت حال واضح کر کے ان سے آٹھ اقدام کے متعلق رائے مانگی تھی۔ انہوں نے بھی جو رائے دی وہ بالکل وہی تھی جو حضرت عمر دین العاص دے چکے تھے۔ انہوں نے لکھا:

تم سب مل کر ایک لشکر کی شکل اختیار کرو اور اسی حالت میں مشرکین سے مقابلہ کرو۔ تم اللہ کے مددگار ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے اور اس سے کوئی دشمنی اختیار کرتا ہے جو اس کا انکار کرتا ہے۔

اگرچہ حضرت عمر دین العاص کو شامی افواج کی قیادت حاصل نہ تھی۔ لیکن مسلمانوں کو ان کی اہم رائے

اور دور بینی کا ایک اور تجربہ ہو گیا۔ مسلمانوں کو جنگ یرموک میں جو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ اس کی اولین وجہ حضرت عمر دین العاص کی یہ رائے تھی جس پر عمل کر کے مسلمانوں نے دشمن کی طاقت کو کمزور کر دیا اور ان کے لئے فتح اور ظفر مندی کے راستے کھل گئے۔ حضرت عمر دین العاص کی عقل مندی اور اصابت رائے ہی تھی جس کے باعث حضرت عمرؓ کو ان پر کامل اعتماد پیدا ہو گیا اور آئندہ چل کر انہوں نے ان کے سپرد مستعد و اہم کام کیے جنہیں انہوں نے حسب سابق خوش اسلوبی سے سرانجام دیا۔ اگرچہ حضرت خالد بن ولید نے مرتدین کی جنگوں میں آپ سے بہت زیادہ کارنامے نمایاں سرانجام دیئے تھے اور عزراق و شام کی جنگوں میں بھی انہی کا پتہ بھاری تھا۔ تاہم فاروق اعظمؓ کی نگاہ میں جو مقام حضرت عمر دین العاص کا تھا وہ حضرت خالد بن ولید کو حاصل نہ ہو سکا۔

جب حضرت ابوبکر صدیقؓ کی طرف سے بھی وہی رائے موصول ہوئی جو حضرت عمر دین العاص اس سے قبل دے چکے تھے تو تمام سپہ سالار ایک جگہ جمع ہوئے اور آئندہ کے اقدامات پر غور و خوض کرنے لگے۔ سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے خطاب کیا جس میں انہوں نے چاروں اسلامی لشکروں کو ایک قیادت کے تحت متحد ہو جانے کا مشورہ دیا۔ آپ نے فرمایا۔

آج کا دن جنگ کے اہم ترین دنوں میں سے ہے۔ آج کسی کے لئے لغز و مہابات اور خود رائی و خود ستانی مناسب نہیں۔ جہاد خالص اللہ کے لئے کرو اور اپنے اعمال کو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بناؤ۔ یاد رکھو آج کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ ایک ایسی قوم سے جو ہر طرح منظم اور مرتب ہے تمہارا علیحدہ علیحدہ لڑنا کسی صورت میں بھی مناسب نہیں۔ اگر انہیں جو تم سے دور ہیں دیکھیں حضرت ابوبکر صدیقؓ نے تمہارے حالات کا علم ہوتا تو وہ کبھی تمہیں اس طرح لڑنے کی اجازت نہ دیتے۔ بے شک تمہیں ان کی طرف سے کوئی حکم تو نہیں ملے گا لیکن تم اس مسئلے کو اس طرح سرانجام دو گویا یہ تمہارا خلیفہ اور اس کے خیر خواہوں کا حکم ہے۔

حضرت خالدؓ کی تقریر سن کر امرانے کہا۔

آپ ہی فرمائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟

حضرت خالدؓ نے فرمایا۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ہمیں اس خیال سے یہاں بھیجا تھا کہ ہم یہ ہم باسانی سر کر لیں گے۔ اگر انہیں موجودہ حالات کا علم ہوتا تو وہ ضرور تمہیں اکٹھا رکھتے۔ جن حالات میں سے تم گزر رہے ہو وہ پہلے واقعات کے مقابلے میں بہت سخت اور مشرکہین کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم علیحدہ علیحدہ

جو مجھے معلوم ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو الگ الگ شہر کے لئے نامزد کیا گیا ہے۔ لیکن اگر تم اس موقع پر کسی ایک شخص کو اپنا امیر تسلیم کر کے اس کی اطاعت اختیار کر لو تو اس سے نہ تمہارے مراتب میں کوئی فرق پڑے گا اور نہ اللہ اور حضرت ابوبکرؓ کے نزدیک تمہارا درجہ کم ہوگا۔ ذرا دیکھو تو وہی دشمن نے کتنی زبردستی تیار کر رکھی ہے۔ یاد رکھو کہ اگر آج ہم نے انہیں ان کی خندقوں میں دھکیل دیا تو ہم ہمیشہ انہیں دھکیلتے ہی رہیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے ہمیں شکست دے دی تو ہم پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میری تجویز اس بار سے میں یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو باری باری اداست کا موقع ملنا چاہئے۔ اگر آج ایک امیر ہے تو کل دوسرا، پھر تیسرا، اترسوں چوتھا۔ اس طرح لشکر کے ہر قائد کو امیر بننے کا موقع مل جائے گا۔ آج کے لئے تم مجھے امیر بڑا دو۔

حضرت خالدؓ کی رائے نہایت معتدل تھی۔ تمام امراء جن میں پیش پیش حضرت عمرؓ بن العاص تھے اس پر متفق ہو گئے۔ اور پہلے روز کے لئے انہوں نے حضرت خالدؓ کو امیر مقرر کر دیا۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بڑائی بہر حال طول کھینچے گی۔ اس لئے باری باری ہر ایک کو امیر بننے کا موقع مل جائے گا۔ مسلمانوں کے لشکر عدیائے یرموک کے بائیں کنارے پر خمیہ زن تھے۔ رومی سپہ سالار نے یہ دیکھا تو اپنی پوری طاقت دریا کے دائیں کنارے پر ناکر جمع کر دی۔

دریائے یرموک حوران کی سطح مرتفع سے نکل کر بحیرہ طبریہ کے جنوب میں چند میل کے فاصلے پر دریائے اردن میں جاگرتا ہے۔ دریائے یرموک اور دریائے اردن کے مقام اتصال سے تیس چالیس میل اوپر دریائے یرموک ایک طویل و عریض میدان کے گرد چکر کاٹتا ہے جسے تین اطراف سے اردنی اونچی پہاڑیاں گھیرے ہوئے ہیں۔ اس میدان کو دوقوعہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ میدان اس قدر وسیع ہے کہ اس میں ایک عظیم الشان فوج آسانی سے خمیہ زن ہو سکتی ہے۔ زمینوں کے یہ جگہ پسند کی اور وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ یہ میدان وسیع تو بے شک تھا لیکن تین طرفوں سے پہاڑوں میں محصور ہونے کے باعث باہر نکلنے کا صرف ایک راستہ تھا جو بہت تنگ تھا۔ اس راستے پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اور رومی بالکل گھیرے میں آ گئے۔ حضرت عمرؓ بن العاص نے جب یہ دیکھا تو وہ جلا اٹھے۔ مسلمانو! تمہیں خوشخبری ہو۔ رومی گھیرے میں آچکے ہیں اور محصور فوج محاصرہ کرنے والی فوج کے چنگل سے شانہ نادر ہی بچتی ہے۔

حضرت خالدؓ نے لشکر کو اترتوں و بقیوں میں منقسم کیا۔ ایک دستہ کم و بیش ایک ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ قلب میں آپ نے اٹھارہ دستے رکھے اور حضرت ابوعبیدہؓ بن جراح کو ان کا سردار بنایا۔ مہینہ پورے دستے

متعین کیے اور ان کا سردار حضرت عمرو بن العاص کو بنایا۔ ان دونوں میں شریک بن حسن بھی تھے۔ میسرہ پر دس دس متعین کیے اور ان کا سردار زید بن ابی سفیان کو مقرر کیا۔ ان انتظامات سے یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے کہ حضرت عمرو بن العاص ان چند سپہ سالاروں میں سے تھے جن پر حضرت خالد بن ولید نے اس نازک ترین موقع پر کامل اعتماد کیا۔

یہ جنگ بڑی ہولناک جنگ تھی۔ رومی اس میں جان توڑ کر لڑے اور مسلمانوں پر اتنی شدت سے حملہ کیا کہ انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پیچھے ہٹنے والوں میں مسلمانوں کا علم بردار بھی تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمرو بن العاص اور حضرت خالد بن ولید دونوں اس کے ہاتھ سے علم لینے کے لئے آگے بڑھے۔ لیکن عمرو بن العاص پہلے پہنچ گئے اور انہوں نے پھرتی سے علم بردار کے ہاتھ سے علم لیا اور اسے ایک لمحے کے لئے بھی نیچا نہ ہونے دیا۔ میدان جنگ میں اپنا حینڈل پوری نشان سے لہراتا ہوا دیکھ کر ہزیمت خوردہ مسلمانوں کی بھی ہمت بندھ گئی اور انہوں نے دوبارہ مجمع ہر کر نئے جوش اور دلوانے کے ساتھ دشمن سے لڑنا شروع کر دیا۔

اس جنگ کے دوران میں رومیوں نے کچھ تیر انداز ایک خنایق میں چھپا دیے اور انہیں ہزیمت کی کو وہ تاک تاک کر مسلمانوں کی آنکھوں پر تیر چلاتے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور سات سو مسلمانوں کی آنکھیں بیکار کر دیں۔ اسی وجہ سے اس دن کا نام یوم التعمیر "مشہور ہو گیا۔ اسلامی لشکر یہ جواس ہو کر پیچھے ہٹا اور اعراء اور علم برداروں کے سوا کوئی بھی ثابت قدم نہ رہا۔ اس موقع پر حضرت عمرو بن العاص نے ابو عبیدہ بن جراح ابن زید بن ابی سفیان اور عبدالرحمن بن ابی بکر کو ساتھ لیا اور خود آگے بڑھ کر دشمنوں کا پامردی سے مقابلہ کیا۔ مسلمان عورتوں نے بھی اس موقع پر بہادری کا شاندار نمونہ دکھایا۔ بعض عورتیں مسجد ان جنگ میں بے خوفی سے چکر لگاتی ہوئی زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے اور انہیں پانی پلانے میں مشغول رہ گئیں اور بعض عورتیں گود چولی پر جا کر کھڑی ہو گئیں اور فرار ہونے والے مردوں کو عزت دلانے اور بھاگنے سے روکنے لگیں۔ ہزیمت خوردہ فوج نے جب یہ دیکھا تو اس نے اس ذلت و عار کے مقابلے میں لڑا کر جانے کو بہتر سمجھا۔ چنانچہ ساری فوج پٹی اور دشمن کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ سوج غروب ہونے پر وہیں میں ضعف کے آثار پیدا ہونے لگے ان کے سواروں کے چہروں سے شدید تھکاوٹ کے آثار پیدا تھے اور وہ بھاگنے کے لئے کسی راستے کی تلاش میں تھے۔ لیکن اس وقت ان کے لئے کوئی راہ قرار نہ تھی۔ دائرہ کی گھاٹی ان کے پیچھے تھی اور سلطان ان کے آگے نہ جانے رفتی رہا تے ماڈرن۔

حضرت خالد نے اندازہ کر لیا کہ رومی سواروں کا فرار ان کے ساتھیوں کے لیے مزید کمزوری کا باعث ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آدمیوں کو ایک طرف ہٹ جانے کا حکم دیا۔ جب ان سواروں

نے راستہ کھلا دیکھا تو بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس راستے سے نکلے چلے گئے اور سرزمین شام میں منتشر ہو گئے۔ جب میدان رومی سواروں سے خالی ہو گیا تو خالدؓ اپنے سوار اور پیدل دستے لے کر رومیوں کے پیدل دستوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کا صفایا کرنا شروع کیا۔ رومی اپنی خندق میں گھس گئے۔ خالدؓ وہاں بھی پہنچ گئے تو انہوں نے واقعہ کی گھائی کا رخ کیا۔ اکثر رومیوں نے میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کے لئے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھیں۔ وہ دھڑا دھڑا اس گھائی میں گرنے لگے۔ اگر ایک گرتا تھا تو دس کو ساتھ لے کر گرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی دیوار مع بنیاد زمین پس ہو گئی ہے۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ وہ لوگ کھڑکونہ دیکھ سکے۔ جو رومی بھاگ بھاگ کر ادھر آتے انہیں خبر نہ ہوتی کہ آگے والوں پر کیا گزری۔ وہ بھی اس کھڑ میں گرتے جاتے۔ طبری کے بیان کے مطابق ایک لاکھ بیس ہزار رومی واقعہ کی گھائی کی نذر ہوئے۔ ہرقل کا بھائی تذارقی بھی جو اس جنگ میں رومیوں کا سپہ سالار تھا، اسی سر کے میں قتل ہوا۔

۳۔ عمرو بن العاص دمشق میں

ابھی یروشک کا معرکہ جاری تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کی خبر پہنچ گئی۔ ان کی حسب حضرت عمرؓ خلیفہ مقرر ہوتے تھے۔ انہوں نے حضرت خالدؓ کو قیادت کے منصب سے ہٹا کر حضرت ابو عبیدہؓ کو تمام اسلامی افواج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ اور ایک خط کے ذریعے انہیں دمشق فتح کرنے کی ہدایت کی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا۔

..... اپنی جنگی کارروائی کا آغاز دمشق سے کرو۔ کیونکہ وہ شام کا مضبوط ترین قلعہ اور اس کا دار الحکومت ہے۔ نخل کی جانب بھی ایک دستہ بھیج دو تاکہ وہ اہل نخل کو اہل دمشق کی امداد کرنے سے باز رکھے۔ اگر دمشق سے پہلے ہی نخل فتح ہو جائے تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس وعدہ میں وہ فتح نہ ہو سکے تو دمشق فتح کرنے کے بعد وہاں کا نظم و نسق برقرار رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کے لئے ایک دستہ چھوڑ دو۔ اور خود تمام امراء اور سپہ سالاروں کو ساتھ لے کر نخل کا رخ کرو۔ جب وہ فتح ہو جائے تو تم اور خالدؓ چلے جاؤ۔ امداد شریلی اور عمرو بن العاص کو اردن اور فلسطین بھیج دو۔

ان ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا نشانہ یہ تھا کہ :-

- ۱۔ اہل عجلہ دمشق پر کیا جائے۔
- ۲۔ اہل فعل کو اہل دمشق کی امداد سے باز رکھنے کے لئے ایک دستہ اور بھی بھیجا جائے اور اگر ممکن ہو سکے تو فعل کو فتح بھی کر لیا جائے۔
- ۳۔ دمشق اور فعل فتح ہونے کے بعد ابو عبیدہؓ اور خالدؓ حصص کا نسخ کریں اور عمرو بن العاص اور شرجیلؓ اردن کا۔

خلیفہ المسلمین کی ہدایات کے مطابق حضرت ابو عبیدہؓ نے ابوالاعور السلمی کو تو ایک دستہ فوج دے کر فعل بھیج دیا اور خود خالدؓ، عمرو بن العاص اور شرجیلؓ بن حسنہ کو ساتھ لے کر دمشق کی جانب بڑھے۔ راستے میں انہیں کسی قابل ذکر مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور وہ باسانی غوطہ دمشق پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگ اسلامی لشکر کی آمد کی خبر سن کر فضیل شہر کے اندر چلے گئے اور ان کے گرجا اور گھر بالکل خالی پڑے تھے۔ حضرت ابو عبیدہؓ کو اسلامی لشکر کی رہائش کے لئے بہت اچھی جگہ میسر آگئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لوگوں کو انہی میں ٹھہرا دیا۔ اور اطمینان سے آئندہ اقدامات پر غور کرنے لگے۔ تمام ماحول کا جائزہ لینے کے بعد حضرت ابو عبیدہؓ اس نتیجے پر پہنچے کہ دعویٰ حصص اور فلسطین کے راستے اہل دمشق کو ہر قسم کی امداد پہنچا سکتے ہیں۔ اس صورت حال کے تدارک کے لئے انہوں نے مندرجہ ذیل طریقے اختیار کیے۔

- ۱۔ ذوالکلاع حیرہ کی قیادت میں ایک دستہ دمشق اور حصص کے درمیان متعین کر دیا۔ تاکہ اگر ہرقل اہل دمشق کی امداد کے لئے حصص سے کوئی فوج بھیجے تو اسے روکا جاسکے۔
- ۲۔ علقمہ بن حکیم اور مسروق العبسی کو دمشق اور فلسطین کے درمیان متعین کر دیا تاکہ فلسطین سے کسی قسم کی مدد دمشق نہ پہنچنے پائے۔
- ۳۔ مندرجہ بالا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد انہوں نے اپنی فوجوں کو دمشق کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا اور شہر کے ہر دروازے کے سامنے مندرجہ ذیل سپہ سالاروں کو متعین کر دیا۔

۱۔ ابوالاعور السلمی کے ہمراہ عرب کے بعض مشہور سردار اور بہادر لوگ بھی تھے۔ مثلاً عمرو بن یزید بن عامر المرثی، عامر بن حشمہ، عمرو بن کلیب، اعمارہ بن کلیب، اصیغی بن علیہ بن شامل، عمرو بن الحبیب بن عمرو، عبد بن خثعمہ اور بشر بن عاصم۔

عمر بن العاص	باب تو ما
شرجیل بن حسنہ	باب فرادیس
یزید بن ابوسفیان	باب کسبان (جسے باب صغیر بھی کہتے ہیں)
منالذہب بن ولید	باب شرقی

اس کے بعد ابو عبیدہؓ خود باب جاہلیہ کے سامنے خمیازہ بھونکے۔
۴۔ شہر کے چاروں طرف انہوں نے سختیوں اور دبا بے نصب کراؤ کے تاکہ حملہ کے وقت فسیل پر پتھر برسائے جا سکیں۔

حضرت عمر بن العاص کو شہر کے ایک اہم حصہ پر متعین کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہؓ کو بھی ان کی بہادری و شجاعت، اخلاص و وفا ملنے پر کامل اعتماد تھا۔ ان اہم اقدامات کا نتیجہ یہ ہوا کہ گھوڑے ہی عرصہ میں دمشق مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔

۴۔ عمر بن العاص فحل اور طیان میں

دمشق کی فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہؓ کے سامنے دو راستے تھے۔
اول یہ کہ وہ حصہ جاتیں بعد وہاں پر معتمد رومی فوجوں کو شکست دے کر شام کی فتح کا راستہ صاف کریں

۱۔ ڈاکٹر حسن پراچہم حسن نے اپنی کتاب تاریخ عمر بن العاص میں لکھا ہے کہ عمر بن العاص باب فرادیس پر متعین تھے۔ شرجیل بن حسنہ باب تو ما پر، ابو عبیدہؓ باب جاہلیہ پر، خالد بن ولید باب شرقی پر اور قیس بن مسیرہ باب فرج پر۔ انہوں نے یزید بن ابوسفیان کے باب کسبان پر متعین ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ دیکھیے کتاب تاریخ عمر بن العاص صفحہ ۵۹

۲۔ شام میں مسلمانوں کی پیش قدمی کے وقت ہر قلعہ دمشق میں معتمد تھا۔ جب اسلامی افواج نے دمشق کا بیسج کیا تو وہ وہاں سے حصہ چلا گیا۔ وہاں سے اس نے دمشق والوں کی مدد کے لئے فوجیں بھیجنے کی کوشش کی لیکن مسلمانوں کی احتیاطی تدابیر کے باعث وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ دیکھ کر وہ حصہ سے انطوا کیہ چلا گیا۔ اگر حضرت ابو عبیدہؓ حصہ پر حملہ کر دیتے تو ہر قلعہ انطوا کیہ چھوڑ کر اناطولیہ یا قسطنطنیہ بھاگ جانے پر مجبور ہوتا۔ اس طرح ————— تمام سرزمین شام میں رومی کسی جگہ بھی جم کر مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکتے اور حضرت ابو عبیدہؓ بہت آسانی سے اس علاقے پر قبضہ کر لیتے۔

دوم یہ کہ ابلاہ عود السلسی کی مدد کے لئے نخل جائیں۔
اس وقت صورت حال یہ تھی کہ جن رومی فوجوں نے یرموک کے میدان میں عبرت تک شکست کھائی تھی وہ بحیرہ طبرہ کے جنوب میں نخل میں مجتمع ہو گئی تھیں اور ہر قتل نے ان کی امداد کے لئے مزید فوجیں بھی روانہ کی تھیں۔ جب ابلاہ عود السلسی نے نخل کا رخ کیا تو رومیوں نے دریا کے بسند توڑ ڈالے جس کے باعث یہ سارا علاقہ زیر آب آ گیا اور اسلامی لشکر آگے نہ بڑھ سکا۔ دوسری طرف رومیوں کی نقل و حرکت بھی کلیتہً مسدود ہو گئی اور نخل کے پرے وادی بیسان میں محصور ہونے پر مجبور ہو گئے۔

جب مسلمان دمشق کی فتح سے فارغ ہوئے تو دوسم گرام شروع ہو چکا تھا اور دھوپ کی شدت کے باعث نخل کے علاقے کا پانی خشک ہو گیا تھا۔ لہذا اسلامی افواج نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دمشق سے نخل کا قصد کیا۔ اس کی مہم کی سربراہی شرجیل بن حسنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے

- ۱۔ ابلاہ عود السلسی کو طبرہ کا محاصرہ کرنے والی فوج کا علم بردار بنایا۔
- ۲۔ خالد بن ولید کو مقدمہ الجیش کی قیادت سپرد کی۔
- ۳۔ عمرو بن العاص اور ابو عبیدہ کو مہینہ اندھیرہ پر مقرر کیا۔
- ۴۔ حنظل بن الاذور کو سوار فوج کی قیادت سونپی۔
- ۵۔ عیاض بن غنم کو بقیہ سپیل فوج کا سردار مقرر کیا۔

سلا نخل پر قبضہ کرنے کی سکیم جنگی لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل تھی کیونکہ اس طرح ان تمام رومی افواج کا قطع نخل ہوجانا تھا جو مسلمانوں کی پشت پر موجود تھیں۔ نخل کی فتح کے بعد مسلمان پشت کی جانب سے رومیوں کے کسی اچانک حملے کے خطرے سے محفوظ ہو گئے اور یہ اندیشہ بھی جاتا رہا کہ رومی کسی وقت موقع پا کر مسلمانوں کا راستہ قطع کر دیں گے۔

۳۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے یزید بن ابوسفیان کو دمشق کی حفاظت کے لئے چھوڑا اور وہ ہزار فوج کو ہاشم بن عقبہ اور تغابن عمرو کی سرکردگی میں عراق روانہ کر دیا۔ کیونکہ انہیں خلیفۃ المسلمین کی طرف سے یہ احکام موصول ہوتے تھے کہ عراق سے آنے والے لشکر کو واپس عراق بھیج دیا جائے۔

۴۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اردن کی امارت کے لئے شرجیل کو، حمص کی امدت کے لئے ابو عبیدہ کو، امداد کی امدت کے لئے یزید کو اور عربات کی امدت کے لئے عمرو بن العاص کو نامزد کیا تھا۔ اور حکم دیا تھا کہ جس علاقے میں جنگ ہو وہاں تیاریت، عمار کے فرائض وہی شخص سرانجام دے گا جسے وہاں کی امارت سپرد کی گئی ہوگی۔ حضرت عمرؓ نے بھی حضرت ابو بکر صدیقؓ کے اس حکم کو برقرار رکھا اسی لئے سرکردہ نخل میں قیادت کے فرائض شرجیل نے سرانجام دیے۔

یروشلم سے جھگڑنے والی رومی فوجوں نے دریائے اردن اور دیائے یروشلم کے مقام التصال کے قریب ام قیس کے مقام پر دریا کو عبور کیا اور داعی غور کو طے کر کے مسلمانوں کے باقاعدہ خیمہ زن ہو گئے۔ ان کی مدد کے لئے جو فوجیں آئی تھیں انہوں نے بیسان کی حفاظت کے لئے ادھر کا رخ کیا۔

جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت عمرو بن العاص نے حسب معمول بڑی پارہی سے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور رومیوں کو شکست فاش اٹھانی پڑی۔ ان کا سپہ سالار سقلا اور اس کا نائب لسطوس میدان جنگ میں قتل ہوئے۔ جب رومیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے بری طرح بھاگنا شروع کیا لیکن وہ اس سبب لیل میں پھنس گئے جو خود انہوں نے تیار کی تھی۔ مسلمانوں نے دلدل میں پھنسنے والے کسی ایک شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑا اور اسی ہزار رومیوں کو اسی حالت میں قتل کر ڈالا۔

حضرت عمرو بن العاص کی سرگرمیاں اس عظیم الشان فتح کے بعد ختم نہ ہوئیں۔ وہ شرجیل کے ہمراہ بیسان پہنچے۔ ان کے ساتھ حارث بن شام اور سہیل بن عمرو بھی تھے جن کا شمار عرب کے بڑے بڑے سرداروں میں ہوتا تھا۔ شہر کے لوگ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمرو بن العاص نے جگر ان کا محاصرہ کر لیا۔ اہل شہر زیادہ عرصہ تک محاصرہ کی تکلیفیں برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے مجبور ہو کر صلح کی درخواست کی جسے حضرت عمرو بن العاص نے قبول کر لیا۔ اس صلح کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ اہل طبریہ بھی مسلمانوں کی اطاعت قبول کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ جن کا محاصرہ ابوالاعور اسلمی نے کیا ہوا تھا۔

۵۔ عمرو بن العاص جنادین میں

فحل، بیسان اور طبریہ میں فتوحات حاصل کرنے کے بعد ابوعبیدہ اور خالد بن ولید شمالی شام چلے گئے۔ اور عمرو بن العاص اور شرجیل نے فلسطین کا قصد کیا۔ جہاں رومی سالار ارطربون نے جو عقل و دانش اور فراخی میں اپنے ہم عصر سرداران فوج سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھا زبردست فوجیں لئے موجود تھا۔ ارطربون نے سائے فلسطین میں رومی فوجوں کا حال پھیلا رکھا تھا۔ ایک بھاری لشکر رومیوں میں متعین تھا۔ اور اسی کے ہم پلا کیا

۱۔ طبریہ نے اس رومی سپہ سالار کا نام ارطربون لکھا ہے۔ القزوین اور طبریہ کے قریب واقع ہے (۱۱۵) بعض کتابوں میں اس کا نام ارطربون لکھا ہے۔

۲۔ شہر کا مشہور اصل اٹھویں صدی عیسوی میں لانا نامی ایک قبیلے کے قریب آباد کیا گیا تھا۔ چونکہ راجہ جی تباہ و برباد ہو گیا تھا اس لئے توڑخیں عرب نے اس خیال سے کہ قادیان کو شہر کے محل وقوع کے متعلق پیچیدگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ راجہ کو رولہ کا نام دے دیا۔

لشکر ایلیاد میں موجود تھا۔ ان کے علاوہ بسطیہ، بابلس اور یافا میں بھی فوجی دستے متین تھے۔ قیساریہ کی سرحد پر تو فوجی انتظامات حد کو پہنچ چکے تھے۔

قیساریہ کی فتح | حضرت عمرو بن العاص تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ رومی تعداد میں مسلمانوں سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں اور سارے محاذوں پر ایک دم لڑائی چھیڑ دینے سے وہ کبھی رومیوں پر فتح نہیں پا سکتے۔ اس لئے سب سے پہلے قیساریہ حملہ کر کے اسے اپنے زیر نگیں لانا چاہئیے۔ قیساریہ پر قبضہ کرنا اس لئے بھی ضروری تھا کہ وہ رومیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا۔ رومیوں نے وہاں کے قلعہ کو خوب مستحکم کیا ہوا تھا۔ جس علاقے میں بھی فوجی کمک کی ضرورت ہوتی تھی، وہ قیساریہ سے ہی آئی جاتی تھی۔

حضرت عمرو بن العاص نے اپنی ماٹھے امیرالمؤمنین کو لکھ بھیجا۔ امیرالمؤمنین نے بھی اس سے اتفاق کیا اور حضرت معاویہ بن ابوسفیان کو قیساریہ جا کر اسے فتح کرنے کا حکم بھیجا۔ آپ نے انہیں لکھا۔

”میں نے نہیں قیساریہ کا والی مقرر کیا ہے۔ تم اس کی جانب روانہ ہو جاؤ اور اسے فتح کرنے کے

لہ ایلیاد بیت المقدس کا دوسرا نام ہے۔ وہ جنوبی فلسطین میں ایک پہاڑی علاقے میں واقع ہے۔ وہاں قدیم زمانے سے ایک مضبوط و مستحکم قلعہ بنا ہوا تھا جسے جنگی لحاظ سے بہت اہمیت حاصل تھی۔ قدیم مصری اپنے ان دشمنوں کو لپہا کرنے کے لئے جو فلسطین کی راہ سے مصر پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی قلعہ کو استعمال کرتے تھے۔

حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے عہد میں یہ شہر مصر کی سلطنت سے علیحدہ ہو گیا۔ حضرت سلیمان نے یہاں ایک ہیکل تعمیر کی۔ سترہ قبل مسیح میں جب اہل نارس نے فلسطین پر چڑھائی کی تو شہر اور ہیکل کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ بعد میں یہ ہیکل دوبارہ تعمیر کی گئی اور اسے یہود نے اپنی عبادت گاہ بنا لیا جہاں وہ اپنے مذہبی شعائر بجا لاتے تھے۔ جب ہیرڈوس فلسطین پر قابض ہو گیا تو اس نے اس ہیکل کو گرا کر از سر نو تعمیر کرایا۔ بعد میں اس شہر پر مسیحی قابض ہو گئے۔ انہوں نے اسے مضبوط و مستحکم بنانے میں اپنی پوری طاقت کو صرف کر دیا۔ سترہ عیسوی میں جب اہل نارس نے ایک بار پھر فلسطین پر چڑھائی کی تو پورے اٹھارہ روز کے محاصرہ کے بعد اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ جب ہرقل شاہ روم نے اس پر دوبارہ قبضہ کیا تو اس نے شہر کے یہودی باشندوں پر شدید مظالم ڈھانے شروع کیا۔ کیونکہ اس کے خیال میں ایرانیوں کے حملے کے وقت یہودیوں نے غدار کی تھی اور شہر کے بعض پرشیدہ ماسٹروں کی نشان دہی کر کے انہیں اس پر قبضہ کرنے کا موقع فراہم کیا تھا۔

لیے اللہ تعالیٰ سے مدد نصرت طلب کرو۔ ان کلمات کا ہمیشہ ورد کرتے رہو۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہ سہنا و ثقنتنا و ساجدنا و مولانا نعم المولى و نعم النصير ہر قسم کی قوت و طاقت اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ ہمارا پروردگار، ہمارا آسرا اور ہمارا دوست ہے اور بہترین دوست اور بہترین درکار ہے۔

تعلیم حکم میں حضرت معاویہ قیساریہ پہنچے اور شہر پر حملہ کر دیا۔ بڑی ہولناک جنگ ہوئی۔ جس میں مسلمانوں کا پتہ بھاری رہا اور وہ شہر پر قابض ہو گئے۔ اس جنگ میں رومیوں کے اسی ہزار آدمی قتل ہوئے۔ قیساریہ فتح ہونے سے مسلمانوں کو بے حد فائدہ پہنچا۔ اور اس جانب سے شام میں مقیم رومی فوجوں کو جو مدد پہنچا کرتی وہ بالکل مسدود ہو گئی۔ حضرت عمرؓ کو بھی جب اس کے فتح ہونے کی اطلاع ملی تو آپ نے تمام اہل مدینہ کو جمع کر کے یہ خوشخبری سنائی اور انہیں اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالانے کی تلقین فرمائی۔

غزوہ کا محاصرہ | ارطون سے فیصلہ کرنے سے پہلے حضرت عمرؓ بن العاص نے ہر جانب سے اطمینان کر لیا جانا۔ قیساریہ کے فتح ہونے سے اس جانب سے قراطینان ہو چکا تھا۔ البتہ غزوہ کی طرف سے خطرہ باقی تھا۔ چنانچہ آپ نے ایک فوج اس کا محاصرہ کرنے کے لئے روانہ کر دی تاکہ اس جانب سے بھی ارطون کو کسی قسم کی مدد نہ پہنچنے پائے۔ حضرت عمرو بن العاصؓ کا مقصد اچھی طرح پورا ہوا اور سمندر کی جانب سے کبھی ارطون کو مدد پہنچنی بند ہو گئی۔ اب اس کا تمام تر انحصار صرف اس فوج پر تھا جو اس کے زیر نگرانی تھی۔ اور حضرت عمرؓ بن العاص نے حضرت فاروقؓ اعظم کو ایک خط میں تمام حالات کی اطلاع دی اور لکھا کہ دشمن کثیر تعداد میں جمع ہے اور ان کی قیادت ارطون جیسا ریک اور چالاک آدمی کر رہا ہے۔ اس لئے ہماری مدد کے لئے جلد از جلد مزید فوجیں روانہ کی جائیں۔ حضرت عمرؓ نے فوراً مصلوٰۃ فرمائی۔

سبب بعض روایات میں عمرو بن العاص کی تعداد ایک لاکھ لکھی ہے

سبب مورخین میں قیساریہ کی فتح کے متعلق اختلاف ہے۔ طبری، ابن اثیر اور ابن کثیر نے تو صاف طور پر لکھا ہے کہ قیساریہ حضرت معاویہؓ کے اہل نقل و حرکت ہو گیا تھا، ابن خلدون نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے اس کا محاصرہ تو ضرور کیا تھا۔ لیکن فتح نہیں کیا۔ ولیم میٹ نے لکھا ہے کہ عربوں نے قیساریہ کے سوا باقی تمام فلسطین فتح کر لیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ قیساریہ کا محاصرہ سات سال کی طویل مدت تک جاری رہا۔

سبب غزوہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے عہد میں فتح ہو گیا تھا۔ لیکن بعد میں مسلمان یہاں سے عارضی طور پر چلے جانے پر مجبور ہو گئے تھے۔

روانہ کر دی اور اپنے احباب سے فرمایا۔

ہم نے رومی ارطوبن کے مقابلے میں عربی ارطوبن کو بھیجا ہے۔ اب دیکھیں کون بازی لے جا رہا ہے۔
 ارطوبن سے مقابلے کی تیاری | جب حضرت عمروؓ کی بھیجی ہوئی فوجیں نسطین پہنچ گئیں تو حضرت عمروؓ
 بن العاص نے مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ارطوبن نے اپنی کچھ فوجیں تو اپنی
 اور رملہ میں جمع کی ہوئی تھیں اور ایک بھاری فوج اس کے ساتھ رکھی۔ جب اسے حضرت عمروؓ بن
 العاص کی تیاریوں کا پتہ چلا تو اس نے اپنی فوج کے ہمراہ اجنادین کا رخ کیا۔ حضرت عمروؓ بن العاص نے اپنی
 کل فوج کو اس کے مقابلے میں لانے کی بجائے اس کے تین حصے کیے۔ ایک مضر کو علقمہ بن حکیم اور
 اور مسروق الثقی کی زیر قیادت ایلیاء میں مقیم ارطوبن کی فوج کے مقابلے کے لئے روانہ کیا اور بعد میں
 اپنے بیٹے محمد بن عمرو کو بھی ان کی مدد کے لئے بھیجا۔ ایک لشکر کو ابراہیم، مالکی کی زیر قیادت رملہ میں
 ارطوبن کی فوج کے مقابلے کے لئے روانہ کیا اور بعد میں عمارہ بن امیہ الضمری کو ان کی مدد کے لئے بھیجا
 اور بقیہ فوج کو ہمراہ لے کر خود ارطوبن کے مقابلے کے لئے اجنادین روانہ ہو گئے۔

اس طریق کار سے بھی حضرت عمروؓ بن العاص کی کمال جنگی مہارت کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ اپنی
 تمام فوج کو ارطوبن کے مقابلے میں نہیں لائے۔ بلکہ اس کے تین حصے کر کے ہر ایک حصے کو ارطوبن کی
 مختلف افواج کے مقابلے میں روانہ کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف شہروں میں متعین ارطوبن کی ہر فوج
 کو اپنی اپنی جگہ پر مسلمانوں کی فوجوں سے مقابلہ کرنا پڑا اور وہ ارطوبن کی کوئی مدد نہ کر سکیں۔

عمرو بن العاص اور ارطوبن کی باہمی گفتگو | حضرت عمروؓ بن العاص قلعہ کے استحکام اور فوج کی حالت
 اور ارطوبن کے تمام انتظامات کی کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اس غرض کے لئے انہوں نے متعدد لوگوں
 کو قاصد بنا کر ارطوبن کے پاس بھیجا مگر وہ لوگ واپس آکر فوج اور قلعے کی جو کیفیت بیان کرتے تھے اس
 سے ان کی تشفی نہ ہوتی تھی۔ آخر انہوں نے قلعے کے اندر جانے اور ارطوبن کے تمام انتظامات بخشم خود
 ملاحظہ کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے قاصد کا بھیس بدلا اور ارطوبن کی لشکر گاہ میں پہنچ کر رومی سپہ سالار
 سے ملاقات کی اجازت طلب کی۔ ارطوبن نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور دونوں کے درمیان
 مندرجہ ذیل گفتگو ہوئی۔

ارطوبن۔ کیا تم مسلمانوں کے بادشاہ عمرو بن العاص کے قاصد ہو؟

لے اجنادین نسطین میں رملہ اور بیت جین کے درمیان ایک قصبہ ہے۔

محمد بن العاص، جناب والا محمد بن العاص تو مسلمانوں کے ایک سپہ سالار ہیں، بادشاہ نہیں ہیں مسلمانوں کے ماں بادشاہ نہیں ہوتا، ان کا خلیفہ ہوتا ہے۔ جو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہی سلطنت کے کام سرانجام دیتا ہے وہ ایک عام آدمی کی طرح ان کے درمیان زمین پر بیٹھا ہے اور بیت سادہ زندگی بسر کرتا ہے۔

ارطوبون: کیا محمد بن العاص بہت عقلمند آدمی ہے۔

محمد بن العاص: جناب والا! محمد بن العاص اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس جگہ قدم رکھے اور کس جگہ پیچھے ہٹائے۔ اس پر کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ پڑے وہ اس سے صاف بچ کر نکل جاتا ہے۔

ارطوبون: شاید تم ایک سپاہی کی طرح اسے دیکھتے ہو جو اپنے سپہ سالار کا کامل مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے لیکن تمہیں جنگ سے کیا واسطہ؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ تمہاری حیثیت خانہ بدوش بھٹوں جیسی ہے جو جہاں پانی اور سبزہ دیکھتے ہیں وہاں اتر پڑتے ہیں۔ کسریٰ اور قیصر پر غالب آجانے کا جنوں تم میں کب سے پیدا ہو گیا؟

محمد بن العاص: آپ کا یہ خیال درست نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جنگجو اور فنون جنگ کا ماہر ہے صحراؤں میں مشقتوں اور تکالیف برداشت کرنے کا عادی بنا دیا ہے۔ نیزہ بازی ہمیں خوب آتی ہے اور ہم میں سے ہر ایک تلوار کا دھنی ہے۔ ہماری تلواروں کے جوہر ہمارے دشمنوں پر خوب عیاں ہیں اور ہر سوک کی جنگ اس پر شاہد ناظر ہے۔

ارطوبون: تم باتیں بنانے اور اپنی مرعور وقت و طاقت کا حائل بڑھا چڑھا کر بیان کرنے میں خوب ماہر معلوم ہوتے ہو۔ اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ محمد بن العاص کے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ محمد بن العاص: جناب واللہ! اس کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں تو محمد بن العاص کا ایک قاصد ہوں اور ان کی طرف سے آپ کو یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ یا تو آپ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دینے کا اقرار کریں۔ ورنہ جنگ کے لئے تیار ہو جائیں۔

ارطوبون: میں جنگ کے لئے تیار ہو جاؤں؟ کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ تم ارطوبون پر غالب لکھے ہو؟ محمد بن العاص: کیا مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے ارطوبون قیصر شہنشاہ روم سے زیادہ درجہ رکھتا ہے؟ وہ تلواریں جنہوں نے ہر قل کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہر اس شخص کو ہلاک کرنے کے لئے تیار ہیں جو محمد بن العاص کے مقابلے کے لئے آئے گا۔ ہم امن و سلامتی کے

دہلی اور اسلام کے مبلغ ہیں، محض حق کی خاطر جہاد کرتے اور علاء کلمۃ اللہ کے لئے میدان جنگ میں آتے ہیں۔

ارطوبون - وہ کیا تذاہیر ہیں جنہیں اختیار کر کے تم اپنے دشمنوں پر غالب آجاتے ہو؟ وہ کون سے فنون ہیں جو راج الوقت فنون جنگ کے علاوہ تم اختیار کرتے ہو۔ اور وہ کونسا بھیس ہے جو جنگ کے وقت تم بدل لیتے ہو؟ کیونکہ ہمارے جن لوگوں کو تم سے جنگ کرنے کا موقع ملا ہے وہ تمہارے ہیں کہ تم جنگ کے وقت عجیب و غریب قسم کا بھیس بدل لیتے ہو، اپنے جسموں پر پارسا رستم کی کھال پہن لیتے ہو اور ایسی تلواروں سے نرتی مخالفت کا مقابلہ کرتے ہو جو بظاہر نظر آنے والی تلواروں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ عمر دین العاص - جہاں تک چہروں کا سوال ہے۔ مسلمانوں کے چہرے حالت جنگ میں غضبناک اور حالت امن میں نردمانہ ہوتے ہیں۔ رہے ان کے جسم اور ان کی تلواریں تو اسلام نے آکر انہیں دشمنوں کے لئے خوفناک اور تباہ بنا دیا ہے۔ جنگ کے طریقوں کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں۔ یہ کام عمر دین العاص ہے کہ وہ جو جہاں میں گئے طریقے استعمال کریں گے۔ میں تو ان کا قاصد ہوں اور ان کا پیغام آپ تک پہنچانے آیا ہوں۔

ارطوبون - اچھا اگر یہی بات ہے تو اپنے سپہ سالار کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ ہم نے ان کے مقابلے کے لئے اتنی کثیر تعداد میں فوجیں اکٹھی کر رکھی ہیں کہ انہیں دیکھ کر ہی ان کے ہوش اڑ جائیں گے اس وقت سلطنت روما کی پوری قوت ارطوبون کے لشکر میں جمع ہو گئی ہے۔ سرزمین فلسطین ہمارا اور ان کے درمیان فیصلہ کن سرزمین ثابت ہوگی۔ کہاں کا اسلام اور کہاں کا جہنم؟ انہیں تلوار کی دھار کے صرا اور کچھ نہ ملے گا..... سن لیا؟

عمر دین العاص کی عقل مندی | ارطوبون بظاہر عمر دین العاص کے قاصد سے باتوں میں مشغول تھا لیکن اندوہی طبع پر اسے زبردست حیرت ہو رہی تھی کہ ایک سادہ لوح بدوی ایسی فلسفیانہ باتیں کس طرح کہہ سکتا ہے۔ بہت کچھ غور و فکر کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ یہ شخص یا تو خود عمر دین العاص ہے یا اس کا کوئی بہت بڑا افسر ہے اس لئے اسے صحیح سلامت ہالہیں نہیں جانے دینا چاہئے۔ چنانچہ اس نے قلعہ کے محافظوں کو غصیہ طور پر حکم بھیج دیا کہ جس وقت یہ شخص قلعہ سے باہر نکلے گا اسے قتل کر دیا جائے۔ ساتھ ہی اُس نے اس قاصد کو کچھ انعام و اکرام دینے کا حکم بھی دیا۔

عمر دین العاص قلعہ کے دروازے کی طرف جا رہے تھے کہ ایک بدوی نے ان کے قریب

انگرا اور کان میں جھبک کر کہا۔

”عمرو بن العاص! تم نے قلعہ میں آنے کا طریقہ تو بہت اچھا نکالا۔ اب بات تو تب ہے کہ کسی طریقہ سے یہاں سے زندہ سلامت واپس چلے جاؤ“

اغرابی کے منہ سے یہ بات سنتے ہی عمرو بن العاص سٹپٹا گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ لوگوں نے انہیں پہچان لیا ہے اور ان کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ اب ان کے لئے سب سے بڑا کام یہ تھا کہ فروری طور پر اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر اختیار کریں۔ انہوں نے اپنے ذہن رسا سے کام لیا اور ایسی تدبیر نکالی۔ ابھی ارطربوں اپنے محل میں اس انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ کب قاعدہ کے قتل کی خبر آتی ہے کہ قاعدہ خود دروازے پر آ موجود ہوا اور اندر آتے کی اجازت طلب کی۔ ارطربوں کو تعجب تو بہت ہوا۔ تاہم اس نے اسے بلا لیا اور کہا: ارطربوں۔ اے عرب! تم واپس کیوں آ گئے؟ کیا اپنے سالار کی کوئی بات تم مجھے بتانا بھول گئے تھے؟

عمرو بن العاص۔ نہیں حضور۔ میں بھولا کچھ نہیں۔ دوبارہ اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ اس انعام کا دوبارہ شکر یہاں داکروں جو آپ نے مجھے دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے علاوہ بعض اور لوگ بھی آپ کے انعام کا شکر یہ ادا کریں گے۔

ارطربوں۔ تمہارے علاوہ اور لوگ میرے انعام کا شکر یہ کیسے ادا کریں گے؟ یہ انعام تو میں نے صرف تمہیں دیا ہے۔

عمرو بن العاص۔ حضور! یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ انعام اپنے ہی پاس رکھ لوں؟ میرے ساتھ میرے دس بھتیجے اور بھائی ہیں اور مجھے ہمیشہ ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں آپ کا یہ انعام ان کے درمیان تقسیم کر دیتا لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ ان سب کے حصہ میں نہیں آ سکتا۔ اس لئے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ انہیں بھی انعام واکرام سے نوازیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سخاوت کی خوب تشہیر ہو۔

ارطربوں۔ اگر یہی بات ہے تو ہم تمہیں دس گنا زیادہ انعام دینے کا حکم دیتے ہیں تم اسے اپنے رشتہ داروں کے پاس لے جاؤ۔

عمرو بن العاص! میں آپ کا شکر یہ کیسے ادا کروں؟ بہر حال میں چاہتا ہوں کہ وہ خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے احسان عظیم کا شکر یہ ادا کریں۔ ان میں سے ہر شخص میری طرح گفتگو کرتا ہے اور ہر شخص کا دل اسی طرح اپنے محسن کا شکر گزار ہے۔ جس طرح میرا دل۔ اگر آپ کو مجھ سے مل کر

خوشی ہوئی ہے۔ تو یقیناً ان سے مل کر بھی ہوگی۔

ارطوبن۔ تم انہیں ہمارے حضور میں پیش کرنا چاہتے ہو؟

عمرو بن العاص۔ حضور! یقیناً میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے گفتگو کریں اور وہ اس کا جواب دیں۔ آپ انہیں انعام و اکرام سے نوازیں اور وہ نہ صرف آپ کی نازشات کا شکر یہ ادا کریں۔ بلکہ واپس جا کر عربوں میں بھی آپ کی نیا نیا اور حسن خلق کی تشبیہ کریں۔ اور یہ تو آپ کو علم ہی ہے کہ اس تعریف و توصیف کا عربوں کے دلوں پر کتنا اثر ہوگا۔

ارطوبن۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے۔ اچھا جاؤ اور انہیں لے آؤ۔ چنانچہ عمرو بن العاص اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارطوبن نے قلعہ کے محافظوں کو حکم بھیج دیا کہ اس شخص کو صحیح سلامت قلعہ سے باہر جانے بولیا جائے۔ دراصل اس کا خیال یہ تھا کہ جب یہ شخص اپنے رشتہ داروں کو لائے گا تو اس وقت اسے ایک کی بجائے دس آدمیوں کو قتل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس بات کا اسے وہم و گمان بھی تھا کہ اس شخص نے اپنے بچاؤ کی یہ تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے دھوکے اور فریب سے کام لینا چاہا۔ لیکن عمرو بن العاص اس سے کبھی زیادہ تیز نکلے اور انہوں نے اپنی عقلمندی سے اس کے فریب کو ناکام بنا دیا۔

عمرو بن العاص نے اپنے لشکر میں واپس پہنچ کر حضرت عمرؓ کو اس واقعہ کی اطلاع بھیجی۔ جب ان کا قاصد حضرت عمرؓ کے پاس پہنچا اور یہ واقعہ سنایا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور انہوں نے باواؤں جتن کھلے۔

شباباش! اے عمرو بن العاص۔ تم یقیناً ارطوبن پر غالب آ جاؤ گے؟

اور جب ارطوبن کو معلوم ہوا کہ عمرو بن العاص کس طرح اسے چکے و سے کر اس کے جنگل سے نکل گئے تو وہ بھی ان کی تعریف کیے بغیر رہ سکا اور اس نے کہا یہ شخص تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عقلمند ہے۔ فتح اجنادین | ارطوبن کے پاس سے واپس آ کر حضرت عمرو بن العاص نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور بہت جلد دوزل میں لڑائی شروع ہو گئی۔ جنگ اپنی شدت اور ہولناکی میں یرموک کی جنگ سے کم نہ تھی آخر ارطوبن نے شکست کھائی اور وہ اپنی ہزیمت خوردہ فوج کو لے کر بیت المقدس چلا گیا۔

۱۳۷ مورخین میں فتح اجنادین کے متعلق کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔

(۱) طبری نے ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ جنگ اجنادین ۶۳۷ء میں ہوئی۔ واندی کی بھی یہی رائے ہے۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

فتح بیت المقدس | اجنادین کی فتح کے بعد حضرت عمر بن العاص نے اپنے ساتھیوں سے آئندہ اقدام کے متعلق مشورہ کیا۔ آخر یہ رائے طے پائی کہ سمندر کی جانب سے ارطون کا راستہ قطع کر دیا جائے۔ تاکہ اس جانب سے اسے کوئی مدد نہ مل سکے۔ اس قرار داد کے مطابق اسلامی فوجوں نے فلسطین کے متعدد شہروں پر دھاوا بول دیا اور بہت تھوڑے عرصے میں انہوں نے رنج غمہ، سبسطیہ، نابلس، المدعا، عمواس، بیت جبرین اور یافا پر تسلط حاصل کر لیا۔ اب صرف بیت المقدس اور مدبا باقی رہ گئے اور عمر بن العاص کی فوجوں نے ان شہروں کا بھی محاصرہ کر لیا۔ ساتھ ہی آپ نے ارطون کو ایک خط بھی لکھا جس میں مطالبہ کیا کہ شہران کے حوالے کر دیا جائے۔ عمر بن العاص کے خط کا جواب ارطون نے یہ دیا۔

”آپ میرے دوست ہیں اور آپ کو اپنی قوم میں وہی حیثیت حاصل ہے جو مجھے اپنی قوم میں حاصل ہے۔ آپ اس خطالی میں نہ رہیں کہ اجنادین کے بعد بھی آپ کو کئی فتح حاصل کر سکیں گے۔ میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ واپس چلے جائیں اور اپنی قوت و طاقت پر نازاں نہ ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کبھی ویسی ہی غیر تاک شکست کھانی پڑے۔ جیسی آپ سے پہلے حملہ آوروں کو کھانی پڑی تھی“

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۷) : بلاذری، یعقوبی اور ابن اثیر نے لکھا ہے کہ جنگ یرموک ۳۰ھ میں اور جنگ اجنادین ۳۵ھ میں ہوئی۔

(۳) بعض یورپی مورخین نے جن میں گن بھی شامل ہے یہ لکھا ہے کہ اجنادین کی جنگ دوبارہ واقع ہوئی۔ ایک مرتبہ ۳۰ھ میں فتح دمشق سے پہلے اور دوسری مرتبہ جنگ یرموک کے بعد ۳۵ھ میں
(۴) ڈاکٹر ابوالاسیم حسن کی رائے بھی یہی ہے کہ اجنادین کی جنگ دوبارہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ ۳۰ھ میں یہاں برومیوں سے مقابلہ پیش آیا۔ اس کے بعد دونوں متحارب ترقی دوسرے علاقوں میں باہمی زور آزمائی میں مشغول ہو گئے۔ آخر مسلمانوں نے مدباہ میں آکر تسلط حاصل کر لیا۔ (تاریخ عمر بن العاص صفحہ ۵۰)

۳۰ھ میں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا حوا رہے۔
۳۵ھ میں سے بعض شہر باقاعدہ زور آزمائی اور جنگ کے بعد فتح ہوئے۔ لیکن بعض شہروں میں جنگ کی زبت نہیں آئی اور وہاں کے باشندوں نے جزیرہ دینے کا اقرار کر کے مسلمانوں سے مصالحت کر لی۔

حضرت عمرو بن العاص نے اس خط کا یہ جواب دیا:-

"تمہارا خط ملا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں اپنی قوم میں وہی حیثیت حاصل ہے جو مجھے اپنی قوم میں ہے۔ پھر بھی تم نے میرے مرتبے کا اندازہ کرنے میں غلطی کی ہے۔ مجھے ایک بات میں تم پر فضیلت حاصل ہے۔ اور وہ فضیلت یہ ہے کہ میری حیثیت اس علاقے کے فاتح کی ہے اور تمہاری حیثیت مفتوح کی۔"

ارطوبن نے جواب میں لکھا:-

ایلیا (بیت المقدس) کے فاتح آپ نہیں ہیں۔ یہ نخر تو عمر نامی ایک شخص کے حصہ میں آئے گا۔ جن لوگوں میں مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا ان کی فوجوں کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی۔ اس لئے حضرت عمرو بن العاص نے ایک طرف حضرت عمرؓ کو مدد کے لئے لکھا اور دوسری طرف اپنی فوجوں کو ساتھ لے کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ بہت لمبا ہو گیا اور اہالیان بیت المقدس کسی طرح مطلع ہونے پر آمادہ نہ ہوئے۔

طبری نے لکھا ہے کہ اہل ایلیا نے مسلمانوں کو دوران محاصرہ میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ رومیوں کی مقاومت کی وجہ سے مسلمان بیت المقدس پر قابض ہو سکے نہ رہے۔ جب خلیفۃ المسلمین کو اس کا علم

سے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے ایک ایسے شخص کو جو رومی زبان جانتا تھا ارطوبن کے پاس مندرجہ بالا خط لے کر بھیجا اور اسے ہدایت کی کہ اس خط پر جو رائے دینی ہو وہ غور سے سننے اور انہیں واپس آکر بتائے لیکن رومیوں پر یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ وہ رومی زبان جانتا ہے۔ جب قاصد واپس آیا تو اس نے بتایا کہ جب ارطوبن نے آپ کا خط پڑھا تو وہ ہنس پڑا۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا آپ نے یہ کیسے معلوم کر لیا کہ عمرو بن العاص بیت المقدس کے فاتح نہیں ہو سکتے؟ اس نے کہا بیت المقدس ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر فتح ہو گا جس کا نام عمرو ہو گا اس کے نام کے تین حروف ہیں، اس وقت حضرت عمرو بن العاص کو یقین ہو گیا کہ یہ نخر حضرت عمرو بن خطاب کے حصہ میں آئے گا۔

سے روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قومات میں ایلیا (بیت المقدس) کے فاتح کا نام عمر لکھا جاتا تھا۔ ارطوبن کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو وہ اپنی فوجوں کے ہمراہ مہربھاگ گیا اور مسلمانوں سے ہٹنے کے لئے اس وقت صفر نہیں کو بھیجے چھوڑ گیا۔

سے بیت المقدس کا محاصرہ کرنے والے سب سالار کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے (باقی اگلے صفحہ پر)

ہوا تو انہوں نے مدینہ سے ایک بیماری لشکر حضرت عمر بن العاص کی مدد کے لئے روانہ کیا تاکہ بیت المقدس کی فتح جلد از جلد عمل میں آسکے۔

یہ محاصرہ چار ماہ تک جاری رہا اس دوران میں جمالی مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا وہاں رومیوں کا نقصان بھی کسی طرح کم نہ تھا۔

جب اربطون نے دیکھا کہ مسلمان بیت المقدس کا محاصرہ اٹھانے کے لئے کسی طرح تیار نہیں ہیں تو وہ اس وقت صفر نبوس کو اپنا قائم مقام بن کر خود مصر صہاگ گیا اور اپنے ہمراہ اپنی فوج کو بھی لیتا گیا۔ صفر نبوس کے پاس اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ زیادہ دیر تک مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھہر سکتا۔ اس لئے وہ شہر کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لئے تیار ہو گیا۔ لیکن یہ شرط پیش کی کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطابؓ خود صلح کا معاہدہ لکھیں گے۔

رقبہ جاثیہ (۱۳۹) بعض نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہؓ بن جراح یا ان میں کسی ایک نے شہر کا محاصرہ کیا تھا۔ چنانچہ طبری لکھتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے شام آنے کا سبب یہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہؓ نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم صلح کے لئے تیار ہیں بشرطیکہ عمر بن الخطاب خود آکر ہم سے معاہدہ کریں۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے حضرت عمرؓ کو خط لکھا جس پر وہ شام تشریف لائے، لیکن ہمارے نزدیک یہ روایت ناقابل اعتبار ہے کیونکہ محاصرہ بیت المقدس کے وقت ابو عبیدہؓ اور خالدؓ شمالی شام (حلب، حمص اور انطاکیہ) کو فتح کرنے اور ہرقل کی فلست خوردہ افواج کا پھینکا کرنے میں مشغول تھے۔ صحیح واقعہ یہی ہے کہ بیت المقدس کا محاصرہ حضرت عمر بن العاص نے کیا جو غیر معمولی طور پر لبا ہوا گیا۔

سگہ مسلمانوں کو شہر کے سربازوں کے علاوہ ان مہلکیوں کی سنگ باری سے بھی بے حد نقصان اٹھانا پڑا جو رومیوں نے شہر کی فیصل پر نصب کر رکھی تھیں اور جن سے رات دن اسلامی فوجوں پر سنگ باری ہوتی رہتی تھی مزید برآں چار ماہ کے طویل عرصہ میں کوئی دن ایسا نہ جاتا تھا جس میں رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان چھٹی ہوئی ہجرت نہ ہوتی ہو۔

سگہ تاریخ ابن الوردي میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمرؓ سے فرمایا تم بیت المقدس کو جنگ کیے بغیر فتح کر دو گے۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

حضرت عمرؓ تشریف لائے۔ جاہل کے مقام پر ان سے مصالحت کی اور انہیں ایک عہد نامہ لکھ کر دیا جس کا مضمون مندرجہ ذیل تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . یہ وہ ایمان نامہ ہے جو اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین نے ایلیاد (بیت المقدس) والوں کو دیا ہے۔ ایلیاد والوں کی جان مال اگر بچے اسیلیبیں

رابعیۃ حاشیہ صفحہ ۱۴۰) اس کتاب الفتوحات میں لکھا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ بیت المقدس کے رومیوں نے اٹھائے محاصرہ میں مسلمانوں سے کہا کہ وہ ان کے امیر کو دکھیتا چاہتے ہیں۔ جب خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا تم بیت المقدس کا شہر ان دنوں کے حملے کبھی نہیں کریں گے۔ خواہ تم دس برس تک ہمارا محاصرہ جاری رکھو۔ ہم صرف ایک شخص کو یہ شہر حوالے کریں گے جس کی یہ یہ صفات ہیں۔ "جو صفات انہوں نے بیان کیں وہ بعینہ حضرت عمرؓ بن خطابؓ میں پائی جاتی تھیں اس پر حضرت ابو عبیدہؓ اور دیگر امراء نے حضرت عمرؓ کو یہ حال لکھ بھیجا۔ چنانچہ وہ تشریف لے آئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو بالیابان بیت المقدس کے سامنے یہ پیش کش کی کہ وہ ان سے انہی شرائط پر معاہدہ صلح کرنے کے لئے تیار ہیں جن شرائط پر شام کے دیگر علاقوں کے باشندوں سے صلح کی گئی ہے۔ لیکن بالیابان بیت المقدس نے کہا کہ وہ صرف اسی صورت میں صلح کرنے کے لئے تیار ہیں جب صلحتاً خود حضرت عمرؓ بن خطابؓ تحریر فرمائیں۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے اس کی اطلاع حضرت عمرؓ کو دے دی چنانچہ وہ بیت المقدس آگئے۔ (الفتوحات اسلامیہ جلد ۱ صفحہ ۱۴۱)

لیکن یہ روایت سراسر غلط ہے کیونکہ حضرت ابو عبیدہؓ بیت المقدس کے محاصرے کے وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ بلکہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ شمالی شام میں رومیوں سے مصروف پیکار تھے۔ بیت المقدس کا محاصرہ کرنے والی فوج کی قیادت حضرت عمرؓ بن العاص کر رہے تھے۔

بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمرؓ جب جاہل تشریف لائے تو آپ نے شام میں یقیناً تمام اسلامی سپہ سالاروں کو وہاں پہنچنے کا حکم دیا۔ ان سپہ سالاروں میں حضرت ابو عبیدہؓ بھی تھے۔

بیت المقدس کے رومی سردار صلح کرنے کے لئے اس لئے مجبور ہوئے کہ طویل و خندید محاصرے اور طبرین کے شہر والوں کو بے یار و مددگار چھوڑ جانے سے ان کی حالت انتہائی قابل رحم ہو گئی تھی۔ انہیں کسی جگہ سے بھی امداد پہنچنے کی توقع نہ تھی۔ ادھر مسلمان شام کے تمام بڑے بڑے شہروں پر قابض ہو چکے تھے۔ اور ملک کا بیشتر حصہ ان کے قبضے میں آچکا تھا۔ رومی حکومت ان کے مقابلے سے عاجز تھی اور شام سے اسے ذلت (باقی اگلے صفحہ پر)

یہاں، تدرست سب کو امن دی جاتی ہے۔ اور ہر مذہب والے کو امن دی جاتی ہے۔ ان کے گرجاؤں کو قیام گاہوں میں تبدیل نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھایا جائے گا۔ بلکہ ان کے احاطوں کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔ نہ ان کی صلیبوں اور ماٹوں میں کسی قسم کی کمی کی جائے گی۔ نہ مذہب کے بارے میں کسی قسم کا تشدد کیا جائے گا۔ اور نہ

(فقہ حاشیہ صفحہ ۱۳۱) کے ساتھ سپاہ پناہ پڑا تھا۔ اس حالت میں بیت المقدس کے لوگوں کو یقین تھا کہ مسلمان انہیں کسی حالت میں بھی چھوڑنے والے نہیں اور وہ ان پر آج نہیں تو کن فرد غالب آجائیں گے۔ چنانچہ فوج کے تمام بڑے بڑے سرداروں کی متفقہ رائے یہی ہوئی کہ اب بجز صلح کوئی چارہ نہیں، لیکن دوسری طرف انہیں یہ خطرہ بھی تھا کہ اگر انہوں نے شر کو مسلمانوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی تو مسلمان ان سے ان شرائط پر مصالحت نہ کریں گے۔ جن پر وہ دوسرے شہروں کے لوگوں سے کچلے تھے۔ نیز کہ بیت المقدس کے محاصرے میں مسلمانوں کو بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جس میں ان کا کمانی نقصان ہوا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے نزدیک بھی قابل احترام ہے۔ اسی طرح انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں مسلمان ان سے ان کا کلیسا بے اعظم نہ چھین لیں اور انہیں ان کے مقدس ترین مقام سے محروم نہ کر دیں۔ اس لئے ان کی یہ رائے ہوئی کہ امیر المومنین عرض بن الخطاب خود ان سے مصالحت کریں تاکہ مسلمان اپنے عہد کا پاس اچھی طرح کر سکیں۔ اور شہر والوں کو کامل امن حاصل کر سکے۔

حاشیہ ۱۳۱: روایات میں حضرت عمرؓ کے فلسطین جانے کے متعلق بعض اختلافات پائے جاتے ہیں۔

(۱) ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمرؓ عمر بن العاص کی درخواست پر فوجیں روانہ کرنے کے بعد کچھ عرصہ تک مدینہ ہی میں رہے۔ بعد میں جب اہل ایلیاد کی طرف سے خلیفۃ المسلمین کی موجودگی کی شرط پیش ہوئی۔ تب آپ فلسطین روانہ ہوئے۔

(۲) ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عمرؓ اسی فوج کے ہمراہ فلسطین روانہ ہو گئے جو آپ نے حضرت عمر بن العاص کی مدد کے لئے بھیجی تھی۔ شام اور اردن کے درمیان جاہرہ مقام پر پہنچ کر آپ ٹھہر گئے اور اپنے تلامذین عساکر عمر بن العاص، ابو عبیدہؓ اور خالد بن ولیدؓ کو طلب فرمایا۔ تاکہ ان سے بیت المقدس کی فتح کے بارے میں مشورہ کیا جاسکے۔ حبیب اربوں اور صفر نیوس کو حضرت عمرؓ کی آمد کا علم ہوا تو ان دونوں کے درمیان یہ طے پایا کہ اربوں تو کھسک کر مصر چلا جائے۔ اور صفر نیوس اس شرط پر بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لئے تیار ہو جائے کہ حضرت عمرؓ خود اس سے معاہدہ کریں۔ (باقی حاشیہ صفحہ ۱۳۱)

ان میں سے کسی کو ہنزہ پہنچایا جائے گا۔ ایلیاء میں ان کے ساتھ یہودی درہنے پائیں گے، ایلیاء والوں کا فرض ہے کہ جس طرح دوسرے شہر ملے جو یہ دیتے ہیں وہ بھی جزیہ دیں اور ردیوں کو نکال دیں۔ ردیوں میں سے جو شہر سے نکل جائے گا، اس کے جان و مال کو امان دی جاتی ہے جب تک وہ محفوظ مقام تک نہ پہنچ جاتے۔ اگر کوئی ردی ایلیاء میں ہی رہنا چاہے تو اسے باقی اہل شہر کی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر اہل ایلیاء میں سے کوئی شخص ردیوں کے ساتھ جانا چاہے تو اسے امن و امان ہے۔ یہاں تک کہ وہ محفوظ مقام پر پہنچ جاتے۔ جو کچھ اس عہد نامے میں درج ہے اس پر خدا اور رسول اور خلیفۃ المسلمین اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ بشرطیکہ اہل ایلیاء مقررہ جزیہ ادا کرنے سے انکار نہ کریں۔

دو بھیرے جاشیہ ۱ اس روایت کی تائید عہدی بن سہیل کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اہل ایلیاء نے اہل فلسطین کے عقبے کے لئے دربار خلافت سے امداد طلب کی تو حضرت عمرؓ حضرت علیؓ کو اپنا قائم مقام بنا کر خود ان کی مدد کے لئے روانہ ہو گئے۔ حضرت علیؓ نے عرض بھی کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں، آپ کا سامنا ایک بہت خطرناک دشمن سے ہے، مگر حضرت عمرؓ نے فرمایا: ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ ان لشکروں کے ساتھ جو بلخور تک جا رہے تھے اہل ایلیاء سے صلح کرنے کے لئے فلسطین گئے تھے۔ اور آپ نے مدینہ میں اپنا قائم مقام حضرت علیؓ بن ابی طالب کو جلا دیا تھا۔ ہم بھی دوسری روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس بارے میں ہماری تائید ڈاکٹر حسن ابابیم حسن (کتاب تاریخ عمر بن العاص صفحہ ۶۱) اور ڈاکٹر محمد حسین بیگلر (الفاروق عمر جلد ۱ صفحہ ۲۵۲) بھی کرتے ہیں۔ یہ بات غیر معقول نہ ہوتی ہے کہ اہل ایلیاء کی طرف سے صلح نامہ کی تکمیل کے لئے مدینہ سے حضرت عمرؓ کو بلانے کا مطالبہ کیا جائے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بیت المقدس سے مدینہ تین ہفتوں کی مسافت پر واقع ہے اور محض صلح نامہ کرنے کے لئے ایک شخص اتنی دور سے کبھی نہیں آ سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ صحابہ کے لیا ہونے کی وجہ سے بہت فکر مند تھے۔ جب حضرت عمر بن العاص کی درخواست ہوائے امداد ان کی خدمت میں پہنچی تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ خود فلسطین جا کر مسلمانوں کی رہنمائی کی جائے۔ چنانچہ آپ نے فوجیں جمع کیں۔ اور انہیں ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ جا یہ پہنچ کر آپ نے قیام کیا اور اپنے تائیدین کو مشورہ کے لئے وہاں طلب فرمایا۔ جب مدینہ کو خلیفۃ المسلمین کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے شہر کو اس شرط پر مسلمانوں کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کی کہ خلیفۃ المسلمین اپنے ہاتھ سے عہد نامہ لکھیں۔ جا یہ اور بیت المقدس میں امتحان یا وہ ناقص نہیں ہے کہ حضرت عمرؓ ردیوں کی درخواست قبول کرنے اور بیت المقدس تشریف لانے میں کوئی ٹھکچھاٹٹ محسوس ہوتی۔ اس لئے آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی

اس عہد نامہ پر بطور شہادت خالد بن ولید، عمرو بن العاص، عبدالرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابوسفیان کے دستخط بھی ہوئے۔ عہد نامہ کے پانچ تہ کیل کو پہنچنے کے بعد حضرت عمرؓ نے حضرت ابوعبیدہؓ اور حضرت خالد بن ولید اور دیگر لوگوں کو جو ان کے ساتھ آئے تھے، شمالی شام میں اپنے مفوضہ فرائض سرانجام دینے کے لئے واپس بھیج دیا۔ اور خود عمرو بن العاص اور شرجیل بن حسنہ کے ہمراہ بیت المقدس روانہ ہوئے۔

جب آپ بیت المقدس پہنچے تو حسب قرابہ اہل ایبار نے شہر کا روزہ کھول دیا۔ امتعت صغریٰ نے شہر کے بعض عمارتوں کے ہمراہ باہر نکل کر آپ کا استقبال کیا اور عزت و احترام کے ساتھ شہر میں لاکر وہاں کے آثار قدیمہ اور مقدس مقامات دکھانے شروع کیے۔ اسی دوران میں نثار کا وقت آ گیا۔ اس وقت حضرت عمرؓ کفایتہ القیامتہ دیکھنے میں مصروف تھے۔ صغریٰ نے عرض کیا کہ آپ اسی گرجا میں نماز ادا کر لیجئے۔ لیکن حضرت عمرؓ نے اس ڈر سے کہ کہیں مسلمان اس گرجا کو مسجد بنائیں اور عیسائوں کو ان کی عبادت گاہ سے نکل دیں وہاں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا اور باہر نکل کر صخرہ مقدسہ کے قریب نثار ادا کی۔ مسلمانوں نے بعد میں اس جگہ پر مسجد قطی تعمیر کر لی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کفایتہ قسطظہین کی سیرتوں پر نثار ادا کی۔ لیکن بطور احتیاط عیسائوں کو یہ تحریر لکھ کر دے دی کہ مسلمان آئندہ کلیساؤں کی سیرتوں پر کبھی نماز نہیں پڑھیں گے۔

بیت المقدس کی فتح ۶۳۷ء کے اواخر یا ۶۳۶ء کے اوائل میں ہوئی۔

قسطظہین بن ہرقل کا قرار اور قیساریہ کی فتح | بیت المقدس کی فتح کے بعد حضرت عمرو بن العاصؓ ان متفرق رومی فوجوں کا استیصال کرنے میں مشغول ہوئے جو فلسطین کے مختلف مقامات میں موجود تھیں یا اپنی قطعات کا طبیعت اور جنگی ہمدارنت کی بدولت وہ ہر جگہ مظفر و منصور ہوئے۔ اب صرف قیساریہ باقی رہ گیا تھا۔ جمال ہرقل کا بیٹا قسطظہین ایک بھاری فوج لئے پڑا تھا۔ ۶۳۷ء (مطابق ۶۳۶ء) میں حضرت عمرو بن العاصؓ نے ادھر کا رخ کیا۔ مگر اسی اثنا میں قسطظہین کو یہ خبر ملی کہ طبرستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور اس کا باپ انطاکیہ سے بھاگ کر قسطظہینہ چلا گیا ہے۔ یہ خبر یہ سن کر خوف اور دہشت نے اس پر غلبہ پا لیا۔ اور اسے سالوں کو ایسا ملامت ہونے لگا جیسے عمرو بن العاصؓ شہر کی نصیبی توڑ کر اپنی فوج کے ساتھ اندر گھس آئے ہیں۔ اسلامی فوجوں کا اس پر ایسا سب طاری ہوا کہ رات کے اندھیرے میں وہ خفیہ طور پر اپنے محل سے

۱۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خالد اور حضرت ابوعبیدہؓ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔

۲۔ بعض روایات میں قیساریہ کی بھانٹے قیصر یہ لکھا ہے۔

نکلا اور قسطنطنیہ جا کر ہی دم لیا۔ جب صبح ہوئی اور شہر والوں کو معلوم ہوا کہ ان کا سپہ سالار بزدلی دکھا کر بھاگ گیا ہے تو ان کی ہمتیں بھی پست ہو گئیں اور انہوں نے حضرت عمر دین العاص سے صلح کی درخواست کی جو انہوں نے قبول کر لی اور اس شہر پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔

جنگمائے شام و فلسطین میں حضرت عمر دین العاص کی کامیابی کے اسباب | ان جنگوں سے جن میں سے بعض میں حضرت عمر دین العاص کو شرکت کا موقع ملا اور بعض میں قیادت کا فخر نصیب ہوا۔ ہمیں ان وسائل کا بخوبی علم ہو سکتا ہے جنہیں عمر دین العاص نے اختیار کیا اور جنہیں اختیار کرنے کے نتیجے میں انہیں کامیابی و کامرانی نصیب ہوئی، نہ صرف انہیں بلکہ ہر اس شخص کو بھی جس نے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی۔

فلسطین اور شام کی ان جنگوں پر مجبوری نظر ڈالنے سے جن میں حضرت عمر دین العاص نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے عہد میں شرکت کی ہمیں مندرجہ ذیل وسائل کا علم ہوتا ہے جو حضرت عمر دین العاص نے اختیار کیے۔

۱۔ تمام مہکوں کے دوران میں حضرت عمر دین العاص پر جنگی مدد غالب رہی۔ یہ جنگی مدد جو نہ صرف آپ میں موجود تھی بلکہ ان لشکروں میں بھی سرایت کر گئی تھی جو آپ کی قیادت کے تحت دشمنوں سے جنگ کرتے تھے۔ یہ مدد نفس میں طمانیت، قوت و عزم، بہادری اور شجاعت، صبر و استقامت اور دین کی راہ میں ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے جذبات کو بڑھانے پر مبنی تھی۔ اس معنوی مدد کی موجودگی کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں اس گفتگو سے ملتا ہے جو حضرت عمر دین العاص اور قرہ بن ہبیرہ کے درمیان اس وقت ہوئی تھی جب قرہ نے قذوہ ارتداد کی شدت کا احساس دلا کہ آپ کو خون زدہ کرنا چاہا تھا آپ نے اس عظیم الشان فتنہ پر کسی تشویش کا اظہار کرنے کی بجائے بڑے زوردار الفاظ میں کہا۔

”اے قرہ! ابھی ایسی تلواریں موجود ہیں جو مرتدین کے سینوں میں بڑی تیزی اور سختی کے ساتھ بیروست ہو گئی۔ یہ وہی تلواریں ہیں جو اس سے قبل کھارے جماد کرنے کے لئے استعمال ہوتی تھیں۔ مگر اس بار ان کی تیزی اور سختی پھلے سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ تم میں عربوں کے ارتداد سے ڈراتے ہو۔ خدا کی قسم تمہارے گھوڑوں کے قدموں سے ان کی اور تمہاری زمینیں روند ڈالیں گے، اور ہماری تلواریں صفائی کے ساتھ تمہاری گردنیں اڑا دیں گی۔ خواہ تم انہیں پھانسنے کی کوشش ہی

کوشش کر دو۔ کان کھول کر سن لو کہ ہم ایک بھی فتنہ پرور انسان کو عرب میں نہیں رہنے دیں گے۔ اب عرب کے آسمان پر ایک ہی خلا اند عرب کی سر زمین میں الیک ہی رسول ہو گا۔ چھوٹے خدائوں کی خدائی اب عرب میں ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکی ہے۔"

ان کہات سے اس معنوی روح اور روحانی قوتوں کا بخوبی احساس ہوتا ہے جو حضرت عمر و بن العاص اور ان کے لشکر کے دل و دماغ پر مسلط تھیں اور جن کے باعث وہ ہر میت کے خوف سے بے پروا ہو کر دشمنوں سے لڑتے تھے۔

۲۔ حضرت عمر و بن العاص نے لشکر میں جنگی روح کو ابھارنے، اہل فوج کے جذبات براہیگنہ کرنے اور انہیں لڑائی پر آمادہ کرنے کے لئے قرآن کریم سے بڑا کام لیا۔ وہ جانتے تھے کہ قرآن کریم کی آیات، دلوں میں دلدادہ، جوش و خروش اور ایمانی روح پیدا کرنے میں بڑی مدد و معاون ثابت ہوتی ہیں اور ایمان لوگوں کو عزم و ہمت اور بہادری و شجاعت کے ساتھ جنگ کرنے پر ابھارتا ہے اسی لئے حضرت عمر و بن العاص کا طریق یہ تھا کہ وہ ہر جنگ کے موقع پر کچھ لوگوں کو مقرر کر دیتے تھے جو صفوں میں پھر کر قرآنی آیات تلاوت کرتے رہتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ مجاہد کا مرتبہ کتنا بلند اور شہید کا درجہ کتنا عظیم ہوتا ہے۔ اور تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے فتح و نصرت کے وعدے پر کمال بھروسہ پیدا ہو اور انہیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ وہ ہر طرح ان کی مدد کرے گا، ان کی راہ سے مصائب اور تکالیف دور کرے گا اور ان کے دشمنوں کو خائب و خاسر رکھے گا۔ ان آیات میں سے جنہیں آپ جنگوں کے موقع پر تلاوت کرنے کا حکم دیتے تھے، چند درجہ ذیل ہیں:-

اِذِ انْ لِلَّذِيْنَ يَقَاتُلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهٖمْ لَقَدِيْرٌ (سورۃ ایت ۱۶)

اُن لوگوں کو جن سے دشمنوں نے جنگ چھیڑ رکھی ہے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی اجازت دیا جاتی ہے۔ کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔

تَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا تُكَلِّفُ الْاَنفُسَ وَاَحَدٌ مِّنْ الْمُؤْمِنِيْنَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ

يَكْفِيَكَ يَا سَنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (سورۃ النساء آیت ۸۴)

اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ تمہیں اپنے نفس کے سوا اور کسی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا اور مومنوں کو جنگ کی ترغیب دو۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ کافروں کے زور کو روک دیگا

اِذْ تَقُوْلُ يٰٓمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يٰكُفِيْكُمْ اَنْ يُمَدَّ كُمْ سِتُّ مِآتَٓةً مِّنْ

الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ . بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن تَوْرِهِ هَذَا
يُمْدَادُكُمْ سَابِغَةَ الْحَمِيمِ . وَمَا جَعَلَهُ
اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَّكُمْ وَلِتُذَمِّرَ قُلُوبَكُمْ بِهِ . وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا
خَائِبِينَ (آل عمران آیت ۷۵ تا ۱۲۷)

(جب کہ تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہ ہو گا کہ تمہارا رب تمہاری
امداد کرے گا۔ تین ہزار فرشتوں کے ساتھ جو آسمان سے نازل ہوں گے۔ ہاں کیوں
نہیں اگر تم صبر و استقامت اختیار کر دو گے اور متقی بنو گے اور وہ لوگ تم پر ایک دم
سے آئیں گے تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا پانچ ہزار فرشتوں سے جو ایک
خاص وضع بنائے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لئے کی کہ تمہارے لئے
بشارت ہو اور تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے۔ اور نصرت صرف اُس اللہ ہی کی طرف
سے ہے جو بہت زبردست اور حکمت والا ہے تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو
ہلاک کر دے یا ان کو ذلیل و خوار کر دے پھر وہ ناکام لوٹ جائیں)

۳۔ شام اور فلسطین کی جنگوں میں حضرت عمر بن العاص نے بالالتزام اس بات کی کوشش کی
کہ حملہ کے وقت دشمن کو پہل کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ ہر موقع پر وہ خود پہل کرتے تھے اور
دشمن کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر پہلے در پہلے حملوں سے اس کی قوت و طاقت کو پاش پاش
کر دیتے تھے۔ انہیں اس حقیقت کا بخوبی علم تھا کہ پہل کرنے والا ہمیشہ فائدہ میں رہتا ہے۔ اور
حیث اسی کی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں فریق مخالفت کو اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ پہل کر حملہ
کر سکے۔ اس کی تمام تر توجہ اپنے دفاع کی طرف ہوتی ہے اور بیشتر قوت دفاع ہی میں خرچ ہوتی
ہے۔ قضاہ پر حملے کے وقت یہی ہوا اور دمشق، نخل اجنادین، بیت المقدس اور قیاریہ کی
لڑائیوں میں جو رومیوں کے ساتھ پیش آئیں آپ نے اسی طریقہ کو اختیار کر کے دشمنوں پر فتح حاصل کی
۴۔ حضرت عمر بن العاص کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ مسلمانوں کی افواج متفرق طور پر دشمن کا مقابلہ
نہ کریں بلکہ متحد ہو کر ایک شخص کی زیر کمان میدان جنگ میں آئیں۔ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ علیحدہ علیحدہ
دشمن کا مقابلہ کرنا دراصل اپنی طاقت کو ضائع کرنا ہے۔ کامیابی اور کامرانی کی یہی صورت ہے کہ اپنی
قوت کو ایک مرکز پر مرکوز کر کے جنگ کی جائے اور اسے حتی الامکان ضائع ہونے سے بچایا جائے

آپ نے کئی مقامات پر پڑھا ہو گا کہ حضرت عمر دُہنِ العاص نے خلیفۃ المسلمین سے مدد طلب کی۔ اولاد طلب کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ دشمن کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ فوجیں اکٹھی کی جائیں اور پوری قوت و طاقت سے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ خلیفۃ المسلمین کو بھی عمر دُہنِ العاص کے اس نظریے کا بخوبی علم تھا۔ لہذا وہ ان کی طرف سے اولاد کا مطالبہ کرنے پر کبھی دیر نہ لگاتے تھے اور نئی فوجیں مطلوبہ لگ کر روانہ کر دیتے تھے۔

یروشلم کی جنگ میں حضرت عمر دُہنِ العاص نے جو عظیم کارنامہ سرانجام دیا اسے کسی حالت میں بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ اس وقت مسلمانوں کی فوجیں علیحدہ علیحدہ پڑھی ہوئی تھیں۔ ہر فوج اپنے امیر کے ماتحت تھی اور اسی سے احکام حاصل کرتی تھی۔ نہ فوجوں کے درمیان کوئی رابطہ قائم تھا۔ اور زمان کے سامنے کوئی متحدہ لائحہ عمل موجود تھا۔ لیکن ان کے مقابلے میں رومی ایک تیاری کے ماتحت پوری طرح منظم تھے اور ایک ہی سردار سے ہدایات حاصل کرتے تھے جس کے نتیجے میں ان کا پلہ بھاری تھا اور مسلمان ان کی قوت و طاقت سے خوف کھاتے رہتے تھے۔ بالآخر تمام اسلامی لشکروں نے متفقہ طور پر حضرت عمر دُہنِ العاص کو لکھا کہ ہمیں کوئی ایسی تدبیر بتائیے جس کی بدولت ہم رومیوں کی حسیب ذہلا کے مقابلے میں کامیاب و کامران ہو سکیں اور اپنی کمزور حالت کو بہتر بنا سکیں۔ حضرت عمر دُہنِ العاص نے جواب میں لکھا کہ رومیوں کے مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے کی صرف یہی صورت ہے کہ تمام اسلامی لشکر مل کر ایک متحدہ لشکر کی صورت اختیار کر لیں، ان کا امیر ایک فرد واحد ہو۔ سب لوگ اسی کے اشارے سے کام کریں اور اس کے احکام کی تعمیل کرنا اپنا فرض اولین خیال کریں

اسی دوران میں اسلامی افواج نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے بھی ہدایات طلب کی تھیں حضرت ابو بکر صدیقؓ کا جواب بھی بعینہ وہی تھا جو حضرت عمر دُہنِ العاص کا تھا۔ آپ نے بھی انہیں متحد ہو جانے کی تلقین فرمائی تھی۔ چنانچہ اسلامی لشکروں نے ایسا ہی کیا۔ سب فوجیں ایک جھنڈے تلے اور ایک قیادت کے تحت اکٹھی ہو گئیں۔ امراد عساکر کے درمیان یہ طے پایا کہ باسی باری ہر شخص قیادت کے فرائض سرانجام دے۔ پہلے روز کی قیادت کا شرف حضرت خالد بن ولیدؓ کے حصے میں آیا اور جو کام چار مہینے کی طویل مدت میں چار اسلامی فوجیں انجام نہ دے سکی تھیں وہ انہوں نے محض اتحاد کی برکت سے ایک دن میں پورا کر کے دکھلایا۔ رومیوں کو عبرت ناک شکست ہوئی اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح۔

۵۔ حضرت عمر دُہنِ العاص نے جہاں مکھن ہو سکا محاصرے کے ذریعے سے بھی دشمن کو زیر کرنے کی کوشش کی۔ ہر طرف سے ناکہ بندی کر کے رسل و رسائل کے تمام ذریعے منقطع کر دینے کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ دشمن

بہت جلد اطاعت پر آمادہ ہو جاتا تھا۔ باہر سے اسے کسی قسم کی کوئی نبرد نہ مل سکتی تھی۔ جب تک شہر میں کھانے پینے کا ذخیرہ موجود رہتا۔ وہ مقابلے پر آمادہ رہتا تھا لیکن ان چیزوں کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کی تاب مقاومت بھی ختم ہو جاتی تھی۔

شام اور فلسطین کی حین جنگوں میں حضرت عمرو بن العاص نے دشمن کا محاصرہ کر کے اس کی قوت و طاقت کو ختم کیا وہ یہ تھیں۔ جنگ دمشق۔ جنگ اجنادین اور جنگ بیت المقدس۔

جنگ دمشق کے موقع پر وہ دیگر اسلامی سپہ سالاروں کے ساتھ محاصرے میں شریک تھے اور انہیں باب لہار کے سامنے محاصرہ کرنے والی فوجوں کا سپہ سالار مقرر کیا گیا تھا۔

جنگ اجنادین میں حضرت عمرو بن العاص نے پیچھے ہٹنے والی رومی فوج کا محاصرہ کر کے اسے محنت جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ اسی طرح بیت المقدس کا محاصرہ کر کے صغیر نبوس کو مسلمانوں کے آگے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا۔

۶۔ ان تمام جنگوں میں جس چیز سے حضرت عمرو بن العاص نے سب سے زیادہ کام لیا وہ ہوش مندی اور دانائی تھی۔ اپنی حیرت انگیز و کاوت و نطانت کے بل بوتے پر انہوں نے ہر میدان میں دشمن کو شکست دی۔ وہ دشمن کی نظروں میں خوار کی طرح کھٹکتے تھے۔ دشمن نے متعدد موقعوں پر انہیں اپنے دام فریب میں گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ ہر موقع پر انتہائی دانش مندی اور ہوشیاری سے زندہ و سلامت بچ کر نکل آئے۔ اور دشمن ان کا بال بھی بیکار نہ کر سکا۔ ارطوبوں کے لشکر میں جانے اور وہاں سے صحیح و سلامت واپس آنے کا واقعہ جس کا تفصیلی ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ واقعات حیرت انگیز اور عمرو بن العاص کی عقلمندی کا اتنا واضح ثبوت تھا کہ خود ارطوبوں کو بھی جسے اپنی عقل و دانش اور فزناگی پر ناز تھا، اس امر کا ان الفاظ میں اعتراف کرنا پڑا کہ:-

”یہ شخص مجھے چمکے دے کر نکل گیا۔ واقعی اس کی عقلمندی کا جواب نہیں ہو سکتا۔“

۷۔ تمام جنگوں کے دوران میں حضرت عمرو بن العاص نے اس امر کو ملحوظ خاطر رکھا کہ قائد لشکر کو شجاعت جو امر رومی اعزاز و استقلال اور عقل و دانش میں تمام فوج کے لئے نور ہو نا چاہیے۔ انہیں اس امر کا بخوبی احساس تھا کہ جب تک جنگ کے ہر مرحلے میں قائد لشکر اپنا نمونہ فوج کے سامنے پیش نہیں کریگا اور ہر موقع پر خود پیش پیش نہیں ہوگا۔ اس وقت تک فوج سے یہ توقع رکھنی ہے کہ وہ شجاعت و جو امر رومی کا مظاہرہ کرے گی۔ جب فوج یہ دیکھے گی کہ ان کا سپہ سالار خود دل ہمت اور فنون جنگ سے نا آشنا ہے۔ تو اس میں بھی لازماً ضعف و اضمحلال پیدا ہو جائے گا۔ اور وہ دشمن کے مقابلے

میں کوئی قابل فخر کارنامہ سرانجام نہ دے سکے گی۔

شام اور فلسطین سے رومی اقتدار کا خاتمہ | حضرت عمرو بن العاص کے پے در پے حملوں سے شام اور فلسطین میں رومی سلطنت کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ ارطہوں اپنی فوجیں لے کر مصر بھاگ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہاں نئے سرے سے فوجی طاقت مجتمع کر کے دوبارہ شام آئے اور وہاں سے مسلمانوں کو نکال کر پھر رومی سلطنت کا اقتدار قائم کر دے۔ لیکن اس کا یہ ارادہ کبھی شرمندہ عمل نہ ہو سکا اور شام اور فلسطین سے رومیوں کا اقتدار ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گیا۔

ان جنگوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ عمرو بن العاص مسلمانوں کے ایک عظیم قائد تھے۔ اور تدریجاً فرات عقیقندی اور ذہانت میں اس وقت کے دوسرے مسلمان سپہ سالاروں میں بہت کم ان کے ہم پلہ تھے۔

فتح مصر

”مصر کی سرزمین نہایت سیر حاصل اور سرسبز و شاداب ہے۔ اس کا طول ایک مہینے اور عرض دس مہینے کی مسافت ہے۔ اسے ایک بھورا پہاڑ اور سرخی مائل صحرا چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے درمیان سے وہ دیا گزرتا ہے جس کی رفتار صبح سعید اور روانی شام مبارک ہے اس کے بہاؤ میں ہر وہ کی طرح کبھی زیادتی اور کبھی کمی ہوتی رہتی ہے۔۔۔۔۔ اس دولت مصر کی سرزمین عجیب عجیب رنگ سے ظاہر ہوتی ہے۔ ابھی دکنٹا ہوا موتی ہے، ابھی عنبر سیاہ، اور ذرا سی دیر میں زرد و سبز۔ یہ اللہ کی قدرت کے کوشھے ہیں جس نے اس میں یہ صلاحیت رکھ دی اور باشندوں کی معیشت کے لئے اسے ایسا بنایا۔۔۔۔۔“

عمرو بن العاص

کا خط

امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے نام

(۱)

فوج کشتی سے پہلے

- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے باوجود
- ایرانی اور رومی سلطنتوں کا رویہ
- مصر میں مذہبی جوہر دستم
- مصر پر چڑھنے کا ارادہ
- عرب اور مصر کے باہمی تعلقات

۱۔ دعوتِ اسلام کے بارے میں فارس و روم کا رویہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں [رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کی درہم ساری سلطنتوں سلطنت، ایران اور سلطنت روم میں زبردست جنگ جاری تھی۔ ابتدا میں تو اہل ایران کو کامیابی نصیب ہوئی لیکن جب ہرقل نے رومی سلطنت کی زمام سنبھالی تو رومیوں کی قسمت نے پٹا کھایا۔ چھ سال کی طویل اور سخت جنگ کے بعد وہ ایرانیوں کو شکست فاش دینے اور ان سے صلیبِ اعظم رجو بیت المقدس کے سب سے بڑے گرجا میں نصب تھی) واپس لینے میں کامیاب ہو گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں بیٹھے ہوئے رومیوں اور ایرانیوں کی اس کشمکش کو بڑے غور سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ان جنگوں میں اگرچہ ایک فریق غالب اور دوسرا مغلوب ہوا لیکن ان کے باعث دراصل دونوں فریقوں کی قوت و طاقت کو سخت امتنع پہنچا اور دونوں کی شان و شوکت خاک میں مل گئی۔ غالباً اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ آپس میں لڑا لڑ کر ان دونوں سلطنتوں کی طاقت اس قدر کمزور ہو جائے کہ وہ اسلامی افواج کا دل جمعی سے مقابلہ نہ کر سکیں اور اس طرح عرب لشکروں کے لئے فتح کا راستہ صاف ہو جائے۔

جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اس وقت ہرقل قوت و طاقت اور شان و شوکت کے لحاظ سے اپنے پورے عروج پر تھا۔ عام لوگوں کو دعوتِ اسلام دینے کے علاوہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شاہانِ عالم تک بھی پیغامِ حق پہنچانا چاہا۔ چنانچہ ۶۲۶ء میں

۱۔ اس کے بارے میں بعض اختلافات ہیں۔

اکثر مؤرخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۶۲۶ء میں امراء اور بارشاہوں کو تبلیغی خطوط روانہ فرمائے۔ ۶۲۷ء میں ۲۳ مئی ۶۲۶ء سے شروع ہوتا ہے۔

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطوط ۶۲۹ء میں روانہ فرمائے۔ لیکن یہ خلاف واقعہ ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عیسا کہ طبری نے ذکر کیا ہے، ایک خط کسریٰ شاہ فارس کے نام بھی روانہ فرمایا تھا اور کسریٰ کا انتقال مارچ ۶۲۸ء میں ہوا تھا۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

آپ نے متعدد امراء اور بادشاہوں کو ایک تبلیغی خط لکھا جس میں انہیں اسلام قبول کرنے اور توحید و رسالت کی گواہی دینے کی تلقین فرمائی۔ جن امراء اور بادشاہوں کو یہ خط لکھے گئے وہ مندرجہ ذیل تھے۔
 امراء یمن، عمان، یمن اور بحرین۔ عمارت بن ابی شمر عنسانی، جو شام کی حدود پر غسانی عربوں کا امیر تھا۔ مقوقس، جو مصر میں قبطیوں کا سربراہ، اسکندریہ کا حاکم اور مصر میں قیصر روم کا نائب تھا۔ نجاشی شاہ حبشہ، کسری شاہ فارس اور ہرقل قیصر روم۔

امراء عرب میں سے دو نے ان خطوط کا احسن طے پر جواب دیا اور اسلام لے آئے۔ یہ دو امیر بجاہل اور بحرین کے تھے۔ یمن اور عمان کے امیروں نے بہت بری طرح جواب دیا۔ نجاشی نے بہت اچھی طرح جواب دیا، مقوقس نے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے پر غور کرے گا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حاطب بن ابی بلتعہ نعمی کی بہت خاطر و دلالت کی۔ اور ان کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو لڑکیاں ملیں اور شیریں، ایک خنجر جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا رکھا، ایک گدھا جس کا نام تقور تھا اور کچھ ملے جاسباب بدیہہ بھیجا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے ان چیزوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی اور شہید بھی بھیجا تھا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۵۳) ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ تمام خطوط ایک وقت میں روانہ کیے گئے۔ البتہ کسری کو ہرقل سے ایک سال قبل خط روانہ کیا گیا تھا۔ مگر ارج روایت یہی ہے کہ تمام خطوط جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے ۳۲ھ میں بھیجے گئے تھے۔

۳۲ھ ابن اسحاق نے لکھا ہے مقوقس مصر کا حقیقی حاکم تھا۔ اس کے متعلق دو روایتیں ہیں پہلی یہ کہ ہرقل نے ایرانیوں کے مصر سے نکلنے کے وقت اسے وہاں کا حاکم بنایا تھا دوسری یہ کہ وہ ایرانیوں کے عہد حکومت میں بھی اسی عہد سے پرفائز تھا۔ ہرقل نے اسے بدستور اسی عہد سے پرقرار رہنے دیا۔

۳۲ھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کو جو خط لکھا تھا اس کی عبارت مندرجہ ذیل تھی:-

”تم اسلام لے آؤ۔ محفوظ رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمیں دوہرا اجر دے گا۔ لیکن اگر تم نے اسلام لانے سے انکار کیا تو تم پر قبطیوں کا گناہ بھی ہوگا۔ لے اہل کتاب! اس بات کی طرف توجہ کرو جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھیں۔ اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ اس بات کو قبول نہ کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔“
 ۳۲ھ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا یہ جواب دیا:- (باقی اگلے صفحہ پر)

کسریٰ شاہ ایران حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خط دیکھتے ہی آگ لگوا ہو گیا اور اُسے بھاڑ کر پھینک دیا۔ ساتھ ہی حمیر کے عامل بازان کو جو اس کے ماتحت تھا حکیم بھیجا کہ اس شخص کو جس نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اُسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو؛ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خط کے چاک کیے جانے کا علم پڑا تو آپ کو بہت سنا ہوا اور آپ نے فرمایا۔

”اِس نے میرے خط کو بھاڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اِس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔“

(لقبہ حاشیہ صفحہ ۱۵۲) آپ نے مجھے جس امر کی طرف بلائی ہے میں اسے خوب سمجھ گیا ہوں۔

مجھے یہ تو علم تھا کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے لیکن میرا خیال تھا کہ وہ تمام میں ظاہر ہو گا۔

لے موقوف کے حافظہ سے حسن سلوک کا اندازہ اس کے خط کی اس عبارت سے بھی ہوتا ہے۔

..... میں نے آپ کے قاصد کی بہت تعظیم و تکریم کی۔ میں اس کے ہمراہ آپ کی خدمت میں دو لوگ لیاں بھیج رہا ہوں جن کا تطہیر میں بلند مقام ہے۔ نیز آپ کے پہننے کے لئے لباس اور سوار ہونے کے لئے ایک خچر بھی روانہ کر دیا ہوں۔

۵ (ا) ماری نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ فتح مصر سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھیں۔

(ب) ابن سعد نے محمد بن عمر سے روایت کی ہے کہ ٹلدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر تھا۔ یہ پہلا خچر تھا جو زبائہ اسلام میں عربوں نے دیکھا۔ اسے موقوف نے حضور کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تھا۔ ساتھ ہی ایک گدھا بھی تحفہ بھیجا تھا جس کا نام غیر تھا۔ خچر حضرت معاذؓ کے زمانے تک زندہ تھا.....

(ج) بعض روایات میں آتا ہے کہ گدھے کے دو نام تھے یغور اور غیر۔

لے یمن پہلے حبشہ کے ماتحت تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حکومت حبشہ کے خلاف بغاوت کرتی چاہی اور اس غرض کے لئے شہنشاہ روم سے اعلا مانگی لیکن چونکہ حبشہ جو روم دلدو، سبھی سلطنتیں تھیں۔ اس لئے شاہ روم نے روم دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر اہل حبشہ کا قاصد جس کا نام سیف تھا۔ انوشیروان شاہ ایران کے پاس پہنچا۔ انوشیروان نے ہرزاد ہانی کی زیر قیادت اس کے ساتھ تین ہزار چھ سو سپاہی کر دیے۔ یہ لشکر کشتیوں میں سوار ہو کر یمن پہنچا اور اس کے دار الحکومت صنعاء کو فتح کر لیا۔ کچھ سالوں کے بعد حبشہ کے حامیوں نے وہاں بغاوت کھڑی کر دی۔ جس پر کسریٰ نے ایک اور لشکر بھیجا جس نے اہل حبشہ اور ان کے حامیوں کو یمن سے نکال باہر کیا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں حمیر کی سلطنت ختم ہو گئی اور یمن احضر موت، مہرہ اور عمان ایرانیوں کے زیر نگیں آ گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی پھر یہی عرصہ بعد بڑی شان سے پوری ہو گئی اور تمام ایرانی سلطنت مسلمانوں کے ماتحت آگئی۔

ہر قتل کے متعلق بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے آپ کے خط کا احسن طور پر جواب دیا تھا۔ بعض نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اس نے اسلام لانے کا اعلان بھی کر دیا تھا لیکن یہ درست نہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حرث بن ابی ثمر غسانی کو جو ہر قتل کی جانب سے بصری کا حاکم تھا، حرث بن عبیر کے ہاتھ خط بھیجا تھا۔ جب حرث بن عبیر موتہ پہنچے تو وہاں امین شرجیل بن عمرو الغسانی ملا۔ اور اُس نے اُن سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا "شام" شرجیل نے کہا: معلوم ہوتا ہے تمہیں محمد نے بھیجا ہے! انہوں نے جواب دیا "ہاں" اس پر شرجیل نے اپنے آدمیوں کو حرث کی مشکیں کسنے کا حکم دیا اور وہ اسی حالت میں شہید کر دیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا پتہ چلا تو آپ کو شدید سوچ بڑا۔ اور آپ نے تہیہ کر لیا کہ اس کا انتقام لے کر میں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا قتل وہ شعلہ تھا جس نے عرب اور روم کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکا دی اور وہ اس وقت تک بھڑکتی رہی جب تک عربوں نے شام اور فلسطین اور اڑاں بعد مصر سے رومی سلطنت کا خاکہ دکھ دیا۔

یہ سب سے پہلے جنگ موتہ کے وقت بھڑکا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار کا ایک لشکر زید بن حارثہ کی زیر قیادت اپنے قاصد کا انتقام لینے کے لئے رومی سرحد کی جانب روانہ کیا۔ اس لشکر کا رومی لشکر سے شدید مقابلہ ہوا۔ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے تین سپہ سالار زید، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کیے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد قیادت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آئی۔ وہ اپنی حیرت انگیز جنگی مہارت کو کام میں لا کر اسلامی لشکر کو رومیوں کے نرغے سے صحیح سلامت باہر لے آئے اور مسلمان کوئی بھاری نقصان اٹھانے بغیر مدینہ واپس پہنچ گئے۔

لے ہر قتل کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحید بن خلیفہ کلبی کو بھیجا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ہر قتل سے اس وقت لے جب ہر قتل اپنے ساتھ صلیب اعظم لے کر جسے ایرانیوں نے تھپن لیا تھا (اُسے دوبارہ بیت المقدی کے گرجا میں نصب کرنے کے لئے جا رہا تھا۔

اگرچہ اس جنگ میں مسلمان کامیابی و کامرانی سے ہم کنار نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و ارادے میں مطلق کمی واقع نہ ہوئی اور فتح مکہ اور جنگ حنین کے بعد جب تمام قبائل عرب پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا تو آپ نے ایک بھاری لشکر جمع کیا جس کی تعداد تیس ہزار تھی اسے لے کر آپ تبوک کی جانب روانہ ہوئے۔ جب رومیوں کو اس بھاری لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ رومی سرحد کے اندر چلے گئے اور پہاڑوں اور تلووں میں روپوش ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مقام پر دس دن قیام فرمایا۔ اس کے بعد اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ آیا شام کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے یا مدینہ لوٹ جانا چاہیے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! رومیوں کے پاس بہت بھاری لشکر موجود ہیں۔ لیکن اس کے برعکس شام میں کسی مسلمان کا وجود تک نہیں۔ رومی اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع پا کر سرحد کے اندر ذی علاقوں میں چلے گئے ہیں۔ اگر ہم اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال مزید قوت کے ساتھ شامی سرحد پر حملہ کریں تو صاحب رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کی رائے سے اتفاق کیا اور لشکر کو مدینہ واپس چلنے کا حکم دیا۔ بلکہ تمہیں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ واپس جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے پاس کھانے اور پانی کا ذخیرہ بہت تھوڑا تھا۔

تبوک کے مقام پر دس روزہ قیام کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اردگرد کے امراء عرب سے معاہدے کیے۔ نیز حضرت خالد بن ولید کو چار سو سواروں کے ہمراہ ووتر الجندل کے حاکم کی طرف بھیجا۔ حضرت خالدؓ نے وہاں پہنچ کر اسے قید کر لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ اس پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کے علاقے شہر اور قلعے کے علاوہ تین ہزار ادنٹ اور چار سو زہریں بھی لیں۔

۶۔ حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اہل عرب نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو خلیفہ تسلیم کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ نے اپنی قوت ایمانی اور اخلاص کے ذریعے تمام جزیرہ عرب سے ارتداد کے فتنے کا خاتمہ کر کے تمام عربوں کو ایک سلطنت میں منسلک کر دیا اسی ابتداء میں ایسے حالات بھی پیش آئے کہ آپ کو اسلامی فوجوں کا سرحد سلطنت ایران اور شام کی طرف پھیرنا پڑا۔ ایرانی حکومت کا خاتمہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے ہوا۔ اسی طرح یروشلم کے میدان میں اسلامی لشکر نے رومی لشکر کو تباہ و برباد کر کے سلطنت روم پر ضرب کاری لگائی۔ حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے بعد خلافت حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں آئی۔

۳۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں | حضرت عمرؓ کے عہد میں سرزمین شام میں مسلمانوں کی فتوحات بہ سلسلہ جاری تھیں۔ پہلے انہوں نے دمشق کا محاصرہ کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہاں کے حاکم منصور نے اپنے اندر تاب مقاومت نہ دیکھ کر مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ ہر قتل نے مسلمانوں کی پے در پے کامیابیوں کی خبر سن کر اپنے بھائی تھیوڈور کی زیر قیادت ایک بھاری لشکر ان کے مقابلے کے لئے روانہ کیا۔ لیکن یہ لشکر بھی شکست کھا گیا۔ جب ہر قتل کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اور اس کی سلطنت کے آخری دن نزدیک آگئے ہیں تو اس نے انھار کیے گرجا میں تمام عمامہ بین قوم کو جمع کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ اس تازک صورت حال کی موجودگی میں اسے آئندہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک بڑھا سردار کھڑا ہوا اور کہنے لگا:-

”تو میں پر کتاب مقدس کے احکام کی نافرمانی اور اسے پس پشت ڈال دینے اور بدخاری“
 سنگدلی جیسے گناہوں کو اختیار کرنے کی پاداش میں خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے اور اب یہ عذاب اس وقت تک نہیں ٹل سکتا۔ جب تک ہر شخص کو اس کے گناہوں کی پوری پوری سزا مل جائے۔“

بڑھے سردار کی اس بات نے ہر قتل کے دل پر بہت اثر کیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اب اس کی بدبختی اپنی آخری حد کو پہنچنے والی ہے اور سرزمین شام سے اس کا اقتدار بہت جلد جانے والا ہے۔ ان حالات میں اس نے وہاں رہنا مناسب نہ سمجھا اور شعبان ۱۵ھ (مطابق ستمبر ۶۳۶ء) میں شام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر قسطنطنیہ چلا گیا۔ جاتے وقت اس نے آسٹوڈل سے بھری ہوئی ایک نظر اپنی کھوئی ہوئی مملکت کی طرف ڈالی اور رقت بھر سے الفاظ میں یوں گویا ہوا۔

”اے سرزمین شام! رخصت ہونے والے کا سلام قبول کر۔ یہ وہ جدائی ہے جس کے بعد پھر کبھی ملنا نصیب نہ ہوگا۔“

دمشق کے بعد اجنادین کے مقام پر۔ جیسا کہ ہم شام اور فلسطین کی فتوحات کے باب میں ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص نے رومی سپہ سالار ارطغرل کو عبرت تاک شکست دی۔ اور وہ وہاں سے

۱۵۔ اے مشہور روضہ سعید بن بطریق نے اپنی کتاب ”نظم الجوهر“ میں لکھا ہے کہ تمام رومی مملکت کے پادریوں نے اپنے اپنے گرجاؤں میں منصور پر لعنت بھیجی۔ کیونکہ ان کے خیال میں اس نے جان بوجھ کر دمشق کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا!

فرار ہو کر بیت المقدس چلا آیا۔ مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ بھی کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران میں رومیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ارضیوں نے کوئی چارہ کار نہ دیکھا تو بے بسی کے عالم میں اپنی فوج کو ہمراہ لے کر مصر بھاگ گیا اور شہر کو اسقف صفریوس کے حوالے کر گیا۔ چونکہ سلطنت روم کی جانب سے کسی قسم کی امداد پہنچنے کی توقع نہ تھی۔ اور محاصرے کے طویل ہونے کے باعث اہل شہر کو ناقابل بیان تکالیف پہنچ رہی تھیں۔ اس لئے صفریوس مجبور ہو کر صلح کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ شہر کی تفصیل پر چڑھا اور مسلمان سپہ سالاروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ اس صورت میں شہر کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لئے تیار ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب خود بنفس نفیس بیت المقدس میں آئیں اور اپنی جانب سے عہد نامہ لکھیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر لشکر لے آئے اور بیت المقدس کی فتح پائی تکمیل کو پہنچی۔

۲۔ مصر میں مذہبی ظلم و ستم

اہل مصر مسیحی المذہب تھے، ان کے بالقابل اہل قانس اجوان پر حکمران تھے۔ مجوسی المذہب تھے لیکن اختلاف مذہب کے باوجود ایرانیوں نے مصریوں کو مذہبی آنا دی دی ہوئی تھی اور وہ اس معاملے میں ان سے مطلق تعزیر نہ کرتے تھے۔

مصریوں کا مذہبی پیشوا "بنیامین" نامی ایک شخص تھا جو انہیں بے حد عزیز اور محبوب تھا۔ وہ

سہ بنیامین کی پیدائش مصر کے ایک قبضے فرشوط میں ایک قبلی گھرانے میں ہوئی۔ اور اسکندریہ کے فراعنہ میں قبریوس کے گرجا میں پرورش پائی۔ ایک پادری تیرناتس سے دینی تعلیم حاصل کی۔ چونکہ اس کا میلان ابتدائی ہی سے دین کی طرف تھا لہذا اس نے بڑے شوق اور محنت سے تعلیم کے تمام مراحل طے کیے۔ عبادت سے اسے خاص شغف تھا اور بعض اوقات ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتا تھا۔ ایک مات وہ حسب معمول عبادت میں مصروف تھا کہ اس نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ بنیامین آتم آگے چل کر مسیحی بھڑوں کے دکھائے ہو گئے! ایک مرتبہ قبطیوں کا لارٹ پادری اندرونیکوسس دیر قبریوس میں آیا جب اس نے اس عابد کو دیکھا اور متعجب ہو کر اس کو دیکھا تو وہ اس کی پرہیزگاری اور علم و فضل سے بہت متاثر ہوا اور اسے اپنے ساتھ اسکندریہ لے گیا اس طرح بنیامین پادریوں کے زمرہ میں شامل ہو گیا اور لارٹ پادری کے ساتھ کام کرنے لگا۔ اندرونیکوس نے اس کی قابلیت کو دیکھ کر بلاآخر اس بات کی وصیت کر دی کہ اس کے بعد بطریق کا عہدہ بنیامین کے سپرد کیا جائے۔ اس وقت بنیامین کی عمر صرف چونتیس سال کی تھی۔ بعض عرب مؤرخین نے اس کا نام ابویامین لکھا ہے۔

دینی معاملات میں تساہل برتنے کا قطعاً روادار نہ تھا۔ اور نہ ہی یہ برداشت کر سکتا تھا کہ مصری اخلاقی لحاظ سے کسی انحطاط میں مبتلا ہوں۔ پادریوں پر وہ کڑی نگرانی رکھتا تھا کہ اخلاقی یا مذہبی لحاظ سے ان میں کوئی کمزوری تو نہیں پائی جاتی۔ ایک مرتبہ اس نے مصر کے بڑے بڑے پادریوں کو ایک خط لکھا جس میں تحریر کیا۔

”میں نے حلوان اور بابلین میں بعض ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو تکبر، فخر و غرور اور ایک دوسرے سے دشمنی و عداوت میں حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ انہوں کی بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ پادری تھے۔ میں ان کے افعال کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ اب میں اس خط کے ذریعے تمام بشاروں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے ماتحت ان تمام پادریوں پر کڑی نگرانی رکھیں جنہیں یہ کام سرانجام دیتے ہوئے دس سال سے زیادہ مدت ہمیں گزری ہے۔“

مصری ایما نیوں کے زیرِ تحت امن و سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے کہ ہرقل شاہ روم نے مصر پر حملہ کر دیا۔ ایرانی اس کے مقابلے کی تاب نہ لاکر مصر چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور مصر ~~مصر~~ ~~مصر~~ کی عملداری میں شامل ہو گیا۔

ہرقل نے قبرس کو جو اس سے قبل فاسیس کا اسقف تھا۔ مصر کے تمام مذہبی اور کانگراں مقرر کر دیا

سے اس کے متعلق یہ روایت بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ وہ پیدل بابلین گیا، اس کے ساتھ اسکندر کا ایک پادری اُلو مینا اور حلوان کا اسقف بلبیو بھی تھا۔ بابلین پہنچنے پر جب درگن کو اس کی آمد کا پتہ چلا تو وہ کثرت سے اس کی زیارت کے لئے آنے لگے لیکن وہ سیدھا ایک ایسے شخص کے پاس گیا جو خدائی احکام کی نافرمانی میں مشہور تھا۔ وہاں اس نے اس کے خلاف بددعا کی جس پر آسمان سے بجلی گری اور اس شخص کا مکان جل کر خاکستر ہو گیا۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ نبیا مین جہاں کہیں جاتا تھا لوگ اس سے برکت حاصل کرنے کی غرض سے جوق در جوق اس کے پاس آنے لگتے تھے۔

سے بیشتر اہل فارس ۶۲۷ء کے اوائل میں مصر سے نکل کر بلاد فارس چلے گئے تھے۔ جو تھوڑے بہت لوگ بچ گئے وہ ۶۲۸ء میں ہرقل سے معاہدہ صلح ہونے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔

سے فاسیس کا قبضہ بلا دوقاز میں واقع ہے۔

اور اس نئے مسیحی مذہب کو تمام مصر میں بزور پھیلانے کا کام اس کے سپرد کیا۔ جو اس کی سلطنت کے تین سرکردہ مذہبی لیڈروں نے ایجاد کیا تھا۔ ہرقل جانتا تھا کہ اہل مصر آسانی سے اس کے اختیار کردہ نئے مذہب کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوں گے۔ اس لئے اس نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لئے ہر ممکن وسائل اختیار کرنے کا تہیہ کر لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اہل مصر کسی طرح اس کی بات ماننے اور اپنے مذہب کو اس کے مذہب میں ضم کرنے کے لئے تیار نہیں تو اس نے ظلم و ستم پر کمر باندھ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصری نہ صرف ہرقل سے بلکہ رومی سلطنت سے بھی سخت نفرت کرنے لگے۔ خلیفہ ستئمہ میں قیرس کے اسکندریہ پہنچنے پر بنیامین وہاں سے بھاگ گیا۔ بھاگنے سے پہلے اس نے پادریوں اور عوام الناس کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں تلقین کی کہ وہ ہر حال میں اپنے مشرب پر قائم رہیں۔ خواہ ایسا کرنے میں انہیں موت ہی کا سامنا کیوں کرنا پڑے۔ بہرہ نجات کے پادریوں کو اس نے خطوط کے ذریعے بہاؤں اور صحراؤں میں چھپ جانے کا مشورہ دیا۔ اور لکھا کہ عنقریب سارے مصر پر خدا کا غضب بکھرنے والا ہے اور انہیں دس سال تک رومیوں کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بدلت کے ختم ہونے پر انہیں اس عذاب سے رہائی ملے گی

اسکندریہ پہنچنے پر قیرس کی سلطنت روم کی جانب سے شہر کا بطریق اور مصر کا حاکم بنا دیا گیا۔ اس نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالتے ہی لوگوں کو نئے رومی مذہب (موناٹھی) کے قبول کرنے کی ترغیب دینی شروع کی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ قطعی کسی طرح اس کی بات ماننے اور نئے مذہب کی طرف مائل ہونے کے لئے تیار نہیں تو اس نے ظلم و ستم اور جبر و تشدد پر کمر باندھ لیا۔ اس نے مصریوں کے سامنے دو راستے رکھے یا تو وہ رومی مذہب اختیار کر لیں یا ظلم و ستم سہنا قبول کریں۔

کامل دس سال تک قطعی قیرس کے ہاتھوں دردناک غذاہوں میں مبتلا رہے۔ تمام مؤرخین متفق ہیں کہ مذہبی ظلم و ستم کی اس سے بدترین مثال مصر کی تاریخ میں عینی بہت مشکل ہے۔ سادیرکس اپنی

سہ بنیامین کے بھاگنے کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے دور رفتوں کے ہمراہ رات کو اسکندریہ کے مغربی دروازے سے نکلا اور دادی نظروں کا رخ کیا۔ وہاں سے وہ باہر مصر کی جانب روانہ ہو گیا اور قیرس پہنچ کر قیام پذیر ہو گیا۔

سکہ سادیرکس اٹھوین ایک مشہور مؤرخ ہے۔ جس نے اپنی کتاب میں مصر میں اسلامی فتوحات اور عربوں کی آمد سے قبل مذہبی ظلم و ستم کا حال بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔

کتاب میں لکھتا ہے :-

دس سال کی اس طویل مدت میں ہر قتل اور مقتول مصر پر مسلط رہے۔ اس دوران میں اکثر اہل مصر کو ہر قتل کے ہاتھوں بقیہ تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی خماسہش مئی کو قبلی اپنا مذہب چھوڑ کر خلیفہ دینی مذہب اختیار کر لیں لیکن قبلی ایسا کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ اپنا مذہب پھیلانے کے لئے ہر قتل نے ہر قسم کے حربے استعمال کیے۔ کسی کو دھکی دے کہ خلیفہ دینی مذہب میں شامل کرنا چاہا اور کسی کو لالچ دے کہ کسی طرف لانا چاہا۔ لیکن مصریوں نے اپنے مذہب کو ترک کر کے دینی مذہب اختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا۔

ایک قبلی بطریق اسحق کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ یوسف نامی ایک راجہ سے ملا جس کی پیٹری پر استنہ کوڑے برسائے گئے تھے کہ کھال اُدھر دک رہ گئی تھی۔ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے حکومت کے مطالبے کے باوجود سچی بات کہنے سے دریغ نہ کیا تھا۔ جن لوگوں کو دردناک عذاب دے کر قتل کیا گیا تھا ان میں نبی امین کا بھائی بھی شامل تھا۔ اسے عذاب دینے کا طریق یہ اختیار کیا گیا تھا کہ مشعلیں روشن کر کے ان کی لپٹ اس کے جسم کو پہنچائی گئی۔ یہاں تک کہ اس کی پیشانی سے چربی نکل کر زمین پر بہنے لگی۔ اس کے بعد اس کے دانت توڑے گئے۔ ازاں بعد اسے ایک بوری میں جس میں ریت بھری ہوئی تھی بند کر کے ساحل سمندر پر لے جایا گیا۔ وہاں اس سے کہا گیا کہ اس کی جاں بخشی کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ وہ خلیفہ دینی مذہب قبول کرنے کا اقرار کرے۔ یہ پیشکش تین ہفتوں کے سامنے دہرائی گئی۔ لیکن اس نے ہر بار انکار کیا۔ آخر کار جب وہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تو انہوں نے اسے سمندر میں غرق کر دیا۔

صوملی قوموں کے سوانح حیات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ قیرس گوجا میں گیا۔ وہاں سوانے محافظ کے اور کوئی نہ تھا۔ اس نے محافظ سے پوچھا کہ گرجا خالی کیوں ہے اور پادری کہاں چلے گئے؟ محافظ نے بتانے میں کچھ تاثر کیا تو قیرس نے اسے کوڑوں سے پرانا شروع کیا۔ آج مجبور ہو کر محافظ نے بتایا کہ صوملی نے گرجا کے تمام پادریوں کو جج کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ قیرس کا فرادہ یہودی ہے اور اللہ پر مطلق ایمان نہیں رکھتا۔ لہذا کسی شخص کو اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا چاہیے اور اس کے پیچھے عبادت کرنے سے انکار کر دینا چاہیے۔ جب بائبلوں نے صوملی کی یہ تقریر سنی تو وہ خود آپ کے آنے سے پہلے ہی گرجا خالی کر کے چلے گئے۔

قیرس کو یہ سن کر بے حد غم میں آیا۔ اس نے صوملی اگر جا کے محافظ اور پادریوں کو گھایاں دیں اور فیوم آیا جہاں صوملی مقیم تھا وہاں پہنچ کر اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ صوملی کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس کے سامنے

پیش کریں۔ چنانچہ قیرس کے آدمیوں نے گرجا میں پہنچ کر صمویل کو گرفتار کر لیا۔ صمویل ذرا نہ گھبرا یا اور یہ کہتا ہوا سرکاری آدمیوں کے ساتھ چل پڑا کہ آج مجھے مسیح کے ماستے میں اپنا خون گرانے اور جان قربان کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ جب سپاہیوں نے اسے قیرس کے سامنے حاضر کیا تو قیرس نے نہایت نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اسے ماریں۔ تعمیل حکم میں انہوں نے صمویل کو اتنا مارا کہ اس کے بدن سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد قیرس نے اس سے پوچھا:-

”اے بد بخت پادری! تجھے کس شخص نے گرجا کا نگران مقرر کیا تھا اور کس نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو مجھے اور میرے مذہب کو برا بھلا کہے؟“
صمویل نے جواب دیا:-

”ہمارا فرض اللہ اور اس کے پاکیزہ بندے بنیامین کی اطاعت کرنا ہے۔ اے شیطان کی اولاد اور لڑے مسیح الدھمال تیری اور تیرے شیطانی مذہب کی پیروی کرنے کا خدا نے ہمیں حکم نہیں دیا۔“
قیرس نے کہا:-

”صمویل! تجھے یہ دہم ہے کہ پادری تیری عزت کرتے اور تیرے ظاہری تقدس کے باعث تیرا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اپنی عیبے گوارا گیا ہے اور ملک کی قابل احترام ہستیوں کی توہین پر آمرا آیا ہے۔ لیکن میں تجھے بتاؤں گا کہ بڑے آدمیوں کو گایاں دینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت تیرا دل تجھ سے سوال کرے گا کہ تو نے سرزمین مصر کے حاکموں اور پیشواؤں کا احترام کیوں نہیں کیا؟“
قیرس نے جواب دیا:-

”تجھ سے پہلے اطمین فرشتوں کا سردار تھا۔ لیکن اپنے فؤد غرور اور کفر کی وجہ سے وہ خدا کی اطاعت سے خارج ہو گیا۔ یہی حال اے مکار تیرا ہے۔ تیرا مذہب انتہائی نفرت کے لائق ہے اور تو شیطان اور اس کے چیلے چاٹوں سے زیادہ لعنت کا مستحق ہے۔“

یہ تزد تیز باقی سُن کر قیرس نے اپنے آدمیوں کو اسے قتل کرنے کا حکم دیا لیکن حاکم فیوم نے غلطی کر کے اسے بچا لیا۔ قیرس نے مجبور ہو کر اس کی جان بخشی تو کر دی۔ لیکن اسے جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔

۱۔ ایک دھری روایت میں یہ آتا ہے کہ حاکم فیوم جس کا نام کسمیائوس تھا دو سو سپاہیوں کے ہمراہ صمویل کے گرجا میں آیا اور اسے ایک خط دیا جس میں اسے عقیدہ دنی عقیدہ قبول کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ صمویل نے وہ خط پھاڑ کر دروازے سے باہر پھینک دیا اور کہا:- (باقی اگلے صفحہ پر)

قیرس نے ہر شہر میں اپنے نائبوں کو حکم دے دیا تھا کہ وہ خلیفہ دینی مذہب کو جبراً پھیلائیں اور جو شخص یہ مذہب قبول کرنے سے انکار کرے اسے سخت ترین ایذائیں دیں۔ حتیٰ کہ وہ مجبور ہو کر اسے ماننے پر آمادگی ظاہر کر دے۔ اس طرح تمام سرزمین مصر میں ظلم و ستم کی گرم بازاری شروع ہو گئی۔ سینکڑوں قبیلہ پادری عمال کے جوہر و ستم سے نجات حاصل کرنے اور پناہ حاصل کرنے کے لئے پہاڑوں اور ویران علاقوں میں روپوش ہو گئے۔ بہت سے ایسے بھی تھے جن کے لئے کوئی جائے فرار نہ تھی۔ انہوں نے باقصر و استقامت کے ساتھ حکام کے مظالم پر شکایت کیے یا مجبور ہو کر خلیفہ دینی مذہب اختیار کیا۔ خلیفہ دینی مذہب قبول کرنے والوں میں نقیوس اور فیوم کے اُسقف (پادری) بھی شامل تھے۔

ان مظالم سے تنگ آ کر مصریوں نے قیرس کا کام تمام کرنا چاہا۔ چنانچہ جاپاتیہ فراتے کے پیرو مریوط کے قریب ایک گرجا میں جمع ہوئے اور وہاں اس کے قتل کی سازش کی۔ لیکن شہر کے حاکم اور وقیازس کو اس سازش کا علم ہو گیا۔ اسے قبضوں سے شدید عداوت تھی اس نے فرج کا ایک دستہ بھیج کر تمام سازشیوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا چنانچہ یہ لوگ گرفتار کر لئے گئے اور بعد ازاں حاکم شہر کے حکم سے قتل کر دیے گئے۔ اس طرح قیرس موت کے چنگل سے بال بال بچ گیا۔

دیوان حنا نقیوسی میں لکھا ہے کہ ہر قتل کی موت کے بعد بھی قیرس کی سختی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور اس کے مظالم کا سلسلہ بند نہ ہوا۔ بلکہ روز بروز شدت ہی اختیار کرتا گیا۔

ساویرس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر قتل ایک ایسا بھیر دیا ہے جو حملہ کرنے پر آمادہ رہتا ہے اور اس کی خون کی پیاس کسی طرح نہیں بجھتی

ظلم و ستم اور عذاب کا یہ دور جاری ہی تھا کہ مصر کے ستم رسید لوگوں نے سنا کہ عرب میں ایک نئے دین کا ظہور ہوا ہے جو کامل مذہبی آزادی اور مساوات انسانی کا علم بردار ہے۔ اس کا

(تقریباً حاشیہ صفحہ ۱۶۳) ہمارا مذہبی پیشوا صرف نبیا ہیں ہے۔ اللہ کی لعنت پر کافروں کے اس خط پر جو ہنشاہ روم کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ کی لعنت پر خلیفہ دینی عقیدے کے ماننے والوں اور اس کے حامیوں پر یہ سب کرکسیا زس نے صوبہ کو دانا شروع کیا۔ حتیٰ کہ وہ بیہوش ہو کر گر پڑا کرسیا زس سمجھا کہ وہ مر گیا ہے۔ وہ اسے گرجا ہی میں چھوڑ کر چل دیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد صوبہ کو ہوش آ گیا اور وہ فیوم سے ترک وطن کر کے نقیوس کی پہاڑیوں میں جا کر روپوش ہو گیا۔

مطرح نظر یہ ہے کہ انسانوں میں شفقت و محبت پیدا کی جائے۔ تاکہ دنیا کا نظام خوش اسلوبی سے چل سکے۔ انہوں نے سچے دل سے یہ بات محسوس کی کہ مسلمانوں کی اطاعت اور نافرمانی پر جلدی اختیار کرنے سے ان کے حساب و الام دور ہو جائیں گے اور عربوں کی حکومت ان کے لئے راحت اور شادمانی کا پیام لے کر آئے گی۔ چنانچہ انہوں نے عربوں کو اپنی امیدوں کا مرکز بنایا اور یہی وجہ تھی کہ عمرو بن العاص صرف چار ہزار فوج کے ہمراہ سارا مصر فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

مندرجہ بالا بیان سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ مذہبی ظلم و ستم منجملہ ان اہم اسباب کے تھا جنہوں نے مصر میں مسلمانوں کے داخلے کے لئے راہ ہموار کی۔

۳۔ مصر پر فوج کشی کا ارادہ :

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا :
 "مغزیر یہ تم مصر فتح کر دو گے۔ جب تم وہاں پہنچو تو وہاں کے باشندوں سے نیک سلوک کرنا کیونکہ ذمہ ہونے کے علاوہ تمہارا ان سے رشتے کا تعلق بھی ہے"
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سن کر ہر مسلمان کو کامل یقین ہو گیا تھا کہ مصر زود یا بدیر ضرور ان کے قبضے میں آ جائے گا۔

جس زمانے میں اسلامی افواج احفص بن قیس، نعیم بن مقرن، صوید بن مقرن اور عبداللہ بن عبداللہ بن عبیدان جیسے جلیل القدر سپہ سالاروں کی سرکردگی میں سلطنت ایران فتح کرنے میں مصروف تھیں اسی زمانے میں عمرو بن العاص اپنے مختصر سے لشکر کے ہمراہ مصر میں فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے اور رومی فوجیں ان کے مقابلے کی تاب نہ لاکر متنازعہ جگہ رہی تھیں۔

حضرت عمرو بن العاص نے مصر پر چڑھائی حضرت عمر کی اجازت سے کی تھی
 ۳۔ میں جب امیر المؤمنین ابولیان بیت المقدس سے صلح کرنے کے لئے فلسطین تشریف لائے تو حضرت عمرو بن العاص نے انہیں مصر پر فوج کشی کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ رومی سپہ سالار ارطغرین اپنی فوجوں کے ہمراہ فلسطین سے مصر بھاگ گیا ہے۔ اگر اس نے مصر

۳۔ قریش حضرت امیہ علیہ السلام کی امداد میں سے تھے۔ حضرت اسمعیل کی والدہ حضرت ماجرہ موریہ الاصل تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اسی طرف تھا۔ (مجاہد)

میں اپنی پوزیشن مستحکم کر لی تو فلسطین اور شام میں مسلمانوں کو سخت خطرات لاحق ہو جائیں گے اور انہیں کسی صورت میں ایشیا میں اور چین کی زندگی میسر نہ آسکے گی۔ خصوصاً اس صورت میں جبکہ مصر کے تمام وسائل اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور وہ بہت آسانی سے مسلمانوں سے مقابلے کے لئے ہر قسم کے سامان مہیا کر سکے گا۔ لہذا میں ایک لمحہ کے لئے بھی وقت ضائع نہیں کرتا چاہیے۔ اور فی الواقع مصر کی طرف کوچ کر دینا چاہیے۔ ہمارے عربوں کی پوزیشن مستحکم ہونے سے قبل ہی دو تمام علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آجائے اور مسلمان ایک بڑے خطرے سے بچ جائیں۔

غالباً انہوں نے حضرت عمرؓ کو مصر میں اور ان کے حکام کے باہمی تعلقات سے بے آگاہ کیا ہوگا۔ اور بتایا ہوگا کہ رومیوں کے مظالم کے باعث مصری ان سے حدود جہ نعت کرتے ہیں۔ اور وہ ان کے اقتدار کو ختم کرنے کی خاطر ضرور مسلمانوں سے تعاون کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے انہوں نے مصر کی زرخیزی، شادابی اور دولت و ثروت کا حال بھی حضرت عمرؓ کو سنایا ہوگا اور انہی کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی ہوگی کہ مصر کے فتح ہونے سے مسلمانوں کی غربت کے دور ہونے اور ان کے معاشی حالات کے بہتر ہونے میں بڑی مدد ملے گی۔

حضرت عمرؓ نے عمر بن العاصؓ کی باتیں بڑے غور سے سنیں اور اس معاملے پر کافی غور و خوض کیا۔ اگرچہ حضرت عمرؓ بن العاصؓ کی مائے سے متعلق تھے لیکن اس کے باوجود انہیں کئی وجوہ کی بنا پر مصر پر فوج کشی کرنے میں تردد تھا۔ ان میں سے اہم وجوہ مندرجہ ذیل تھیں:-

۱۔ فتوحات کے بارے میں حضرت عمرؓ کا نیت کوئی بھی پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ انہیں عراق اور شام میں بھی پیش قدمی کرنے کا شوق نہ تھا۔ وہ صرف عرب کی سرحدوں کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے عراق کے میدانوں سے گزر کر جبل قریح تک پہنچنے کی اجازت چاہی۔ تو انہوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ مصر

سطح طبری جلد ۲ ص ۱۱۱

حضرت عمرؓ کو اپنی اس پالیسی پر بالآخر نظر ثانی کرنی پڑی۔ نہاد میں ایرانیوں نے مسلمانوں کے مقابلے کے لئے بھاری تعداد میں فوجیں اکٹھی کی تھیں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر کامیابی عطا فرمائی تو حضرت عمرؓ نے اسلامی فوج کو حکم دیا کہ وہ سرزمین ایران میں بڑھتی چلی جائیں تاکہ شہنشاہ یزدجرد وہاں سے نکل جائے اور ایران میں کوئی طاقت الٰہی باقی نہ رہے جو مسلمانوں کے لئے آخوند چل کر پریشانی کا باعث بنے۔

تو شام اور عراق سے بہت دور تھا۔ اس پر چڑھائی کرنے کو ان کا دل کیسے قبول کر سکتا تھا۔
۴۔ جس وقت حضرت عمرو بن العاص نے حضرت عمرؓ سے مصر پر چڑھائی کی اجازت چاہی اس وقت سارا شام مسلمانوں کے زیر نگیں نہ آیا تھا۔ شمالی علاقہ بدستور مسلمانوں کے خلاف برسرِ پیکار تھا۔ یہاں حضرت بلال عبیدہؓ اور حضرت خالد بن ولید کے ذریعہ یہ علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔ ساحل سمندر پر قیسیاریہ کے مضبوط قلعے میں سقیم رومی فوجیں مسلمانوں کے لئے سخت خطرے کا باعث بنی ہوئی تھیں اور بار بار فلسطین کے اسلامی مقبوضات پر چڑھائی کرنے کی دھمکی دے رہی تھیں۔ آخر حضرت معاویہ بن ابوسفیان نے سخت جدوجہد کے بعد اس قلعے کو فتح کر لیا۔ ان حالات میں جبکہ شام بھی ابھی پورے طور پر مطیع نہ ہوا تھا حضرت عمرؓ نے مصر پر فوج کشی کر کے ایک نیا محاذ کھولنا نہ چاہتے تھے۔

۲۔ انہی ایام میں عرب میں اتفاق سے زبردست قحط پڑ گیا تھا۔ جس کے باعث وہاں کے باشندے مورت اور ذلیت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ ان حالات میں حضرت عمرؓ کے لئے تاہن تھا کہ وہ مصر کی فتح کے لئے کوئی لشکر روانہ کرتے۔ بالخصوص اس صورت میں کہ وہ شام میں لڑنے والی اسلامی فوجوں کی مدد کے لئے بھی کوئی لشکر بھیجنے سے قاصر تھے۔

۳۔ قحط ختم ہونے کے بعد فلسطین میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی جسے تاریخ میں طاعون عمواس کے نام سے مرہوم کیا جاتا ہے۔ فلسطین سے یہ وبا شام اور بصرہ تک پھیل گئی۔ یہ ایام حضرت عمرؓ اور مسلمانوں کے لئے حد درجہ پریشان کن تھے اور انہیں خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی حصیت سے فائدہ اٹھا کر کس رومی اور ایرانی ان پر ٹوٹ نہ پڑیں۔ ان حالات میں کسی نئے علاقے کی فتح کے لئے فوجیں بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔

عمرو بن العاص بہت عقل مند انسان تھے۔ انہوں نے سوچا کہ واقعی اس وقت اصرار کہ مناسب نہیں ہے۔ تاہم ان کے دل سے مصر کی فتح کا خیال دور نہ ہوا اور وہ حضرت عمرؓ کے سامنے یہ معاملہ دوبارہ پیش کرنے کے لئے کسی مناسب موقع کے انتظار میں رہے۔ آخر وہ موقع آ ہی گیا۔ شام سے رومی سلطنت کا اقتدار رجعت ہو گیا۔ اور مسلمان اس پر قابض ہو گئے۔ عرب سے قحط دور ہو گیا۔

شام اور فلسطین کے علاقوں سے قحط کی وبا کا خاتمہ ہو گیا۔ اب حضرت عمرو بن العاص نے دوبارہ مصر پر فوج کشی پر اصرار کرنا شروع کیا۔ ان کے حقائق

مندرجہ ذیل تھے۔

۱۔ اگر مسلمان موجودہ فتوحات پر قناعت کر کے بیٹھ گئے تو ان کے دشمن اسے ان کی کمرہی پر محمول کریں گے اور اپنے چھٹے ہوئے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔

۲۔ اگر طبرون مصر میں فوجیں جمع کرنے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مشغول ہے، اگر اس وقت مصر پر فوج کشی نہ کی گئی تو وہ اپنی فوجوں کو لے کر فلسطین میں اسلامی افواج پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔

۳۔ دفاع کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ دشمن کو تیاری کا موقع دینے بغیر اچانک اس پر حملہ کر کے اس کی طاقت کو پاش پاش کر دیا جائے۔ اگر اس وقت اربطون پر اچانک حملہ کر دیا گیا تو آئندہ اسے کبھی مسلمانوں کے مقابل آنے اور اپنے چھٹے ہوئے علاقوں کو واپس لینے کی جرأت نہ ہوگی۔

جب رومی اسلامی افواج کو مصر میں پیش قدمی کرتے دیکھیں گے تو انہیں یقیناً یہ خیال پیدا ہوگا کہ مسلمانوں میں ابھی بہت کچھ قوت و طاقت باقی ہے ورنہ وہ ایک نئے علاقے کو فتح کرنے کے لئے کیوں نکل کھڑے ہوتے۔ اس طرح شام ان کے حملوں سے بچ جائے گا اور اسے واپس لینے کا خیال بھی ان کے دل میں پیدا نہ ہوگا۔

۵۔ مصر میں اسلامی سلطنت کا قیام شام، عراق اور دیگر مفتوحہ علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کے لئے امن و سلامتی کی ضمانت ثابت ہوگا۔

۶۔ اس وقت رومیوں کے خلاف مصریوں کے جذبات بہت شدید اور تند ہیں اور وہ ان سے نجات حاصل کرنے کے لئے حد درجہ کوشاں ہیں۔ چونکہ انہوں نے مسلمانوں کے عدل و انصاف اور ان اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے متعلق جنہیں اسلام پیش کرتا ہے، بہت کچھ سنا ہوا ہے اس لئے وہ ضرور مسلمانوں کا خیر مقدم کریں گے اور اپنے رومی آقاؤں کے خلاف ان کی مدد کریں گے۔

۷۔ مصر بہت وسیع و زرخیز اور مالدار ملک ہے اس لئے مسلمان مادی فوائد سے بھی سے پہرہ مند ہو سکیں گے۔

ان دلائل کے پیش کرنے کے بعد حضرت عمرؓ بن العاص نے یہ پیش کش بھی کی کہ اگر انہیں مصر پر لشکر کشی کی اجازت دے دی جائے تو وہ صرف چار ہزار فوج کے ہمراہ اس عظیم مہم کو سر کرنے کے لئے تیار ہیں۔

لے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ بن العاص نے مصلحتی فتح کے لئے صرف مائتھن ہزار آدمی مانگے تھے۔

حضرت عمرؓ کو بھی حضرت عمرو بن العاص کے پیش کردہ دلائل میں ذہن معلوم ہوا۔ آپ کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ اگر عمرو بن العاص کی خواہش کے مطابق یہ مہم ان کے سپرد کر دی گئی تو وہ اسے خوش اسلوبی اور حسن و خوبی سے سرانجام دیں گے۔ چنانچہ آپ نے انہیں لکھا کہ وہ دینہ پہنچ کر اس معاملے پر مزید غور و فکر کریں گے اور پھر کوئی قطع جواب دیں گے۔ چنانچہ غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ عمرو بن العاص کی رائے صحیح ہے اور مصر کی فتح مسلمانوں کے لئے سود مند ثابت ہوگی۔

مصر کی زرخیزی اور شاہی سلطنت رومیوں میں ضرب المثل تھی۔ غلہ کی فراوانی کے علاوہ وہاں معدنیات کی بھی بہتات تھی۔ وہ اس زمانے میں علوم و فنون، صنعت و حرفت اور تجارت و زراعت کا مرکز تھا۔ اس کے بازار دنیا جہاں کی چیزوں سے بھرے رہتے تھے۔ کہاں جتنی یہاں پیدا ہوتی تھی دنیا کے اور کسی ملک میں نہ ہوتی تھی۔ مصر کے تاجر اپنے ہاں سے موتی، کپڑا اور شیشہ بیرونی ممالک میں لے جاتے تھے۔ اور بلاد عرب سے بھاری تعداد میں سونا اور ہاتھی دانت اور ہندو چین سے گرم مصالحے اور ریشمی کپڑا لاتے تھے۔

۴. عرب اور مصر کے باہمی تعلقات

عربوں کو قدیم زمانے سے مصر کے حالات سے گہری واقفیت حاصل تھی کیونکہ متعدد جہات سے عربوں اور مصریوں کے درمیان تعلقات قائم تھے۔ ذیل میں ان تعلقات کا مختصر حال تحریر کیا جاتا ہے۔

۱. تجارتی تعلقات | (الف) مصر کو فرامنڈ کے عہد سے سمندری سلطنت کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے جنگی اور تجارتی بیڑے بحر روم اور بحر قلم میں برابر گشت کرتے رہتے تھے۔ ان بیڑوں کے جہاز بجز تجارت جزیرہ میں عرب کی سرزمین تک آتے تھے اور وہاں سے خوشبو، یاقوت اور مختلف قسم کے مصالحہ جات لے کر مصر واپس جاتے تھے۔

(ب) جو یہونا سینا میں ایک قدیمی راستہ واقع تھا۔ جس پر سفر کر کے قدیم مصری تاجروں کی ان کانوں تک پہنچا کرتے تھے جو اس علاقے میں واقع تھیں۔ یہ راستہ شمالی حجاز سے گزرتا ہوا ایک طرف تو تیماء کے نزدیک اس راستے سے مل جاتا تھا جو بابل کی طرف جاتا تھا اور دوسری طرف اس راستے سے مل جاتا تھا جو مکہ اور یمن کو جاتا تھا۔ اس راستے کی موجودگی کے باعث مصر اور بحیرہ قلم کے ممالک کی تجارت یمن اور فارس، ہندوستان اور مشرق بعید کے ملکوں تک ہوتی تھی۔ مصری قافلے جو تجارت کی غرض سے

ہن ملکوں میں جاتے تھے وہ عرب سے بھی گذرتے تھے۔ اس طرح عربوں سے ان کا گہرا میل جمل قائم تھا۔ اسی طرح عرب تاجر بھی کثرت سے مشرقی ممالک سے تجارتی اشیاء لاکر مصر کے بازاروں میں بیچا کرتے تھے اور انہیں وہاں کافی دن قیام کرنے اور وہاں کے حالات و واقعات دیکھنے کا موقع ملا کرتا تھا۔

قدیم زمانے کے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اسی تجارتی سلسلے کی بدولت عربوں کی ایک معقول تعداد نراغند کے پھر ہی سے مصر میں سکونت پذیر ہو گئی تھی۔

۱۷۔ عرب سرحدوں اور گرمیوں میں مختلف علاقوں کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں ان کا سفر شام کی طرف ہوا کرتا تھا۔ ان میں سے بعض تاجر ایلہ کے قریب سے گذر کر مصر بھی پہلے جایا کرتے تھے اور اکثر کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے شام جاتے اور وہاں سے فارغ ہو کر مصر کا رخ کرتے۔ جاہلیت اور اسلام و دونوں زمانوں میں ان کا یہی طریقہ تھا۔

۱۸۔ سیاسی تعلقات | (الف) مصر کے کھوسی خاندان کے جن لوگوں نے حکومت کی وہ دراصل عرب تھے۔ عرب سے نکل کر وہ پہلے فلسطین آئے۔ وہاں سے انہوں نے مصر پر چڑھائی کی اور مستاتر پانچ صدیوں تک وہاں حکمرانی کرتے رہے۔

(ب) ایرانیوں اور رومیوں کے مابین جو کشمکش جاری تھی عرب اسے بڑی دلچسپی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ ایرانیوں کی تائید کرتا تھا۔ اور دوسرا گروہ رومیوں کی۔ سہ ماہ میں جب ایرانیوں نے رومیوں پر فتح پائی اور مصر اور شام کو فتح کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے۔ آپ کے مخالفین کا میلان ایرانیوں کی طرف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ رومیوں نے اس لئے شکست کھائی ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرح اہل کتاب ہیں اور بہت سی باتوں میں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاق ہے۔ مخالفین کے بالمقابل مسلمانوں کا میلان رومیوں کی طرف تھا اور وہ دل سے ان کی فتح کے خواہش مند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی۔

غَلَبَتِ الدُّمُومُ فِي اُذُنِي الْاُمَامُ مِنْ دَهْرٍ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ مَسِينٍ
 رومی اس وقت قریب کی سرزمین (شام) میں مغلوب ہو گئے ہیں لیکن چند ہی سال میں وہ غالب

۱۹۔ آلیہ خلیج عقبہ کی ایک بندرگاہ ہے (محمد احمد)

۲۰۔ کھوسی خاندان کا زمانہ حکومت میوں صدی قبل مسیح لے کر پندرہویں صدی قبل مسیح تک رہتا ہے۔

آجائیں گے)

رج، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر اور بادشاہوں کو تبلیغِ خطوط روانہ فرمائے، اس زمانے میں مصر کا حاکم متوفی تھا۔ جب اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو وہ آپ کے اچھی حضرت حاطب بن بلتعزہ سے بڑی عزت و تکریم سے پیش آیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خط کا بھی مناسب الفاظ میں جواب دیا اور لکھا کہ مجھے یقین تھا کہ عنقریب ایک نبی ضرور مبعوث ہوگا۔ ساتھ ہی اس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کئی تحفے بھی روانہ کیے اور دروڑ کپیاں بھی بھیجیں جن میں سے ایک ماریہ قبطیہ تھیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی اور ان کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ قبیلوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکر میسر ہونے کے علاوہ ان سے تمہارا قرابت داری کا بھی تعلق ہے۔

۱۵) ایرانی دس سال تک مصر کے حاکم رہے۔ تاآنکہ ہرقل نے انہیں شکست دے کر باہر نکال دیا۔ وہ وہاں کے شہر مل، قلعوں، دولت و ثروت اور تہذیب و تمدن سے خراب واقف تھے۔ ان کے ذریعے عربوں کو بھی مصر کے حالات کا پتہ لگتا رہتا تھا۔ مصر اور شام کے درمیان بھی گہرا تعلق تھا۔ کیونکہ یہ دونوں علاقے رومیوں کے ماتحت تھے۔ اہل شام تجارت کی غرض سے کثرت سے مصر جایا کرتے تھے۔ عربوں کا بھی جو نمک شام سے گہرا تجارتی تعلق تھا۔ اس لئے شامیوں کے ذریعے انہیں مصر کے حالات کے متعلق کافی واقفیت حاصل ہو جاتی تھی۔ وہ وہاں کے متعلق جو معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے اہل شام انہیں ان سے آگاہ کر دیتے۔

۱۶) مذہبی تعلقات | سب سے اہم تعلق جو عربوں اور مصریوں کے درمیان تھا وہ دینی اور قرابت داری کا تعلق تھا۔ عربوں کے جدِ اعلیٰ حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہما السلام عرب تھے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ مصریہ تھیں۔ تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پہلی بیوی سارہ کو سے کہ عراق سے فلسطین گئے اور وہاں سے مصر، وہاں کے بادشاہ نے اپنی لڑکی ہاجرہ کی شادی ان سے کر دی جب سارہ نے دیکھا کہ ان کے شوہر ان کے اور ہاجرہ کے درمیان کامل مساوات پرستے ہیں تو انہیں بے حد غصہ آیا اور انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ہاجرہ کے ساتھ ایک جگہ کبھی نہ رہیں گی۔ حضرت ابراہیمؑ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو لے کر عرب پہنچے اور انہیں اس وادی میں اتارا جسے آج کل مکہ کہتے ہیں۔ یہاں

۱۷) حضرت ابراہیمؑ کا حضرت ہاجرہ کو لاکر تنہا سرزمینِ حجاز میں چھوڑ جانے کا سبب یہ ہے کہ ان کی سوکن سے نبی زلیخا اور سوکن نے حضرت ابراہیمؑ سے کہا تھا کہ ہاجرہ کو ایک نر دوغ میدان میں چھوڑ دو۔ رہائی کے بغیر

حضرت اسمعیل نے بڑے ہو کر عرب کے مشہور قبیلے جرہم کی ایک لڑکی سے شادی کر لی جس کے بطن سے بارہ لڑکے پیدا ہوئے۔ ان لڑکوں کی اولاد کثیر ہوئی۔ جو عرب مستعرب کہلاتی۔ حضرت اسمعیل کے بیٹے اپنی نخیال کی طرف سے یزید بن قحطان کی جانب منسوب ہوتے تھے جو عرب قبیلے جرہم کا سردار تھا اور ان کے والد حضرت اسمعیل اپنی نخیال کی طرف سے مصر کی جانب منسوب ہوتے تھے۔ کیونکہ ان کی والدہ حضرت ماجرہ مصریہ تھیں۔

القبیلۃ العشرۃ علیہ السلام یا یحییٰ سبواہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس امر کا حکم دیا تھا۔ کیونکہ خدا اس سرزمین میں ایک شہر بسانا چاہتا تھا۔ جسے بعد میں تمام عالم اسلام کا مرکز بنا تھا اور خدا کو اپنی خدمت کا مرکز بنا تھا۔ کہ دیکھو میں ایک کوزہ اور بے بس عورت سے کبھی ایک عظیم الشان شہر کی بنیاد رکھ سکتا ہوں۔ میرے کام تمہیں، میں اور میری طاقتیں غیر محدود۔ ان اللہ لفعیل ما لیشاء (محمد احمد پانی پتی)

۱۔ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں ابتداء سے لے کر اس کے اپنے زمانے تک یکے بعد دیگرے عربوں کو چار طبقات میں تقسیم کیا ہے۔

- ۱۔ پہلا طبقہ عرب معارب کہلاتا تھا۔
- ۲۔ دوسرا طبقہ عرب مستعرب کہلاتا تھا۔
- ۳۔ تیسرا طبقہ عرب تابع کہلاتا تھا۔
- ۴۔ چوتھا طبقہ عرب مستعرب کہلاتا تھا۔

(بلوغ العرب فی معرفۃ احوال العرب از الوسی جلد اول ص ۱۰۰)

(۲)

فتوحاتِ مصر کا پہلا مرحلہ

- ۔ جنگ فرعا
- ۔ جنگ بلبیس
- ۔ جنگ ام دین
- ۔ فیوم کی جانب پیش قدمی
- ۔ جنگ حلیہ پریس

حضرت عمرو نے مدینہ کے اہل راستے اصحاب کو جمع کر کے ان کے سامنے مصر پر چڑھانی کرنے کے متعلق عمرو بن العاص کی تجویز رکھی اور ان تمام دلائل کا ذکر بھی کیا جو عمرو بن العاص نے اس تجویز کے حق میں پیش کئے تھے۔ حضرت عمرو کی اپنی راستے یہ تھی کہ اس تجویز کو قبول کر لیا جائے لیکن حضرت عثمان بن عفان اس کے مخالف تھے انہوں نے کہا :-

”امیر المؤمنین! عمرو بن العاص امارت کے خواہش مند اور پیش قدمی اور جرأت و بہادری میں نہایت بے باک ہیں۔ لیکن مجھے تدبیر ہے کہ چونکہ ان کے پاس زیادہ فوج نہیں اس لئے وہ ایسی مہم کو سر کرنے کے شوق میں جس کے انجام کا کچھ علم نہیں، کہیں مسلمانوں کو طاقت میں نہ ڈال دیں تاہم حضرت عمرو نے یہی مناسب سمجھا کہ عمرو بن العاص کو مصر پر فوج کشی کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے انہیں خط کے ذریعے مصر جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ یہ ہدایت بھی لکھی کہ وہ اپنا سفر خفیہ رکھیں۔ حضرت عمرو کا یہ خط عمرو بن العاص کے پاس مقریزی کی روایت کے مطابق شریک بن عبدہ لے کر پہنچے۔ اس وقت وہ قسارہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کو محاصرہ کا کام سپرد کیا اور خود ساڑھے تین ہزار اور بعض سپاہیوں کے بحوجب چار ہزار فوج لے کر ساحل منہمہ کے راستے مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ روانگی کے بعد انہوں نے شریک بن عبدہ کو امیر المؤمنین کی خدمت میں مدینہ روانہ کیا اور

سلاہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص کے لشکر میں زیادہ تعداد قبیلہ لک کے لوگوں کی تھی۔ کنندی کی روایت کے مطابق لشکر کا تیسرا حصہ قبیلہ فافن کے لوگوں پر مشتمل تھا۔ ہم ابھدان جبر اول، ابن دھاق سے روایت ہے کہ اس لشکر میں دو میلادیرین میں تیمم ایرانی زسوں کی ایک جماعت جس شامل بنی یامین ماہے ایرانی دراصل اس لشکر کا حصہ تھے جھگڑنے بانان یا ہر زلہ کی قیادت میں مدد کیا تھا۔ کتاب الانتصار لاسطر عقلا معارف جلد ۴ ص ۴۰۴) لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ مدی اھالیہ ایرانی فوسم حضرت عمرو بن العاص دالے لشکر میں شامل نہیں تھے بلکہ بعد میں ان کی امداد کے لئے برفوں میں دربار عذرت سے روانگی کی تھیں ان میں شامل تھے۔

۳۵ مادری نے لکھا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے مصر جانے کیلئے صحرائی علاقہ اخیارہ نیک تھا اور وہ رنج، اھرش، البقارہ اور الغزاکے قلعوں کو اپنے دائیں جانب چھوڑتے ہوئے مصر میں داخل ہوئے تھے لیکن فتوحات مصر کے متعلق بیان کر وہ کسی اور روایت سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی ہم نے ہی مادری کی روایت کے مطابق میں دوسری روایات کو اختیار کیا ہے

امیر المؤمنین کی خدمت میں امداد کی درخواست بھیجی۔

فتح میں امیر المؤمنین کا قاصد حضرت عمرو بن العاص کو ملا۔ انہوں نے اپنی عقلندی اور ذکاوت و خطانت سے سمجھ لیا کہ امیر المؤمنین نے قاصد کے ہاتھ پیش قدمی روک دینے کا حکم بھیجا ہے۔ انہوں نے قاصد کو باقول میں لگائے رکھا اور اس سے مدینہ کے حالات وغیرہ پوچھنے لپے یہاں تک کہ فتح اور اعریش کے درمیان ایک بستی میں پہنچ گئے وہاں انہوں نے قاصد سے امیر المؤمنین کا خط لیا اور اسے کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا۔

”اگر میرا یہ خط تمہیں مصر کی سرزمین میں داخل ہونے سے پیشتر مل جائے تو پیش قدمی موقوف کر کے واپس چلے آؤ لیکن اگر تم مصر میں داخل ہو چکے ہو۔ تو اللہ کا نام لے کر آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ میں تمہاری مدد کے لئے فوجیں روانہ کر دوں گا۔“

جب وہ یہ خط پڑھ کر فارغ ہوئے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا اس وقت ہم مصر میں ہیں یا شام میں؟

لوگوں نے جواب دیا ”اب ہم مصر کی سرزمین میں داخل ہو چکے ہیں۔“

تب انہوں نے امیر المؤمنین کا خط لوگوں کو پڑھ کر سنایا اور کہا۔

”چونکہ ہم مصر کی سرزمین میں داخل ہو چکے ہیں اس لئے ہم امیر المؤمنین کے حکم کے مطابق پیش قدمی جاری رکھیں گے۔“

چنانچہ وہ اپنی فوج کو ہمراہ لے کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور سب سے پہلے ”العریش“ پہنچے وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ردیول کی کمان فوج مسلمانوں کے مقابلے کیلئے یہاں موجود نہیں۔ چنانچہ وہ باآسانی اس پر قابض ہو گئے۔

سلہ ابن العاص سے یہ روایت مروی ہے کہ حضرت عمرو کو مصر کی ہم کے متعلق بے حد تردد تھا۔ اور وہ سوچتے تھے کہ مذکورہ وہاں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہونے کے یا نہ ہونے کے غور و فکر کے بعد انہوں نے عمرو بن العاص کو مصر جانے کی اجازت تو دے دی لیکن ساتھ ہی یہ پابندی بھی کر دی کہ اگر مصر کی سرزمین میں داخل ہوتے سے پہلے مدبار خلافت سے امتناعی حکم ان کے پاس پہنچ جائے تو وہ پیش قدمی موقوف کر کے واپس چلے آئیں۔ حضرت عمرو کے خط کا معنوں حسب ذیل تھا۔

”اللہ پر توکل کر کے مصر روانہ ہو جاؤ۔ میں تمہاری اس ہم کے بارے میں استغاثہ کر دوں گا اور اس کے نتائج سے تمہیں جلد ہی آگاہ کر دوں گا۔ اگر میرے خط میں تمہیں لڑنے کا حکم دیا جائے اور وہ خط تمہیں مصر کی سرزمین میں داخل ہونے (یعنی حاشیہ لگے صفحہ پر)۔“

۱۱. جنگ الفزما

الفزما کی جانب پیش قدمی | العریش سے روانہ ہو کر حضرت عمرؓ زین العاص الفزما پہنچنے کے لئے بحیرہ سر بونہ سے جنوب کی جانب ہٹے کر اس راستے پر پہنچے جسے ایرانیوں نے مصر کی فتح کے وقت اختیار کیا تھا۔

الفزما کا شہر بحر روم سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی پر آباد تھا۔ عرب اسے الفزما کہتے ہیں قبطیوں کے زمانے میں اسے "پرمون" کہتے تھے اور فراعنہ کے عہد میں اس کا نام "پوز" تھا اس کی ایک بندرگاہ بھی تھی۔ جہاں تک پہنچنے کے لئے سمندر سے ایک نہر نکالی گئی تھی۔ اس کے قریب دریائے نیل کی ایک شاخ بھی سمندر میں گرتی ہے جسے "فرع البلوزی" کہتے ہیں۔

(بقیہ ن شیخوگہ پستہ) سے قبل مل جائے تو رقم لٹ آنا۔ میں اگر مصر کی مدد میں داخل ہونے کے بعد سے لڑا اور حضرت چاہتے ہوئے آگے بڑھتے چھے جانا۔

سے مغربی میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے امیر المومنین کا خط پڑھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا :-

"مجھے امیر المومنین نے حکم دیا تھا کہ اگر مصر کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے ان کا خط واپس ہونے کے متن مجھے مل جائے تو میں واپس چلا آؤں۔ لیکن اگر مصر کی سرزمین میں داخل ہوتے کے بعد آگے بڑھوں۔۔۔ میرا نہیں کا یہ مکتوب مجھے ملا ہے۔ جس میں واپس جانے کا حکم دیا گیا ہے لیکن ہم جو کو مصر کی سرزمین میں داخل ہو چکے ہیں اس لئے اللہ کی برکت اور اس کی مدد چاہتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔"

اللہ بعض مومنین نے لکھا ہے کہ مصر لوں نے ساحلی علاقہ کی حفاظت کے لئے ایک بہت بڑی دیوار بنائی ہوئی تھی جو العریش سے شروع ہو کر قدام دسویں پر ختم ہوتی تھی۔ اس دیوار کا بنانے والا تیسرہ مسرتیق تھا۔ عرب اس دیوار کو "سور العجوز" کہتے تھے۔ تاریخ ابو صالح الذہبی؛

سے دریائے نیل کی سات شاخیں ہیں۔

۱۱، فرع القنتی (فرع دیاط) (فرع عربی زبان میں دیایا کا کہتے ہیں)

۱۲، فرع البلیتی (فرع وسطیہ)

۱۳، فرع البلوزی (مصر کے مشرقی ضلع سے گزر کر پورٹ سعید سے چوبیس میل دور یہ جانب مشرقی سمندر میں گنتی ہے)

۱۴، فرع القنتی (فرع شرقی ضلع سے گزر کر مشرقی ضلع کو قطع کرتی ہوئی بحیرہ اوسط میں گرتی ہے)

(بقیہ حاشیہ لگے صفحہ)

الفرا بہت قدیمی شہر تھا۔ یہاں کئی مضبوط قلعے اور سنگین فصیلیں تھیں وہاں قدیم مصریوں کے کثرت آنا رہائے جاتے ہیں۔ متعدد درگرجے اور کینے بنے ہوئے تھے اور اہل مصر کے اہم ترین مرکز کی حیثیت حاصل تھی کیونکہ ۱۔

۲۔ یہ مشرقی جانب سے مصر میں داخل ہونے کا دروازہ تھا۔

۳۔ صحرائے سینا سے آنے والے راستے کے درمیان واقع تھا۔

۴۔ ساحل سمندر پر واقع تھا اور اس کے قریب سے دریائے نیل کی ایک شاخ بھی گزر کر سمندر میں گرتی تھی۔

ایمانیوں نے مصر پر حملہ کرنے کے وقت الفراء کے قلعوں کو برسی طرح تباہ کر دیا تھا۔ اور اس کی فصیلیں زمیں کے برابر کر دی تھیں (جنہیں بعد میں رومیوں نے پھر درست کر دیا تھا) جب عربی لشکر شہر کے قریب پہنچا تو اس نے کسی رومی لشکر کو وہاں موجود نہ پایا۔

العریش سے الفراء تک کا راستہ جسے حضرت عمرو بن العاص نے قطع کیا ستر میل طباہ ہے یہ ایک صحرا سے گزرتا ہے جس میں کہیں کہیں چھتے اور گاؤں ہیں۔ فلسطین سے مصر جانے والا یہ قدیم راستہ قدیم زمانے سے جاری ہے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، قبطی اسکندر، کلیوپٹرا اور حضرت عیسیٰ کا خاندان سب اسی راستے سے مصر پہنچے تھے۔ مصر اور بیت المقدس کے درمیان حاجیوں اور ایشیا و افریقہ کے درمیان تجارت و سیاحت کا بھی یہی راستہ تھا۔ حضرت عمرو بن العاص بھی تجارت کے سلسلے میں کئی بار اس راستے سے گزرے تھے۔

رومیوں کی تیاری | جب رومیوں کو عربوں کی پیش قدمی اور مصر کی سرحدیں عبور کرنے کی خبریں ملیں تو انہوں نے اپنی تیاریوں کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ العریش اور الفراء کے درمیانی صحرا میں مسلمانوں سے جنگ کرنا مناسب نہیں کیونکہ ایک تو عرب ان کی نسبت صحرائی جنگ میں زیادہ ماہر ہیں۔ دوسرے العریش کے فلسطین کے نزدیک ہونے کے باعث عمرو بن العاص

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

۱۵۔ فرع اندلیزی دیر شاخ میت غر کے قریب ضلع دہلیہ میں سے گزر کر پورٹ سعید اور دمياط کے ماہن بھرتا المنزلوں تک ہے۔

۱۶۔ فرع السینی دیر شاخ افلاک منویہ اور مغربہ سے گزر کر بحیرہ ریس میں گرتی ہے۔

۱۷۔ فرع انطالی دیر شاخ، سکندریہ کے قریب بجانب مشرق سمندر میں گرتی ہے۔

ولہاں سے آسانی سے لکک منگوا سکتے ہیں۔ چنانچہ متوتس حاکم مصر نے یہی مناسب سمجھا کہ عمرو بن العاص کو الفزما کے قریب آنے دیا جائے تاکہ انہیں لکک پہنچنے کے لئے کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ اس مصیحت کے پیش نظر اس نے پہلا میدان الفزما کے قلعوں کو فرار دیا۔

جب عمرو بن العاص الفزما کے قریب پہنچے تو رومی قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہے انہوں نے اپنی جنگی تیاری کے وقت مندرجہ ذیل باتوں کو پیش نظر رکھا تھا۔

۱۔ وہ عرب جو عمرو بن العاص کے ساتھ آتے ہیں وہ تعداد میں بہت کم ہیں اس لئے چاروں اطراف سے قلعہ کا محاصرہ نہیں کر سکتے

۲۔ عربوں کے پاس محاصرہ کا سامان بھی نہیں ہے۔ وہ صرف اسی صورت میں شہر پر قابض ہو سکتے ہیں کہ یا تو حملہ کر کے قلعہ میں داخل ہونے کی کوشش کریں یا اس وقت تک قلعے کا محاصرہ کئے پڑے رہیں جب تک اہل شہر بھوک سے تنگ آ کر قلعہ کے دروازے کھولنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔

جنگ حضرت عمرو بن العاص کو معلوم تھا کہ ان کی تیاری اور قوت و طاقت رومیوں سے بچھڑ کم ہے لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس سے قبل مسلمانوں اور کفار کی آویزش اور جنگ ہائے روم و ایران میں مسلمانوں کی تعداد اور قوت و طاقت کو اپنے مخالفین کی تعداد اور قوت و طاقت سے کوئی نسبت نہ تھی لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مدد و نصرت کا وعدہ فرمایا ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

حضرت عمرو بن العاص نے الفزما کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ محاصرہ ایک مہینے اور بعض روایات کے بموجب دو ماہ تک جاری رہا۔

اہل شہر موقع موقع قلعہ سے باہر نکل کر عربوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ انہیں لکک پہنچنے کی امید تھی لیکن ان کی امیدوں کے برخلاف کسی قسم کی لکک انہیں نہ پہنچی اس پر انہوں نے میدان میں نکل کر عربوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ وہ میدان جنگ میں نکلے لیکن جنگ

سے یا قوت حموی نے سیم الملکان میں لکھا ہے کہ الفزما کی جنگ دو ماہ تک جاری رہی لیکن خطبہ المقریزی میں روایات کے عرصہ ایک ماہ لکھا ہے۔ ابن عبد حکم، سیوطی اور ابن اثیر نے بھی مقریزی ہی کی تائید کی ہے۔

کی ابتدائی گھڑیوں ہی میں انہیں معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ آسان نہیں، ان کے چہروں سے ایسی ہیبت ٹپک رہی تھی کہ معلوم ہوتا تھا وہ بھوکے شیر ہیں جو آن کی آن میں ان کی تکاہلی ٹکڑا لیں گے۔ رومیوں نے چاہا کہ جن طرح پہلے وہ کچھ دیر تک مسلمانوں کا مقابلہ کر کے پھر فوراً قلعہ بند ہو کر پھرتے رہتے تھے اسی طرح آج بھی کریں لیکن مسلمانوں نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا۔ جو نہی انہوں نے دیکھا کہ رومیوں نے پیٹھ پیر کر بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے ان کا تعاقب کیا اور سینکڑوں رومیوں کو جھاگتے ہوئے قتل کر دیا۔ رومیوں میں سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی اور انہوں نے جلد از جلد قلعہ میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن قبل اس کے کہ وہ شہر کا دروازہ بند کر سکتے مسلمان اس پر قابض ہو گئے اور انہوں نے دروازہ بند نہ ہونے دیا۔ اسمعیل بن ولید السبائی پہلے شخص تھے جنہوں نے شہر پر حملہ کیا تھا۔ رومیوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غیر تاناک شکست اٹھانی پڑی۔ عربوں نے قلعہ اور گرجاؤں کے بقیہ آثار کو بالکل تباہ کر دیا۔ قریبی بندرگاہ میں جو کشتیاں لنگر ڈالے پڑی تھیں، انہیں آگ لگا دی اور جن کرافٹسٹر ہو گئیں۔ ان کے فرما کے فتح ہونے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ فلسطین اور عرب جانے والا راستہ مسلمانوں کے لئے بالکل محفوظ ہو گیا۔ اور پیش قدمی کے دوران میں انہیں یہ خدشہ نہ رہا کہ رومی پیچھے سے ان پر حملہ کر کے ان کا راستہ قلعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔

مقریزی نے لکھا ہے کہ محاصرے کے دوران میں انفرما کے قبضیوں سے ہر طرح خبروں کی مدد کی تھی۔ ابن عبدالحکمر نے لکھا ہے کہ اسکندریہ میں قبضیوں کا اسقف ابومیامین نامی ایک شخص تھا۔ جب اسے حضرت عمرو بن العاص کی مصر میں پیش قدمی کی اطلاعات ملیں تو اس نے قبضیوں کو لکھا کہ رومیوں کی حکومت کے آخری دن نزدیک آگئے ہیں لہذا وہ عمرو بن العاص سے مل جائیں اور انہیں ہر قسم کی مدد پہنچائیں۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ انفرما میں قبضی عمرو بن العاص کے سب سے

۱۔ سن المحاضرہ سیرجی بحوالہ الکندی

۲۔ مسلمان انفرما پر یکم محرم الحرام ۱۹ھ بمطابق ۲ جنوری ۶۳۷ء کو قابض ہوئے تھے۔

۳۔ ابومیامین اسقف بیامین ہی کا دوسرا نام ہے۔ نقل از یہ بیان کر چکے ہیں کہ جب رومیوں نے مصر پر دوبارہ

تسلط ہا کر وہاں کے باشندوں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کئے تو وہ سب سے پہلا گیا تھا۔ لہذا حضرت عمرو بن العاص

کے قتلے وقت اس کا مصر میں موجود ہر کسی طرح ترین قیاس نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ

مندرجہ بالا زراعت درست نہیں ہے

بڑے مددگار تھے۔

بہ دونوں روایتیں بالکل بے بنیاد ہیں اور کسی بھی ذریعے سے ان کی صداقت کا ثبوت مہیا نہیں ہو سکتا۔ اصل وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ مورخین کو انفرامیں حضرت عمر ثوبن العاص کی حیرت انگیز کامیابی کی کوئی ظاہری وجہ نظر نہیں آئی اس لئے انہوں نے فرض کر لیا کہ وہاں کے مقامی باشندوں کی مدد سے حضرت عمر ثوبن العاص اس جگہ میں فتح پاب ہوئے ہوں گے چونکہ اہل مصر رومیوں کے مذہبی جوہر دستم سے بے حد نالاں تھے اور ان کی حکومت کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ اس لئے مورخین کے مذکورہ بالا خیال کو مزید تقویت ملی۔

ڈاکٹر محمد حسین بیگل مرحوم نے بھی اپنی کتاب الفاروق عمر میں ہماری ہی راستے کی تائید کی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں :-

”واقعہ یہ ہے کہ قطیفیوں نے فتوحات مصر کے دوران میں نہ مسلمانوں کی مدد کی اور نہ اپنے رومی آقاؤں کی۔ مسلمانوں کی فتح مندوبوں اور کامیابیوں میں قطیفیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔۔۔۔۔۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عربوں سے جنگ کے دوران میں قطیفیوں نے رومیوں کا جو عقوڑا بہت ساتھ دیا۔ وہ قیصر اور اس کے عمال کے دباؤ سے مجبور ہو کر دیا لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انہوں نے عربوں کے ساتھ بھی کوئی تعاون نہیں کیا۔ ان لوگوں کی انفرادی اور خفیہ اعانت کے سوا جو رومیوں اور ان کی حکومت سے کسی وجہ سے ناراض تھے اور اس ناراضگی کے باعث انہوں نے عربوں کو رومیوں کے تمام بھید بتا دیئے۔ باقی تمام مصری قوم بڑے شدت اور بے صبری کے ساتھ رٹنے والوں کا قاتل و بھتی رہی۔ رومیوں نے اہل مصر کو طرح طرح سے ستایا تھا۔ ان پر ایسے ایسے ظلم ڈھائے تھے، ماہیں اس بری طرح کوٹا کھسوتا تھا کہ ان کے دل میں اپنے حاکموں کے لئے امداد و اعانت کا کوئی جذبہ باقی نہ رہا تھا۔ اور عربوں سے انہیں اس وقت تک کوئی واسطہ ہی نہ پڑا تھا۔ چودہ ان سے نفرت کرتے یا انہیں خوش آمدید کہتے تھے۔“

محمد حسین بیگل مرحوم نے اپنی تائید میں حنائیوسی کے دیوان سے بھی ایک حوالہ پیش کیا ہے جس میں وہ کہتا ہے۔

قطیفیوں نے اس وقت تک مسلمانوں کی مدد نہ کی جب تک وہ یوم اور اس کے صوبے پر

قابض نہ ہو گئے۔ ہمیں فتح قیوم کے زمانہ وقوع کا ٹھیک علم نہیں مگر یہ تحقیق طرد پر معلوم ہے کہ یہ عظیم فتح قلعہ بابلیوں کی فتح کے بعد عمل میں آئی تھی قبلیوں کی یہ مدد بھی برائے نام ہی تھی صرف چند امور میں انہوں نے مسلمانوں کو مدد دی تھی۔

جنگ میں رومیوں کا طریق کار رومیوں نے عربوں سے ابتدائی جھڑپوں کے وقت ایشیائی طریقے کیوں استعمال نہیں کئے۔

انہوں نے الفزما کی حفاظت کرنے والی فوج کی امداد کے لئے ملک کیوں نہ بھیجی تاکہ وہ مسلمانوں کو شکست دے کر پیچھے ہٹا سکتی؟

فتوحات کے ابتدائی دور میں قبرس نے سلبی طریقے کس مصلحت کے تحت استعمال کئے؟ یہ اور کسی قبیل کے بہت سے سوالات ہیں جن پر مؤرخین نے کافی بحث کی ہے اور اس ضمن میں مختلف اسباب و علل بیان کئے ہیں جن میں سے ہم چند کا ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ داخلی طور پر مصریوں کے عام احساسات رومیوں کے برخلاف تھے۔ رومی ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے کثیر تعداد میں الفزما فوجیں روانہ کر دیں تو کہیں ان کے خلاف داخلی طور پر بغاوت کھڑی نہ ہو جائے اور مصری ان کی فوج پر پیچھے سے ٹوٹ پڑیں۔

۲۔ رومیوں کو فلسطین اور شام کے میدانوں میں اپنی شکستوں کا حال خوب معلوم تھا جو انہیں حال ہی میں مسلمانوں کے مقابلے میں اٹھائی پڑی تھیں وہ جانتے تھے کہ عرب لڑائی کے فن میں خوب ماہر ہیں اس لئے وہ ایسی جگہوں پر ان سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار نہ تھے جہاں انہیں شکست کا خطرہ لاحق ہو۔

۳۔ رومی خطہ دفاع بابلیوں اور منف کے قلعوں کو بنانا چاہتے تھے۔ تاکہ دریائے نیل ان کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان خندق کا کام دے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ قلعے عربوں کو روکنے میں بے حد عمد و معاملہ ثابت ہوں گے۔ جب آگے نہ بڑھ سکیں گے تو لامحالہ انہیں مصر سے ناکام واپس جانا پڑے گا۔

۴۔ رومی اس زلزلے میں اندر دردن مصر میں اپنے کلیدی مقامات اور اہم قلعوں کو مضبوط بنانے میں مصروف تھے تاکہ وہاں مقیم ہو کر مسلمانوں کا دلچسپی سے مقابلہ کیا جاسکے۔ اس لئے وہ سرحدوں

مقامات کی حفاظت کے لئے معتد بہ تعداد میں فوجیں روانہ نہ کر سکے۔

جنگ الفزما کے نتائج | عربوں نے رومیوں کی عظمت سے فائدہ اٹھایا اور ان کی فوجیں انفرما میں داخل ہو گئیں الفزما کا ان کے ہاتھ میں آ جانا کسی لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہوا چونکہ یہ شہر ایک اہم جگہ واقع تھا۔ اس لئے اس پر قبضہ کر لینے سے شام کو جانے والا راستہ بالکل محفوظ ہو گیا۔ اگر نڈا نخواستہ شکست کی کوئی صورت پیش آتی تو اس راستے سے اسلامی فوجیں بحفاظت شام واپس جا سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی ملک اس راستے سے طائروں کو پہنچ سکتی تھی۔ حضرت عمرو بن العاص خود بھی اس ملک کے انتظام میں نکلے جس کے بھیجے کا امیر المومنین نے وعدہ فرمایا تھا۔ یہ ملک لامحالہ الفزما کے راستے سے ہی آ سکتی تھی۔

چونکہ حضرت عمرو بن العاص کے پاس اتنی فوج نہ تھی کہ وہ اس میں سے کچھ حصہ شہر کی حفاظت کے لئے چھوڑ کر بقیہ فوج کے ہمراہ آگے پیش قدمی کرتے اس لئے انہوں نے مجبوراً قطعہ کی نصیبوں اور دیگر عمارتوں کو منہدم کرنے کا حکم دیا تاکہ اگر دشمن کسی وقت شہر پر دوبارہ قابض ہو جائے تو وہ ان نصیبوں اور قطعوں سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔

اس سے قبل ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص نے ان کشتیوں کو بھی نذر آتش کرنے کا حکم دیا تھا جو شہر سے کچھ فاصلے پر بندرگاہ میں لنگر انداز تھیں۔

الفزما کی فتح کے بعد | الفزما فتح ہو جانے کے بعد وہ بدو جو صحرا سے مصر کی سرحدوں پر آباد تھے۔ غنیمت کے لالچ میں حضرت عمرو بن العاص کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اور اس طرح وہ نقصان پورا ہو گیا جو مسلمانوں کو مصر میں اپنے محاصرے میں اٹھانا پڑا تھا۔

۲۔ جنگ بلبیس

بلبیس کی جانب پیش قدمی | حضرت عمرو بن العاص الفزما کی فتح کے بعد اپنے لشکر کو رے کر جنوب کی جانب روانہ ہوئے پہلے نجدی سپینے وہاں سے آپ نے موجودہ ہیرسویز کے اس مقام کا رخ کیا جسے اب القنطرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ القنطرہ سے آپ بجانب مغرب صالحیہ (یا قضا صین) کی سمت بڑھے۔ وہاں سے جنوب مغرب کی طرف وادی طبلات کے شیلوں سے

سے مغربی نے کہا ہے کہ قبیلہ راشدہ اور لخم کے جن قبائل جبل جلال کے نزدیک حضرت عمرو بن العاص سے مل گئے تھے۔ لکہ بعض کتابوں میں اس کا نام "جمہول" لکھا ہوا ہے یہ الفزما سے جنوب مغرب کی جانب ساحل سمندر کے قریب واقع ہے۔

گزرتے ہوئے (جو تل الکبیر کے قریب واقع ہیں) بلیس پہنچے جو شہر مصر سے تیس میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ رہتے ہیں حضرت عمرو بن العاص کو کسی خاص اور قابل ذکر مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔

مقوقس کی جانب سے صلح کی کوششیں | بعض روایات میں آتا ہے کہ بلیس میں حضرت عمرو بن العاص کے قیام کے دوران میں مقوقس نے بعض پادریوں کو ان کے پاس صلح کا پیغام دے کر بھیجا۔ حضرت عمرو بن العاص نے پادریوں کے اس گروہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حال بیان کیا اور کہا۔

”ہم آپ لوگوں کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے اسے قبول کر لیا تو ہم ہیں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ لیکن جو شخص اسلام لانا نہیں چاہے گا۔ اسے جزیرہ دینا ہوگا۔ اس کے بدلے میں ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہمیں چاہیے سے بتایا جا چکا ہے کہ ہم تم پر فتح پائیں گے اور ہم نصیحت کی گئی ہے کہ اگر تم ہماری دعوت قبول کر لو تو قربت داری کے احترام میں ہم تمہاری بطور خاص حفاظت کریں۔“

قربت داری کے لفظ سے حضرت عمرو بن العاص کا اشارہ حضرت اسمعیلؑ کی والدہ حضرت ماجرہ کے رشتے کی طرف تھا۔ پادری بھی اس اشارے کو سمجھ گئے اور انہوں نے کہا: یہ بہت دور کی رشتہ داری ہے اور اتنی دور کی رشتہ داری کو صرف اللہ کے نبی ہی زندہ کر سکتے ہیں۔“

اس کے بعد کہنے لگے۔

”ہم مقوقس کے پاس جا کر آپ کی تمام باتیں اُس سے کہہ دیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آکر آپ پر ایمان لے آئیں گے۔“
حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا:۔

”مجھ جیسے شخص کو دھوکا نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن میں تمہیں تین دن کی جہلت دیتا ہوں۔ اس دوران میں تم خود بھی صلح سمجھ لو اور اپنے حاکم اور اپنی قوم سے بھی مشورہ کر لو۔ اس کے بعد میں تم سے جنگ کروں گا۔“

انہوں نے کہا: "تین دن تو کم ہیں ہمیں کچھ مزید ہمت دیجئے۔" حضرت عمرؓ بن العاص نے چار دن کی ہمت دی آخر ان کے اصرار پر پانچ دن کر دیئے، وہ متوقس کے پاس پہنچے اور اسے ساری روداد کہہ سنائی، متوقس نے حضرت عمرؓ بن العاص کی پیش کش کو مسترد کرنے ہوئے مسلمانوں سے مقابلے کا ارادہ کر لیا۔ اور اپنے سپہ سالار رطبون کو جو اس سے قبل بیت المقدس کے محاصرے کے وقت رومی فوج کا سپہ سالار رہ چکا تھا، اور اپنے میں مسلمانوں سے مقابلے کی طاقت نہ پا کر مصر بھاگ آیا تھا، حضرت عمرؓ بن العاص کے مقابلے کے لئے روانہ ہونے کا حکم لیا۔ جنگ | رطبون بارہ ہزار رومی فوج لے کر جو ہر طرح کیل کانٹے سے لیس تھی، مسلمانوں کے مقابلے کے لئے نکلا، اس کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں پر اچانک حملہ کر کے ان کی طاقت کو نیست نابود کر دیا جائے۔ لیکن حضرت عمرؓ بن العاص اپنی جگہ پورے طور پر تیار تھے۔ وہ پہلے ہی پادریوں کے وفد کے سامنے کہہ چکے تھے کہ مجھ جیسے آدمی کو دھوکا نہیں دیا جاسکتا۔ ان کی تمام فوج عرب کے منتخب بہادروں پر مشتمل تھی وہ بھلا درمیوں کو کیسے خاطر میں لاتی؟ گھمسان کارن پڑا جس میں اگرچہ مسلمان بھی کافی تعداد میں شہید ہوئے لیکن رومیوں کا تو بے اندازہ نقصان ہوا۔ ان کے ایک ہزار آدمی مارے گئے اور تین ہزار قیدی بنائے گئے۔ رطبون کا لشکر بالکل تباہ ہو گیا۔ اور اسے عبرت ناک شکست کھانی پڑی۔

۳۔ جنگ ام دُنین

جنگ کی تیاری: فتح بلبیس کے بعد حضرت عمرؓ بن العاص صحرارہ کو قطع کرتے اور شہر ہلبیہ پولیس کے قریب سے گزرتے ہوئے ام دُنین کے قریب خیمہ زن ہوئے۔ ام دُنین کا مستحکم قلعہ بامیون کے شمال میں موجود شہر قاہرہ اور دریائے نیل کے درمیان واقع تھا۔ جب قاہرہ کی بنیاد ڈالی گئی اور شہر نے پھیلنا شروع کیا تو اس نے ام دُنین کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ آج کل اس کی جگہ قاہرہ کا محلہ ازکیہ آباد ہے۔ یا قوت حموی نے معجم البلدان میں ام دُنین کا نام "المقس" لکھا ہے۔ مقرریزی نے لکھا ہے کہ فتح کے وقت یہ مصر کی بندرگاہ تھی فتح سے پہلے اس کا نام "تندرنیاس" تھا، موجودہ نام اسے عربوں نے دیا تھا۔ رومیوں نے اس لمبے خطے کی اہمیت کو خوب سمجھ لیا تھا۔ جوان کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اور انہیں اس حقیقت کا احساس ہو گیا تھا کہ عمرؓ بن العاص کی مصر پر چڑھائی کو

بد دیوں کی غارت گری سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی بلکہ یہ باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ایک منظم حملہ ہے جو ان کی سفنت کو مٹانے کے لئے مصر پر کیا گیا ہے۔ چنانچہ متوقس جو مصر کا حاکم اور سکندریہ کا سرکاری بطریق تھا، قلعہ بابلیون پہنچا اس کے ساتھ رومی لشکر کا سپہ سالار عقیدو ڈور بھی تھا۔ بابلیون میں بیٹھ کر ان دونوں نے بھاری تعداد میں فوجیں اکٹھی کیں اور قلعہ ام ڈنن کو مضبوط و مستحکم بنانے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ ان کی تیاریوں سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو زندگی اور موت کی جنگ کے لئے تیار کر لیا ہے جس کے نتیجے میں یا تو وہ عربوں کو اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے اور یا ہرقل کی طرح یہ کہتے ہوئے خود وہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔

”الوداع اے سرزمین مصر، بدوہ جدائی ہے جس کے بعد پھر ملنا ممکن نہیں“
 حضرت عمرو بن العاص کی ندائیں | حضرت عمرو بن العاص نے بھی اپنی جگہ موقع کی نزاکت اور خطرے کو محسوس کیا۔ جاسوسوں کی اطلاعات سے انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے ہمراہ جو فوج ہے وہ قلعہ بابلیون کی فتح یا اس کے محاصرے کیلئے ناکافی ہے اسی طرح ان کی فوج کے لئے شہر مصر کو فتح کرنا بھی ناممکن ہے جو قلعہ بابلیون کے قریب اور اس کے زیر حفاظت تھا۔ اب کریں تو کیا کریں؟ آخر بہت کچھ سوچ بچار کے بعد انہوں نے اپنی جگہ پالیسی کو اس طرح ترتیب دیا۔

- ۱۔ قلعہ بابلیون کی بجائے ام ڈنن کا محاصرہ کیا جائے اور اس کی فتح کے سے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا جائے۔ اگر وہ فتح ہو گیا تو اس کی بندرگاہ میں جو کشتیاں ہوں گی وہ سب ہمارے قبضے میں آجائیں گی اور ہم ان کے ذریعے مفید کام لے سکیں گے۔
- ۲۔ جس حد تک ممکن ہو سکے اپنے آدمیوں کی حفاظت کی جائے۔ انہیں اندھا دھند جنگ میں نہ جھونکا جائے اور کسی ایسی جگہ نہ بھیجا جائے جہاں قطعی طور پر ہلاکت اور بربادی کا خطرہ ہو۔

۳۔ امیر المومنین سے جلد از جلد مزید مدد بھیجنے کی درخواست کی جائے۔
 چنانچہ عمرو بن العاص آگے بڑھے اور ام ڈنن کا محاصرہ کر کے ہر قسم کی فوجی ملک اور سامان رسد کو قلعہ میں پھینچنے سے روک دیا۔
 قلعہ میں مقیم فوج وقتاً فوقتاً باہر نکلتی اور کچھ دیر کی دوبدو جنگ کے بعد پھر واپس قلعہ میں گھس جاتی۔ مقررہ لکھتا ہے۔

”اس وقت دشمن کے قریب رومیوں اور مسلمانوں کی متعدد شدید جھڑپیں ہوئیں اور قلعہ کی فتح میں دیر ہوتی چلی گئی۔“

ابوالحساس نے لکھا ہے۔

”رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو جھڑپیں ہوئیں وہ بہت شدید تھیں۔ انہیں دیکھ کر کوئی نہ کہہ سکتا تھا کہ غلبہ کس فریق کو حاصل ہوگا۔“

اشائے محاصرہ میں بارگاہِ خلافت سے پہلی امدادی فوج بھی آگئی جس پر اسلامی فوج میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی اور ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اُدھر جب رومیوں کو مسلمانوں کی ملک کی آمد کا حال معلوم ہوا تو ان کے چہرے پر افسردگی چھا گئی اور ان کی قوت و طاقت جواب دینے لگی۔ پچھلے دنوں قلعہ سے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کرنا ان کا شعار بن چکا تھا لیکن جب سے ملک پہنچی تھی انہوں نے باہر نکلنا بہت کم کر دیا تھا۔

حضرت عمر بن العاص نے جو محاصرے کے دوران میں قلعہ کے اندرونی اور بیرونی حالات سے خوب واقف ہو چکے تھے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ قلعہ پر پوری قوت و طاقت سے حملہ کر دیں۔ فوج کی ہمت بڑھانے کی خاطر وہ خود سب سے آگے آگے تھے۔ بڑے زور کا لہن پٹا کچھ دیر لڑائی کے بعد مسلمان قلعہ کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے اور کشتوں کے پستے لگاتے ہوئے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلے گئے بالآخر قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ رومیوں کے بے شمار آدمی قتل ہوئے اور ان گنت لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔

قلعہ کے فتح ہوجانے سے دریائے نیل پر بھی مسلمانوں کا نڈھول ہو گیا۔ بندرگاہ میں جتنی کشتیاں تھیں وہ سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں یہ کشتیاں سارے اسلامی لشکر کو دریائے نیل عبور کرانے کے لئے کافی تھیں۔

بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس آخری معرکہ کے وقت حضرت عمر بن العاص نے اپنی فوج کے بعض آدمیوں پر کچھ سختی کی تھی۔ انہوں نے ایک گروہ کو گریز پائی پر آمادہ پا کر انہیں ابھارا اور پیش قدمی کرنے کا حکم دیا جس پر ان میں سے ایک نے کہا ”ہم چنقر کے بنے ہوئے نہیں ہیں“

حضرت عمر بن العاص نے اسے چھڑکا اور کہا۔

”اسے کہتے ! خاموش رہ“

اس پر اس آدمی نے جواب دیا۔

سنئے انجوم انزاہرہ ملے۔ ابراہیم نے انجوم انزاہرہ میں لکھا ہے کہ اس آدمی نے حضرت عمر بن العاص سے یہ کہا تھا۔

”ہم چنقر کا بنے ہوئے نہیں ہیں“

”اگر ہم کہتے ہیں تو آپ کتوں کے سردار ہیں“۔

حضرت عمرو بن العاص بہت بڑے مدبر اور موقعہ شناس تھے۔ انہوں نے اس آدمی کی طرف تو انتفاہ نہ کیا البتہ منہ پھیر کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا:۔
”آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے طفیل ہمیں کامیاب کرے گا“۔

چنانچہ صحابہ کرام میں کود پڑے۔ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے مسلمانوں نے بھی جوش سے لڑنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و ظفر سے ہمکنار فرمایا۔

۴۔ فیوم کی طرف پیش قدمی

ردمیوں کی فوجیں تھیر ٹھس کی قیادت میں قلعہ بابیہ راہ میں جمع تھیں۔

حضرت عمرو بن العاص اگرچہ ام دُنین پر قابض ہو چکے تھے لیکن انہیں اس بات کا احساس تھا کہ اگر وہ چندے ام دُنین میں مقیم رہے تو یہ امر ان کے اور ان کی فوجوں کے لئے خطرے کا باعث ہو گا اور ردمی فوجیں ضرور سان پر حملہ کر دیں گی۔ بہت کچھ غور و فکر کے بعد انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ لشکر کو خطرے کی جگہ سے ہٹا کر اسے کسی ایسی جگہ لے جایا جائے جہاں کامیابی کی امید ہو اور اس کا وصلہ برابر بلند ہوتا ہے تاکہ نلیفہ المسلمین کی طرف سے دوسری امادی فوج نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ انہوں نے ان کشتیوں کی مدد سے جو بندرگاہ میں لنگر انداز تھیں، دریائے نیل عبور کیا اور اہرام الجیزہ سے گزرتے ہوئے صحرا میں سرگرم سفر ہو گئے۔ اس مرتبہ ان کا ارادہ فیوم جا کر ردمیوں سے نبرد آزما ہونے کا تھا تاہم ایک طرف تو اس علاقے کے باشندوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کر سکیں اور دوسری طرف اطمینان سے بیٹھ کر امیر المؤمنین کی بھیجی ہوئی ملک کا استعارہ کر گئیں۔

فیوم کی سرحد پر پہنچتے ہی حضرت عمرو بن العاص کو معلوم ہوا کہ ردمیوں نے اس صوبے کی حفاظت کے لئے زبردست تیاری کی ہوئی ہے اور صوبے میں داخل ہونے والے راستوں

۱۵ ابن اثیر نے یہ واقعہ جنگ میں شمس کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔

۱۶ حضرت عمرو بن العاص میں سالہ کے امانی میں فیوم کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ اس ہمہ میں انہیں کئی ہتھیارے جس کے مدد انہیں کثیر مال غنیمت ملتا آیا ان کے مقابلے میں ردمیوں کو شدید نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔

پر فوج متعین کر دی ہے۔ یہ سن کر عمر بن العاص صحرا میں رک گئے اور چھوٹے چھوٹے دستوں کو اس پاس کی بستیوں پر چھاپے مارنے کیلئے بھیجنا شروع کر دیا تاکہ فوج کی غذائی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں

اسی اثناء میں اس علاقے کے بدویوں اور خود اسلامی فوج کے جاسوسوں سے معلوم ہوا کہ ردیوں کا ایک دستہ جس کی قیادت خنایہ نامی ایک شخص کر رہا ہے وہ کھجور کے باغوں کی آڑ لیتا ہوا عربوں کے حالات سے آگاہی حاصل کرنے اور ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کی خاطر اسلامی فوج کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔

حضرت عمر بن العاص نے فیصلہ کیا کہ خنایہ اور اس کی فوج سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹایا۔ یہاں تک کہ خنایہ اور اس کے دستے سے دور ہو گئے اس کے بعد اچانک پلٹے اور محاصرہ کر کے خنایہ اور اس کے ایک ایک ساتھی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خنایہ کی لاش دریائے یامین بہا دی۔

تھینو ڈور کو خنایہ کے مارے جانے کا بے حد رنج ہوا اور اس نے اپنے آدمیوں کو اس کی لاش ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ لاش ملنے پر اسے حنوط کر کے دریائے نیل کے ذریعے بابلین پہنچا گیا۔ اہل بابلین پر بھی لاش کو دیکھ کر بے حد خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ وہاں سے اسے ہرقل کے پاس قسطنطنیہ بھیج دیا گیا۔ ہرقل کو بھی اسے دیکھ کر بے حد صدمہ ہوا۔ اور اس نے تھینو ڈور کو ایک خط لکھا جس میں اپنے حزن و اطم کا حال درج تھا ساتھ ہی اس نے اس امر پر تأسف کا اظہار کیا تھا کہ ردی فوجیں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے سے پہلے ہی کر رہی ہیں

حضرت عمر بن العاص کے فیوم کی سرحد پہنچنے پر ردی فوج مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے فیوم سے روانہ ہوئی۔ لیکن حضرت عمر بن العاص نے خنایہ پر کامیابی کے ذریعے اس صوبے کے لوگوں کے دلوں میں جو رعب قائم ہو گیا تھا اسی کو کافی سمجھا اور صحرا میں مورچہ بند ہو کر بیٹھ رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ردی صحرا میں جنگ کرنے سے بے حد ڈرتے ہیں اور انہیں اس میں اپنی موت چھپی ہوئی نظر آتی ہے۔ ردیوں نے جو انہیں صحرا کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو سمجھے کہ مسلمان ڈر کے مارے بھاگے جا رہے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوئے اور فیوم واپس آ گئے۔

امدادی فوج کی آمد | اسی اثناء میں حضرت عمر بن العاص کو خبر پہنچی کہ زبیر بن العوام کی زیر قیادت ایک امدادی فوج مصر پہنچ گئی ہے اور انفرما کے راستے بلیس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حضرت

عمرو بن العاص کو قدسہ پیدا ہوا کہ کہیں رومی اس فوج کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اسے دریا پار کر کے ان کے پاس نہ پہنچنے دیں اس لئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ام دُئین واپس جائیں اور اس فوج سے مل جائیں۔

رومی دریائے نیل کے کنارے قلعہ بابلیون میں موجود تھے۔ اور ان کے لئے بالکل ممکن تھا کہ وہ عمرو بن العاص کو دریا عبور کرنے سے روک دیتے۔ لیکن انہوں نے قلعہ سے باہر نکلنے اور عمرو بن العاص کا راستہ روک کر انہیں واپس صحرا میں دھکیلنے کی تکلیف گوارا نہ کی۔ عمرو بن العاص کو موقع مل گیا کہ وہ فوج لے کر نیل کے مشرقی کنارے پر اتر جائیں اور اس ملک سے جا ملیں جو قلعہ بابلیون کے قریب حلیو پولیس میں خیمہ زن ہوئی تھی بعض مورخین سے رومیوں کی اس بے حسی کی یہ تاویل کی ہے کہ انہیں ملک پہنچنے کا علم ہو چکا تھا اور وہ ڈرتے تھے کہ اگر قلعہ سے قدم باہر رکھا گیا تو یہ ملک ان پر دعوا بول کر ان کا تیا پانچا کر دے گی۔ بٹکر نے حضرت عمرو بن العاص کے دریا عبور کرنے کا جو حال لکھا ہے اسے ہم یہاں درج کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے۔

عمرو بن العاص نے دریا عبور کر لیا چاہے طاقت کے بل پر چاہے رومیوں کو دھوکا دے کر گمان غالب یہ ہے کہ انہوں نے ام دُئین کے شمال میں نخلی طرف سے دریا عبور کیا۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی ملک دو حصوں میں تقسیم ہو کر صین شمس یعنی حلیو پولیس کی طرف جا رہی ہے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مغربی سمت خطرے سے خالی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عمرو بن العاص ڈرتے تھے کہ کہیں رومی ان کے راوے کو بجانب کران کے اور اس امدادی فوج کے درمیان حائل نہ ہو جائیں جو زبیر بن العوام لے کر آئے تھے لیکن رومی سپہ سالار تھیوڈور نے حسب عادت اس موقع کو بھی ہاتھ سے کھو دیا اور مسلمانوں پر فیصلہ کن ضرب نہ لگائی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عمرو بن العاص کے لئے امدادی فوجوں کی طرف بڑھنا ممکن ہو گیا۔ اور وہ حلیو پولیس میں اپنے ان ساتھیوں سے جا ملے جو ان کی مدد کے لئے آئے تھے۔ اس طرح ان کی فوج کے حوصلے بڑھ گئے اور اپنی اس شاندار کامیابی پر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔

۵۔ مصر کے حلیو پولیس

حلیو پولیس کی تاریخ | حلیو پولیس مصر کا ایک بہت بڑا شہر تھا قبلیوں کے عہد میں اس کا نام

اولن تھا جس کے معنی مسورج کے شہر کے ہوتے ہیں۔ یونانیوں نے بھی اپنی معنوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا نام "سیدیا پوسیس" رکھ دیا جب عرب یہاں آئے تو انہوں نے بھی اپنی معنوں کی رعایت سے اس کا نام "عین شمس" رکھا۔

اس شہر کی قدیم تاریخ بڑی شاندار ہے۔ یہ مصری علوم و فنون کا مرکز تھا۔ بڑے بڑے فلسفی یہاں کی درس لگاہوں میں بیٹھ کر علم و حکمت کا سبق سکھاتے تھے اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنی ماموں ہیں فلسفہ اور مہیت کے درس دیتے تھے لیکن بعد میں جب مصر میں روحی حکومت قائم ہوئی تو علم و فلسفہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گیا اور یہ شہر ہدایت کی تاریکیوں میں چھپ گیا۔ علم کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ اس شہر کی ظاہری شان و شوکت بھی ماند پڑی۔ شروع ہو گئی چنانچہ جب عرب یہاں پہنچے ہیں تو چنانچہ ٹوٹی پھوٹی نصیوں اور اہل کے بست (جس کا نصف حصہ زمین میں دیا ہوا تھا) اور ایک ستون دہے کے ساتھ کہا جاتا تھا، کے سوا یہاں اور کچھ باقی نہ رہا تھا۔

حضرت عمر بن العاص نے نیمہ زمان ہونے کیلئے شہر کے کھنڈرات منتخب کیے جس جگہ یہ کھنڈرات واقع تھے وہ جگہ زمین سے کچھ اونچی اور دفاعی سہولتوں کے لئے سوزول تھی۔ وہاں پانی بھی کثرت تھا اور غذائی سامان کی بھی کمی نہ تھی۔

امدادی فوج | ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عمر کی بھی ہوتی امدادی فوج مصر بھیج چکی تھی اور عمر بن العاص بھی اس تک پہنچے ہیں کا یہاں ہو گئے تھے۔ عمر بن العاص کی اور امدادی فوج کو عطا کر اسلامی لشکر کی تعداد اب ساڑھے پندرہ ہزار ہو گئی تھی۔

یہ امدادی فوج حضرت زبیر بن العوام کی زیرکردگی آئی تھی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے عمر بن العاص کی رہنمائی مصر کے بعد صورت حال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے حضرت زبیر کو بارہ ہزار فوج کے ہمراہ عمر بن العاص کے پیچھے روانہ کر دیا۔ جس نے مصر بھیج کر تمام فتوحات میں حصہ لیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر نے عمر بن العاص کی مدد کے لئے

چار ہزار سپاہ پر مشتمل امدادی فوج بھیجی اور لکھا کہ میں تمہاری مدد کے لئے چار ہزار مجاہدین بھیج رہا ہوں۔ ایک ایک ہزار پر ایک ایک امیر ہے اور ہر امیر ایک ہزار آدمیوں کے برابر ہے۔ امیر یہ ہیں زبیر بن العوام، مقداد بن اسود، عبادہ بن جہام اور خارجہ بن حذافہ۔ تم یہ سمجھو کہ تمہارے ساتھ بارہ ہزار

سے ابن عبدالمکرم نے لکھا ہے کہ امدادی فوج میں حضرت زبیر کے علاوہ یہ لوگ بھی شامل تھے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص (بقیہ مآثریہ دیکھئے صفحہ ۱۹۱)

مجاہدین ہیں اور بارہ ہزار مجاہدین قتل تعداد کی بنا پر مغلوب نہیں ہو سکتے۔
 حضرت زبیرؓ بن عوام کی آمد حضرت زبیرؓ نے دراصل انطاکیہ (شام) جا کر رومیوں
 کے مقابلے میں جہاد کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جب حضرت عمرؓ کو ان کے ارادے کی اطلاع ہوئی تو
 آپ نے انہیں بلایا اور کہا "کیا تم امارت کے خواہشمند ہو؟" انہوں نے جواب دیا
 "ہمیں مجھے امارت وغیرہ کی کوئی خواہش نہیں۔ میں تو جہاد اور مسلمانوں کی امداد کے لئے جانا
 چاہتا ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہوا کہ عمرؓ بن العاص نے مصر فتح کر لیا ہے تو میں ان کے کام میں دخل
 نہیں دوں گا۔ بلکہ ساحلی مقامات کی طرف نکل چاؤں گا۔ اور انہیں فتح کر کے عمرؓ بن العاص سے
 جا ملوں گا۔ لیکن اگر وہ ہتھیار چھوڑ دینے میں مصروف ہوئے تو ان کے ساتھ مل کر جہاد میں حصہ لوں گا۔"
 حضرت عمرؓ نے یہ سن کر ان کے لئے دعا فرمائی اور انہیں امدادی فوج کا سردار بنا کر مصر
 روانہ کر دیا۔ جن شمس ہیں وہ حضرت عمرؓ بن العاص سے مل گئے۔

ذیل میں عم حضرت زبیرؓ بن العوام کا مختصر سا حال درج کرتے ہیں جس سے معلوم ہو گا کہ
 اسلام میں ان کا کیا مرتبہ تھا اور ان کی کن خوبیوں کے باعث حضرت عمرؓ نے انہیں اس اہم کام
 پر بھیجے جانے والی فوج کی قیادت کے لئے منتخب کیا؟

حضرت زبیرؓ ان دس آدمیوں میں سے تھے۔ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت
 کی خوشخبری دی تھی۔ آپ ان چھ آدمیوں کی کیسی میں بھی شامل تھے جسے حضرت عمرؓ نے اپنے بعد
 خلیفہ کا انتخاب کرنے کیلئے مقرر کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا نمبر یا پورا ہے آپ کی
 والدہ سفیہ بنت عبدالمطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بہن تھیں اور حضرت خدیجہؓ زوجہ

رقیہ حاشیہ صفحہ (عبداللہ بن عمرؓ - سعد بن ابی وقاص (ان کے بارے میں اختلاف ہے) خالد بن
 حذافہ - قیس بن ابی العاص السہمی - مقداد بن اسود - عبداللہ بن سعد بن ابی سرح - تابع بن عبد قیس الغہری
 ابرار بن سہل - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - ابن عبیدہ - شریح بن حسنہ کے دو لڑکے عبدالرحمن
 اور ربیعہ - وردان مولى عمرو - عبادہ بن صامت - محمد بن مسلمہ - ابو ایوب خالد بن یزید ابوالدرداء غفیری
 بن عامر -

ابوالمحاسن نے "النجوم الجاہلیہ فی ملک مصر والقاہرہ" میں مذکورہ بالا ناموں کے علاوہ بعض اور
 نام بھی لکھے ہیں۔

رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی پھوپھی تھیں۔ کیونکہ وہ آپ کے والد عوام بن خویلد کی بہن تھیں آپ کا شمار اسلام قبل کرنے والے ابتدائی لوگوں (السا بقون الاولون) میں ہوتا ہے۔ اسلام لانے کے وقت آپ کی عمر پندرہ سال تھی۔ اسلام کی راہ میں آپ نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں آپ کو چچا آپ کو چٹائی میں پیٹ دینا تھا اور اسی حالت میں آپ کی ناک میں دھواں دیتا تھا۔ اس کی غرض یہ تھی کہ آپ ان مظالم کی تاب نہ لا کر اسلام سے برگشتہ ہو جائیں لیکن آپ کے پائے ثبات میں مطلق لغزش نہ آئی اور آپ آپ نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں اسلام لانے کے بعد کفر اختیار نہیں کر سکتا۔

جب کفار کے مظالم نے شدت اختیار کی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے مطابق حبشہ ہجرت کر گئے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ مدینہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور مسلمہ بن سلام کے درمیان مواخاۃ کرا دی۔ آپ نے تمام غزوات رسول میں شرکت کی اور کسی بھی غزوہ میں پیچھے نہیں رہے۔ جنگ احد میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کفار اور بنو قریظہ کی خبر لانے کے لئے کون شخص اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اس پر حضرت زبیرؓ نے آپ کو پیش کیا۔ تیسری مرتبہ پوچھا تب بھی حضرت زبیرؓ ہی کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

زبیرؓ ہی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیرؓ بن عوام ہیں

فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاجرین کے تین دستے بنائے اور ایک دستہ کا علم حضرت زبیرؓ کو مرحمت فرمایا۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک وسیع قطعہ زمین اور کھجوروں کا ایک باغ جو قبل انہیں بنو نصیر کی ملکیت تھا، مرحمت فرما دیا تھا۔ آپ نے انہیں ریشم مینے کی اجازت بھی دی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ بھی ان سے اسی طرح محبت کرتے اور لطف و کرم سے پیش آتے تھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے اور لطف و کرم سے پیش آتے تھے حضرت ابو بکرؓ نے انہیں جوف میں اور حضرت عمرؓ نے عقیق میں قطعہات مرحمت فرمائے تھے۔

حضرت زبیرؓ نے فتوحات مصر میں نمایاں حصہ لیا۔ حضرت عثمانؓ کے عہد میں جب باغیوں نے خلیفہ کے خلاف شورش برپا کی تو حضرت زبیرؓ نے اس میں مطلق حصہ نہیں لیا۔ البتہ جب خلافت حضرت علیؓ کے پاس آئی تو آپ ان کے خلاف نکل کھڑے ہوئے۔ لیکن جب حضرت علیؓ نے جنگ

صغیر کے موقع پر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد دلایا کہ "ایک دن تم اس سے (مٹی سے) لڑو گے۔ در انحالیکہ تم ظالم ہو گے" تو انہوں نے فوراً جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور واپس مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں عمر دین جو روز نے انہیں شہید کر ڈالا۔

جنگی تیاری اردی تعداد کے لحاظ سے مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھے۔ مصر کے دیگر قلعوں میں متین فوجوں کے علاوہ جو فوجیں مسلمانوں کے مقابل پر نبرد آزما تھیں ان کی تعداد بیس ہزار سے کسی طرح کم نہ تھی اس طرح عدوی تفوق بہر حال رومیوں کو حاصل تھا۔ لیکن معنوی روج جو فتح و نصرت کے لئے سب سے ضروری ہے ان میں بالکل مغتور تھی۔ اس لحاظ سے عرب ان پر ہر طرح فائق تھے خود اہل مصر کو بھی اس امر کا اعتراف تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ گفتگو کے دوران میں ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو کہا :-

"مجھے ان عربوں پر تعجب آتا ہے کہ تہی دست اور بے سرو سامان ہونے کی حالت میں یہاں پہنچ گئے ہیں اور عزم ہے کہ رومیوں کی افواج قاہرہ سے ٹکر لیں گے" دوسرے نے جواب دیا۔
 "جب یہ لوگ کسی ملک کو فتح کرنے کا ارادہ کریتے ہیں تو راہ کی مشکلات کو قطعاً خاطر میں نہیں لاتے اور اس وقت تک بس نہیں کرتے جب تک اپنے مقصد میں پورے طور پر کامیاب ہو کر اس ملک کو اپنے زیر نگیں نہ لے آئیں۔"

اس کے بالمقابل اگرچہ رومیوں کو عدوی تفوق حاصل تھا لیکن ان میں مسلمانوں کے مقابلے کی طاقت نہ تھی۔ اور وہ بر ملا کہتے تھے۔

"ہم اس قوم کے مقابلے میں کیا تدابیر اختیار کریں جو کسریٰ پر غاب آگئی اور شام میں قیصر کے اقتدار کو بیخ دین سے اکھاڑ پھینکا؟"

اس امر میں کوئی شخص بھی ہم سے اختلاف نہیں کرے گا کہ عربوں کی معنوی روج رومیوں کی معنوی روج سے ہر لحاظ سے فائق تھی۔ اس معنوی روج کے پیدا کرنے میں سب سے بڑا حصہ اسلام کا تھا۔ اسلام نہ صرف ان کی جنگی روج کو تروتازہ رکھتا تھا بلکہ انہیں ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی کی بشارت بھی دیتا تھا۔ یہ کامیابی مومنوں کو دو طریق سے ملتی تھی میدان جنگ میں اپنی جان

قربان کرنے والوں کو جنت کی صورت میں اور غازیان صف شکن کو فتح و نصرت کی صورت میں حضرت عمرؓ بن العاص اپنے ساتھیوں کی جنگی روح کو ترقی دیکھتے اور ان میں توت و طاقت اور صبر و استقلال پیدا کرنے کیلئے برابر ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتے رہتے تھے اور خدا تعالیٰ کے ان وعدوں کو بار بار ان کے سامنے پیش کرتے رہتے تھے جو فتح و نصرت کے متعلق اس نے مجاہدین سے کیے ہوئے تھے۔ اس طرح اسلامی لشکر کے سوشل پست ہونے کی بجائے ہمیشہ بلند رہتے تھے اور یہ امر ان کی فتوحات کے راستے میں بے حد مدد و معاون ثابت ہوتا تھا۔

دشمن کے مقابلے میں جنگی تدابیر لڑائی شروع ہونے سے پہلے حضرت عمرؓ بن العاص نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے جنگی تدابیر کے متعلق مشورہ کیا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ دشمن پر از خود حاوا بولنے سے پرہیز کیا جائے بلکہ اسے موقع دیا جائے کہ وہ قلعہ باطلون سے نکل کر کھلے میدان میں ان کے مقابلے میں صف آرا ہو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن کو اپنے مستقر سے دوری کی بنا پر قلعے کی تدریجی حفاظت میسر نہ ہوگی اور وہ آگے طور پر مسلمانوں کے رحم و کرم پر ہوگا۔

دو دنوں کا مشورہ ہو گیا۔ رومی سرداروں کا یہ خیال تھا کہ اتنے لمبے عرصے تک قلعہ بند رہنے سے اہل مصر انہیں بزدل اور کمزور سمجھنے لگے ہیں اور ان دلوں میں مسلمانوں سے مل جانے اور ان کی مدد کرنے کے جذبات پیدا ہونے لگے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے میدان میں نکل کر عربوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا اور حلیو پولیس کی طرف بڑھے کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں۔ سوار دستوں کی قیادت انہوں نے تھیوڈوسیوس اور انٹاسیوس کے سپرد کی۔

حضرت عمرؓ بن العاص کو جب رومیوں کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے ان کے مقابلے کے لئے مندرجہ ذیل تدابیر اختیار کیں۔

رو، پانچ سو آدمی سات کی تاریکی میں پہاڑ کے عقبی حصے کی طرف بھاڑیے اور انہیں ہدایت کی کہ وہ قلعہ اجمل کے قریب بنوائل کے غاروں میں جا کر چھپ جائیں۔

جب، پانچ سو آدمیوں کا ایک دوسرا دستہ خارجہ بن حذافہ کی سرکردگی میں صبح سے کچھ پہلے تم دین لے کر طرف روانہ کیا۔

۱۹۵) بقیہ فوج کو لے کر حضرت عمرو بن العاص عین شمس سے چھے اور اس جگہ پہنچے جسے آج کل "عباسیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہاں ٹھہر کر وہ قلعہ بابلین سے آنے والی رومی فوج کا انتظار کرنے لگے۔

آغاز جنگ اور رومیوں کی شکست | پو پھٹنے پر رومی بھی اپنے قلعے سے نکلے اور ان باغوں اور مکانوں سے گزرتے ہوئے جو قلعے کے شمال مشرقی جانب واقع تھے۔ میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ دونوں فوجوں کی مڈ بھڑ عباسیہ پر ہوتی گھمسان کا دن پڑا اور ہر فریق نے موت سے بالکل بے پڑا ہو کر دوسرے فریق سے لڑنا شروع کیا۔ جب لڑائی نے شدت اختیار کی تو بنو داہل کے فارسل میں چھپا ہوا دستہ نمودار ہوا اور آمدی کی طرح رومیوں کے عقب پر ٹوٹ پڑا۔ رومی اس آفت ناگہانی کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ ان کے دل پر خوف و ہراس طاری ہو گیا صفوں میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ اور وہ ام دینین کی طرف پسپا ہونے لگے۔ اسی اشارے میں خارجہ بن حذافہ کا دستہ بھی اپنی کمپن گاہ سے نکلا اور رومیوں کی صفوں میں گھس کر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ رومی سمجھے کہ عربوں کے تین لشکر تین مختلف سمتوں سے ان پر حملہ آور ہوئے ہیں اور اب مقاومت کی کوئی صورت نہیں ہے وہ سخت گھبرا گئے اور ان کا سارا فوجی نظام درہم برہم ہو گیا۔ مفرورین کا ایک گروہ قلعے تک پہنچ گیا اور اس میں جا چھپا باقی لوگ زمین مصر کی طرف بھاگ گئے اور مختلف علاقوں میں پہنچ کر پناہ لی۔

جنگ کے بعد پیش آنے والے واقعات | اس معرکہ کے بعد جو واقعات پیش آئے ان کی مختصر کیفیت حسب ذیل ہے۔

- ۱۔ حضرت عمرو بن العاص نے اپنے لشکر کو اس جگہ ٹھہرایا جہاں بعد میں شہر "سقاط" آباد ہوا۔
- ۲۔ عرب قلعہ ام دینین پر دوبارہ قابض ہو گئے۔
- ۳۔ بیشتر رومی جنہوں نے قلعہ بابلین میں پناہ لی ہوئی تھی۔ قلعہ کو چھوڑ کر دریا کے راستے نقیوس چلے گئے۔
- ۴۔ قلعہ بابلین دریا کے کنارے واقع تھا عربوں نے آگے بڑھ کر دریا کے بالائی اور زریں حصوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح قلعہ بابلین عربوں کے گھیرے میں آ گیا۔
- ۵۔ جب عربوں کی کامیابیوں کی خبریں فیوم پہنچیں تو وہاں کا حاکم رومنیٹا نوس نقیوس بھاگ گیا

یہ خبر سن کر حضرت عمر بن العاص نے ایک دستہ کو روانہ کیا جس نے دریائے نیل کو عبور کر کے فیوم اور ابریط کو فتح کر لیا اور فیوم کا پورا صوبہ اسلامی حکومت کے زیر نگیں آ گیا۔

۶۔ حضرت عمر بن العاص نے کچھ سپاہ جنوبی ڈیٹا کی طرف روانہ کی جس نے صوبہ منوفیہ کے مد شہر مل اٹریب اور منوف پر قبضہ کر لیا۔

۷۔ اکثر رومی سفارتوں کی پے در پے کامیابیوں کو دیکھ کر اسکندریہ کی جانب بھاگ گئے۔

حنا نقیوسی ان حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے :-

عمر بن العاص نے حکم دیا کہ رومی حکام کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر ان کے سامنے سامنے پیش کیا جائے۔ انہوں نے لوگوں پر دنگا ٹھیس لگا دیا اور اسلامی فوج کی تمام مزوریات کا بار بھی مغرب مصریوں پر ڈال دیا۔ غرضیکہ انہوں نے ظلم و ستم کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے یہ سختی محض اس وجہ سے تھی کہ اہل مصر کی تاب ستاومت بالکل ختم ہو جائے اور وہ دل و جان سے ان کی اطاعت قبول کر کے اسلامی سلطنت کا اقتدار مصر پر تسلیم کر لیں اور کسی بغاوت اور شورش کی جرأت نہ کر سکیں۔

۸۔ منافقوسی نہایت متعصب عیسائی مورخ ہے اور اس نے سفارتوں کی فتوحات مصر اور ان کے عہد حکومت کو نہایت بھیاںک صورت میں پیش کیا ہے۔ قبل ازین بیان کیا جا چکا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت عمر بن العاص کو قبیلوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی حد درجہ تاکید کی تھی حضرت عمر بن العاص قبیل منافقوسی مصریوں پر ظلم و ستم ڈھا کر غنیمت کی سزا سے کچھ بڑھا سکتے تھے؟

حضرت عمر بن العاص بھی نہایت ذریک انہاں تھے وہ مصریوں پر ظلم و ستم ڈھا کر اور ان پر دنگا جزیہ عائد کر کے انہیں اپنا مخالف کیسے بنا سکتے تھے جبکہ ابھی پورا مصر ان کے قبضے میں آیا ہی نہ تھا۔ جس کے واقعات میں ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن العاص نے مصر پر نہایت ذہی اور عمل دانہ صاف سے حکومت کی۔ دربار خلافت کے تقاضے کے باوجود وہ مصریوں سے نفس کشی سے پہلے لگان لینے کے لئے تیار نہ تھے۔ ان کے عہد حکومت میں ان کے خلاف ایک بار بھی شورش برپا نہیں ہوئی یہ تمام واقعات اس امر کا ثبوت ہیں کہ حضرت عمر بن العاص نے مصریوں پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی۔ اور ان پر ظلم و ستم ڈھانے کے بارے میں منافقوسی اور اسی قبیل کے دوسرے مورخین کی روایات بالکل من گھڑت ہیں۔

ابتدائی جنگوں سے اخذ کردہ بعض اہم امور سا ان جنگوں سے جو حضرت عمرؓ بن العاص کو مصر میں داخل ہونے کے بعد سے لے کر فتح ہلیوپولس تک پیش آئیں۔ اس عظیم الشان اسلامی سپہ سالار کی جنگی مہارت، قیادت کی صلاحیتوں، جنگی تیاریوں، فوج کی ترتیب، اپنی فوج کو کامیابی و کامرانی سے ہم کنار کرنے اور دشمن کو ناکام و نامراد بنانے کی تدابیر کا واضح نقشہ ہمارے سامنے آجاتا ہے۔

دشمن کے مقابلے میں حضرت عمرؓ بن العاص کی تدابیر ان ابتدائی معرکوں میں حضرت عمرؓ بن العاص نے فتح و نصرت حاصل کرنے کے لئے جن تدابیر سے کام لیا، اسلام کی عسکری تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے ان کا مختصر سا حل ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

۱۔ فوجوں کی فراہمی | حضرت عمرؓ بن العاص ان جنگوں میں اس امر کا خاص طور پر اہتمام رکھتے تھے کہ دشمن کے مقابلے میں جس حد تک ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ فوج لائی جائے۔ انہیں اچھی طرح پتہ تھا کہ ان کا دشمن طاقت و قوت اور تعداد میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ چکا ہے۔ لہذا وہ غلیہ کی خدمت میں برابر امداد کے لئے لکھتے رہتے تھے تاکہ دشمن کا مقابلہ آسانی سے کیا جاسکے اور اس پر کاہلی ضرب لگائی جاسکے۔ خلیفۃ المسلمین کو بھی اس امر کا بخوبی احساس تھا اسی لئے جب انہوں نے حضرت عمرؓ بن العاص کو ایک خط کے ذریعے مصر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی تو ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ میں برابر تمہاری امداد کرتا رہوں گا۔

مصرائے سینا کی حدود پر جو بدترتیب تھے انہوں نے جنگ اور غنیمت کے لالچ میں حضرت عمرؓ بن العاص کے ساتھ مل کر جنگوں میں حصہ لینے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عمرؓ بن العاص نے بڑی خوشی سے انہیں اپنے ساتھ لایا۔ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دشمن کا زیادہ سے زیادہ فوج کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔

حضرت عمرؓ بن العاص نے ام دین کا محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا تو دیگر بنیادی تدابیر اختیار کرنے کے علاوہ انہوں نے امیر المؤمنین کو جلد از جلد مزید فوج بھیجنے کے لئے لکھا۔ چنانچہ محاصرے کے دوران میں جب یہ بدترتیبی تو سر جہل کے دل خوشی کے مارے بلیوں اچھلنے لگے۔ ان کے مقابل جب رومیوں کو دس لاکھ کے پہنچنے کی خبر ملی تو ان پر یاس و نوامیدی چھا گئی، اس سے پہلے وہ وقتاً فوقتاً قلعے سے باہر نکل کر حضرت عمرؓ بن العاص کی فوجوں پر حملہ کرتے تھے۔ لیکن اس لاکھ کے پہنچنے کے بعد انہوں نے باہر نکلنا بہت کم کر دیا۔ ان کی پڑھ روٹی اور بددلی کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ انہیں بھی لاکھ پہنچنے کی امید تھی لیکن حضرت عمرؓ بن العاص نے ناستہ بالکل بند کر دیا جس کی وجہ سے ان کی یہ آخری امید بھی جاتی رہی

باہیرون میں میثم رومی فوجیں اسلحہ اسلحہ اور تعداد کے لحاظ سے سمانوں سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر تھیں۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ حضرت عمرؓ بن العاص نے قلعہ باہیرون پر حملہ کرنے کی بجائے قلعہ

کارخ کیا دراصل وہ چاہتے تھے کہ انہیں اتنی ہمت مل جائے کہ دارالخلافہ سے امدادی فوجیں آجائیں ابھی فیرم کے صوبے میں ان کے چھاپے جا رہی ہی تھے۔ کہ ملک کے پہنچنے کی خبر مل گئی۔ جس پر وہ فوراً پلٹے اور تیزی سے سفر کرتے ہوئے اس امدادی فوج سے مل گئے۔ حلیہ پرپس پہنچ کر انہوں نے دشمن سے مقابلے کے لئے تیاری شروع کر دی۔ کیونکہ اب قلت تعداد کی بنا پر شکست کھانے کا خوف باقی نہ رہا تھا۔

ہر شخص کو معلوم ہے کہ حضرت عمرؓ بن العاص ساڑھے تین ہزار فوج ہمراہ لے کر مصر روانہ ہوئے تھے لیکن جنگ حلیہ پرپس میں انہوں نے پندرہ ہزار کے لشکر کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ تعداد کی اس زیادتی سے پتا چلتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین اور اسلامی سپہ سالار کو فوجوں کی زیادہ سے زیادہ فراہمی کا کس قدر فکر رہتا تھا۔

۲۔ محاصرہ مصر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت عمرؓ بن العاص نے انصرہ کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ ایک یا دو ماہ جاری رہا۔ تا آنکہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد دکن کا محاصرہ کیا اور ہر قسم کی رسد شہر میں جانی بند کر دی نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی روز بعد یہ شہر بھی عمرؓ بن العاص کے ہاتھ آ گیا۔

صوبہ فیرم پر لشکر کشی کے دوران میں حضرت عمرؓ بن العاص کو معلوم ہوا کہ حاکم لشکران کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لئے ان کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے حضرت عمرؓ بن العاص نے یہ معلوم ہوتے ہی اپنے لشکر کو حاکم کے لشکر سے پرے ہٹایا۔ پھر کیم آگے بڑھ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ اور ایک آدمی کو بھی زندہ نہ رکھ کر نہ جانے دیا۔

مذکورہ بالا تین موقعوں پر حضرت عمرؓ بن العاص دشمن کے مقابلے کے لئے محاصرے کو کام میں لائے۔ انہوں نے محاصرین اور روٹی فوج کی قیادت کا بھی ربط بالکل ختم کر دیا کسی قسم کی بیرونی امداد ان تک نہ پہنچنے دی اور کھانے پینے کی چیزوں کا باہر سے قلعہ کے اندر پہنچنے کا سلسلہ بالکل منقطع کر دیا۔

اس طرح محاصرے کو انہوں نے دشمن پر ضرب کاری لگانے اور اس کی قوت و طاقت کو جلد از جلد ختم کرنے کا ایک عمدہ وسیلہ بنایا۔ جنگوں کے حالات و واقعات کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جس جگہ محاصرہ کیا گیا وہاں دشمن کو دوسری جگہوں کی نسبت بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔

۳۔ دشمن کی سر زمین سے واقفیت زیادہ جاہلیت میں حضرت عمرؓ بن العاص کے مصراے اور

دہاں کے حالات سے گہری واقفیت رکھنے کے باعث انہیں اس سرزمین کی فتح میں بہت آسانی ہوئی۔

اپنی جوانی کے زمانے میں مصر آنے کا بہت بڑا فائدہ حضرت عمرؓ بن العاص کو یہ پہنچا کہ انہیں اس راستے سے کامل واقفیت ہو گئی جس سے وہ بعد میں اپنی فوج کو لے کر مصر میں داخل ہوئے کیونکہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ مصر پر فوج کشی کے وقت حضرت عمرؓ بن العاص نے جو راستہ اختیار کیا وہ وہی تھا جس پر اس سے پہلے وہ شام کے ساتھ گزر کر اسکندریہ پہنچے تھے۔ انہوں نے ایتھارہ میں اس راستے کے نشیب و فراز کا گہری نظر سے جائزہ لے لیا تھا۔ جس نے بعد میں انہیں بہت فائدہ پہنچایا۔

ام دُنین کے محاصرے کے دوران میں ان کی دُور بین نظروں نے قلعہ کے اندرونی ادرہ پر دہنی حالات کا مکمل جائزہ لے لیا۔ جب انہیں تمام حالات کا بخوبی علم ہو گیا۔ تو انہوں نے قلعہ پر چڑھنے میں دیر نہ کی۔ اور اپنے لشکر کو پوری قوت سے شہر پر دھاوا برکنے کا حکم دیا نتیجہ یہ ہوا کہ قلعہ تھوڑی دیر میں مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔

قلعہ ام دُنین پر مسلمانوں کے تسلط کے بعد رسمی فوجیں دہاں سے بھاگ کر قلعہ بابلویوں میں جمع ہو گئیں حضرت عمرؓ بن العاص کو دہاں کے حالات کا بھی علم حاصل کرنے کی دُور بینی انہوں نے اس غرض کے لئے اپنے جاسوس روانہ کیے جنہوں نے آ کر بتایا کہ قلعے میں مدیسل کا کثیر لشکر جمع ہے۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں اور اسلحہ کی مطلق کمی نہیں باور دہ طویل عرصے تک مسلمانوں کے محاصرے کا بخوبی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی فوجیں نہیں ہیں جو قلعہ کا محاصرہ کرنے کیلئے کافی ہو سکیں۔

حضرت عمرؓ بن العاص کی نظر میں یہ معلومات بے حد قیمتی تھیں لہذا انہوں نے بابلویوں کے محاصرے کا خیال چھوڑ کر فیوم کے علاقے کا قصد کیا تاکہ جب تک دارا لختانی سے امدادی فوجیں نہ آجائیں اپنی فوجوں کو اس طرف مصروف نہ رکھا جاسکے۔

اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ حضرت عمرؓ بن العاص تک جو معلومات پہنچی تھیں ان سے یہ امر واضح ہو گیا تھا کہ ان کا اور ان کی فوجوں کا قلعہ بابلویوں کے قریب رہنا خطے سے خالی نہیں لہذا انہوں نے معلومت اسی میں سمجھی کہ اپنی فوجوں کو خطے کے مقامات سے دور لے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے دہانے نیل کو عبور کیا اور اپنی فوجوں کے ہمراہ اہرام سے گزرتے ہوئے فیوم چلے گئے

حضرت عمرو بن العاص کا جاسوسی کا انتظام اتنا عمدہ تھا کہ فیوم جاتے ہوئے انہیں راستے ہی میں معلوم ہو گیا کہ حنا ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لئے سائے کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اس پر انہوں نے فوراً پیش بندیاں شروع کر دیں اور حنا سے نجات حاصل کرنے کے لئے تمام تیاریاں سرعت تمام مکمل کر لی۔ کیونکہ انہیں علم تھا کہ اگر حنا ان کی فوج کے بعض رازہ حاصل کرنے اور ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لے کر انہیں ردیوں تکسب نچوسنے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ چیز ان کے لئے اتہانی خطرناک ثابت ہوگی اور مصر کو فتح کر کے اسے اسلامی سلطنت کا ایک جزو بنانے کا جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ کبھی مشر مندہ عمل نہ ہو سکے گا۔

۴۔ ناگہانی حملہ | ناگہانی حملے سے مراد یہ ہے کہ دشمن پر قطعاً بے خبری میں حملہ کر کے اس کی صفوں میں انتشار اور اس کی تیاریوں میں رکاوٹ پیدا کر دی جائے اور اسے ایسے شخصے میں گرفتار کر دیا جائے جس سے نکلنے کی کوئی تمکیر اس کی سمجھ میں نہ آسکے۔

اچانک حملہ کی بدولت دشمن کی تیاریاں درہم برہم ہو جاتی ہیں۔ لشکر کے لوگ ہمت ہار دیتے ہیں اور انہیں چاروں طرف ہتھیار ڈالنے ہی پڑتے ہیں اس کے مقابلہ حملہ کرنے والے فریق کو بے اندازہ نائدہ پہنچتا ہے۔ دشمن کو ہسپا کر کے اس کے لشکر کے لوگوں کے دل بڑھ جاتے ہیں اور وہ نئے نئے عزم اور حصے کے ساتھ دشمن پر مزید حملوں کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

حضرت عمرو بن العاص نے صوبہ فیوم میں اچانک حملوں کے ذریعے اپنا مقصد بہت عمدگی سے حاصل کر لیا۔ انہوں نے اس اقدام سے تمام علاقہ میں خوف دہرا اس کی ایک لہر دہرائی اور ردی فوجوں کی ہمتیں بالکل پست کر دیں۔

اچانک حملے کے نتیجے ہی میں حنا کی فوج کو مکمل تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب حضرت عمرو بن العاص کو پتہ چلا کہ وہ خفیہ طور پر سان کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنی فوج کو حنا کی فوج سے دور ہٹ جانے کا حکم دیا۔ حنا بے فکر تھا کہ عمرو بن العاص کی فوج اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ لیکن اسی اثنا میں عمرو بن العاص اپنی فوج کو لے کر کیدم پٹے اور بے تبری کی حالت میں اس کی فوج پر حملہ کر کے اس کا نیا پانچا کر دیا۔

معرکہ حلیو پولیس میں بھی انہی اچانک حملوں کی بدولت حضرت عمرو بن العاص نے غایاں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے لڑائی سے قبل اپنا ایک دستہ پہاڑ کی گھاٹی میں اور دوسرا ام وٹین کی مکین گاہوں میں چھپا دیا اور انہیں ہدایت کر دی کہ وہ اس وقت تک مکین گاہوں سے باہر نہ نکلیں جب تک

جنگ شدت اختیار کر کے اور کافروں کے مقابلے میں رومیوں کے حوصلے پست نہ ہونے لگیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب طوق میں شدت پیدا ہوئی اور رومیوں کی صفوں میں ضعف کے آثار نمودار ہونے لگے تو حضرت عمرؤبن العاص کے چچے ہوتے دستوں نے کہیں گاہروں سے نکل کر اچانک رومیوں کے صف پر چھو کر دیا۔ رومی اس اچانک حملے سے سخت بدحواس ہو گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ مسلمانوں کو کہیں سے ملک پہنچ گئی ہے اور اب ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ چنانچہ ان کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا اور انہوں نے ڈٹ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے فرار ہونے کو ترجیح دی۔ بیشتر لوگ جان بچا نیدین مصر کی طرف بھاگ گئے۔ بقیہ لوگوں نے قعر بالہین میں پناہ لی۔

۵۔ لڑائی میں پہلے اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کو حملے کا موقع دینے بغیر آگے بڑھ کر خود اس پر حملہ کر دیا جاتے تاکہ اس کی طاقت پیہے ہی تپے میں ضائع ہو جائے اور وہ پٹ کر چل کر نہ رہے۔

الفرما۔ بیس، ام دینین اور ہلبہ پور میں سب جگہوں کے لیے پہلے حضرت عمرؤبن العاص نے کی اس طریقے سے وہ ابتداء ہی میں میدان جنگ پر چھا جاتے تھے اور جنگ کو اپنے حسب مرضی جس جانب چاہتے موڑ دیتے تھے۔ اسی لئے انہیں ہر میدان میں کامیابی نصیب ہوتی تھی۔

حضرت عمرؤبن العاص نے جنگ میں کبھی دفاعی پہلو اختیار نہیں کیا و ناعی پہلو کرنے والا ہمیشہ اپنے بچاؤ کی فکر میں ہوتا ہے اسے دشمن پر کسی ضرب لگانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ذوق مخالف کے جارحانہ اور ناہنوز حملوں کی تاب نہ لا کر دفاعی صلاحیت بھی کھو بیٹھا ہے اور شکست کھا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمرؤبن العاص نے ہمیشہ اپنے آپ کو دفاعی پہلو اختیار کرنے سے پہلے رکھا۔ فرم کے صوبے میں ان کے جارحانہ حملوں نے سارے صوبے میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ رہی تھی اور رومیوں کی نیندیں اس خوف سے حرام ہو گئی تھیں کہ نہ معلوم عمرؤبن العاص کا لشکر کب ان پر آپڑے۔ اور انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔

۶۔ نقل و حرکت میں پھرتی حضرت عمرؤبن العاص نے دوران جنگ میں جن امور کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھا ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ سفر کو حتی الامکان نہایت تیزی سے طے کیا جائے۔ غصیلین سے اعریش تک اور وہاں سے الفرما تک کا راستہ بے حد طویل ہے لیکن حضرت عمرؤبن العاص نے اسے جس قدر تیزی کے ساتھ طے کیا اس سے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔

جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ ام دینین میں ان کا لشکر بے خطر سے سے خالی نہیں تھا انہوں نے اپنے لشکر

کے ہمراہ دریائے نیل کو عبور کیا اور صحرا کو قطع کرتے ہوئے بڑی تیزی سے فیوم کے علاقے میں داخل ہو گئے ام ڈیبن سے فیوم تک حضرت عمرؓ بن العاص کی نقل و حرکت جس پھرتی اور تیزی سے ہوئی اسے دیکھ کر رومی انگشت بدنداں رہ گئے۔ انہیں یہ گمان بھی نہ ہو سکتا تھا کہ عمرؓ بن العاص ام ڈیبن کو چھوڑ کر فیوم چلے جائیں گے۔ جب حضرت عمرؓ بن العاص کا وہ مقصد جس کی خاطر سے وہ فیوم گئے تھے پہلا ہو گیا۔ اور انہیں یہ خبر ملی کہ ان کی امداد کے لئے فوجیں مصر پہنچ گئی ہیں تو وہ اسی تیزی سے ام ڈیبن کی طرف چلے جس تیزی سے وہ فیوم پہنچے تھے تاکہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے وہ امدادی فوج سے جا کر مل جائیں۔ اگرچہ امدادی فوج تک پہنچنے کے لئے انہیں دریائے نیل عبور کر پڑنا تھا۔ اور دریائے نیل کے کنارے قطعہ بابلیون میں رومیوں کا لشکر تیار موجود تھا جو آسانی ان کا راستہ روک سکتا تھا لیکن یہ عمرؓ بن العاص کی تیز روی ہی کا ثمرہ تھا کہ رومی یہ سوچتے ہی رہ گئے کہ عمرؓ بن العاص کا راستہ کس طرح روکیں اسی اشارہ میں مصر کا یہ عظیم الشان فاتح اپنا لشکر لے کر دریائے نیل کے پار پہنچ چکا تھا۔

۷۔ فوجوں کی سلامتی کا خیال | حضرت عمرؓ بن العاص دوران جنگ میں اپنی فوجوں کی سلامتی اور حفاظت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اور انہیں جان بوجھ کر کبھی ایسے مقامات پر نہ بھیجتے تھے۔ جہاں ہلاکت اور بربادی کا اندیشہ ہو۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ ان کی فوج ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ رہے اور اس مقصد اور خواہش کے حصول کے لئے وہ ہر ممکن طریقے استعمال کرتے تھے۔

الفرما پر قبضے کے بعد انہیں اس راستے کی اہمیت کا اندازہ ہوا جو العرش اور الفرما کو ملاتا تھا اور جس پر سے گزر کر وہ الفرما تک پہنچے تھے۔ اگر خدا نخواستہ اس راستے پر رومی دوبارہ قبضہ کر لیتے تو شکست کی صورت میں اسلامی فوجوں کی مصر سے واپسی کا راستہ قطعی مسدود ہو جاتا اور انہیں صحرا سے مصر ہی میں اپنی جانیں بھروسے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہتا۔ اس راستے پر رومیوں کے دوبارہ قبضے کی موجودگی میں دوبارہ خلافت سے کسی قسم کی ملک کے پہنچنے کا امکان بھی نہ رہتا اور یہ امر بھی مصر میں قائم اسلامی فوجوں کے لئے سخت خوات کا موجب تھا۔ کیونکہ ملک پہنچنے کی صورت میں ان کی قوت مدافعت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی۔

ان تمام امور پر غور کرتے کے بعد حضرت عمرؓ بن العاص اس نتیجے پر پہنچے کہ قطعہ الفرما کی فیصلوں اور عمارتوں کو بالکل منہدم کر دیا جائے تاکہ دوبارہ قبضے کی صورت میں رومی اس قطعے سے کسی طرح کا فائدہ حاصل نہ کر سکیں اور ان کے لئے قطعے پر قبضہ کرنا بالکل بے کار ثابت ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے ان کشتیوں کو بھی نذر آتش کرنے کا حکم دے دیا جو الفرما کی قریبی بندرگاہ میں ٹکرا نڈا نہ تھیں۔ اس کاروائی

کا مقصد بھی یہی تھا کہ دشمن ان کشتیوں کو کسی طرح بھی مسلمانوں کے مقابلے میں استعمال نہ کر سکے۔ خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ ہنزہ عربوں کو بحری جنگوں کا مطلق تجربہ نہ تھا اور وہ جنگوں کے دوران میں کشتیوں اور جہازوں سے کام لینے اور انہیں جنگی مقاصد کے لئے استعمال کرنے کے فن سے بالکل ناواقف تھے۔ اس صورت میں مناسب طریقہ وہی تھا۔ جو حضرت عمرؓ بن العاص نے اختیار کیا۔ یعنی انہیں آگ لگانے کا حکم دے دیا۔ تاکہ اگر عرب اپنی ناواقفیت کی وجہ سے کشتیوں کو کا حقہ استعمال کرنے سے قاصر رہیں تو رومیوں کو بھی ان سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانے نہ دیا جائے۔

حضرت عمرؓ بن العاص نے ان لوگوں سے جو مقوقس کی جانب سے صلح کا پیغام لے کر آئے تھے کہا تھا:-

”مجھے دھوکا دینے کی کوشش مت کرنا کیونکہ مجھ جیسے آدمی کو دھوکا نہیں دیا جاسکتا“

رومیوں کو اس قتل کی صداقت اس وقت معلوم ہوئی جب اربطون نے بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ جرمیکل کانٹے سے پوری طرح لیس تھا۔ بلیس میں مقیم حضرت عمرؓ بن العاص کی فوج پر بے خبری کی حالت میں اچانک حملہ کیا لیکن چونکہ اسلامی سپہ سالار کو فوج کی سلامتی کا بے حد خیال تھا اس لئے وہ ہر وقت اسے چرکنا رکھتا تھا تاکہ کوئی دشمن بے خبری کی حالت میں حملہ کر کے اسے نقصان نہ پہنچا سکے یہی وجہ تھی کہ جب اربطون نے اپنی عظیم الشان فوج کے ساتھ اسلامی لشکر پر حملہ کیا تو اس نے اسے مقابلے کے لئے پوری طرح تیار پایا۔ بڑے دور کاران پڑا جس میں اربطون کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اس کے ایک ہزار آدمی مقتول ہوئے اور تین ہزار قیدی بنائے گئے۔

ام دین میں حضرت عمرؓ بن العاص نے جنگی کارروائیوں کا آغاز کرتے ہوئے فوجوں کی مختلط اور سلامتی کو خاص طور پر پیش نظر رکھا اور اس امر کے خاص طور پر انتظامات کیے کہ ان کی فوجوں کو کسی قسم کے نقصان اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

اپنے لشکر کو ام دین سے یوم لے جانے کا سب سے بڑا سبب بھی یہی تھا کہ ام دین میں تیام کرنے سے حضرت عمرؓ بن العاص کو اپنی فوجوں کے لئے سخت خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ چنانچہ اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ فوجوں کو وہاں سے ہٹا کر یوم منتقل کر دیا جائے۔

حنا کے دستے پر حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسلامی فوج ہر طرح خطرے سے محفوظ ہو جائے۔ اور جتنا مسلمانوں کا کوئی راز رومیوں تک پہنچا کر انہیں نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔

جب حضرت عمرؤبن العاص کو حضرت زبیر بن العوام کی زیر قیادت امدادی فوج کی آمد کا حال معلوم ہوا تو انہیں غمزدہ پیدا ہوا کہ کہیں رومی اس کا راستہ روکنے کی کوشش نہ کریں۔ مدد رک جانے کی صورت میں انہیں زبردست نقصان اٹھانا پڑتا اور مصر کی فتح کے جو منصوبے انہوں نے اپنے دل میں سوچ رکھے تھے ان سب پر پانی پھر جاتا اور رومی ان کی مختصر فوج کو گھیرے میں لے کر بالکل تباہ کر دیتے لہذا وہ فوراً اپنی فوج کو لے کر پلٹے اور دریائے نیل کو عبور کر کے حبشہ پر لیس ہیں امدادی فوج کے ساتھ مل گئے۔ عزم استقلال | یہ امر واضح ہے کہ حضرت عمرؤبن العاص کی فوجیں مضبوط عزم دار اور اس کی ہلک تھکیں اور ایک عجیب جوش اور دلوانے کے ساتھ میدان جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ کرتی تھیں عمرؤبن العاص ساٹھ تین ہزار فوج کے ہمراہ مصر روانہ ہوئے تھے جہاں انہیں ایک عظیم الشان فوج سے مقابلہ درپیش تھا۔ لیکن انہوں نے کسی موقع پر ذرا بھی گھبراہٹ کا اظہار نہ کیا اور ہر مرتبہ نئے عزم و دلوانے کے ساتھ دشمنی کا مقابلہ کیا تمام معرکوں میں جو انہیں دو پیش آئے ان کے دشمنوں کی تعداد ان کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود وہ تمام لڑائیوں میں کامیاب ہوئے۔ ان کی کامیابی کی اصل وجہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں یہ تھی کہ عزم و استقلال، صبر و استقامت اور جہد و جہد کے لحاظ سے ان کا پیمانہ کے دشمنوں پر بہ طرح بھاری تھا۔ اور یہی چیزیں کامیابی و کامیابی کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔ وہ خوف و خطر کو دل میں لائے اور تردد و ضعف کا اظہار کئے بغیر دشمن کا مقابلہ کرنے تھے اور ان کے دشمنوں کو یہ چیز حاصل نہ تھی۔ ایک قبیلے سے مسلمانوں کے عزم و استقلال کی تصویر پڑے جامع الفاظ میں کہنی تھی اُس سے اُس کے ساتھی نے کہا تھا۔

تجھے ان عربوں پر تعجب آتا ہے۔ ان لوگوں نے قلت تعداد کے باوجود مصر پر حملہ کیا ہے اور ان کا عزم یہ ہے کہ رومیوں کی عظیم الشان افواج سے نبرد آزما ہوں۔
اُس نے یہ سن کر جواب دیا۔

”یہ لوگ جب کسی قوم سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اُس وقت تک بس نہیں کرتے جب تک اس پر پورے طوق پر قاب نہ آجائیں اور دشمنوں کو چن چن کر قتل نہ کر دیں۔“
”آپ آگے بڑھیے آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔“

ام وین کی لڑائی کے دوران میں عمرؤبن العاص نے دیکھا کہ ان کی فوج کے بعض آدمی جنگ سے پہنچی اذیت و کرب سے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا۔

ان کلمات کا ان کی فوج پر بے حد اثر ہوا اور لشکر کا ہر شخص لڑائی میں ایک دوسرے سے گونے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔

حضرت عمر فاروق نے حضرت زبیر کو عمر بن العاص کی مدد کے لئے بھیجا چاہا۔ انہوں نے انہیں بلا کر پوچھا۔
"کیا آپ کو مصر کی حکومت کی آرزو ہے؟"

حضرت زبیر نے جواب دیا:-

"مجھے حکومت کی کوئی خواہش نہیں۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور
مسلمانوں کا معادن و مددگار بنوں۔"

کتاب الفتوحات الاسلامیہ (جلد اول صفحہ ۵۵) میں مذکور ہے کہ شہنشاہ روم نے
مقوقس کو لکھا:-

"عربوں نے بارہ ہزار کی جمعیت کے ساتھ تم پر حملہ کیا ہے۔ تمہارے پاس مصر اور اسکندریہ میں
ایک لاکھ سے زیادہ فوج ہے جو اسلحہ سے ہر طرح لیس ہے عربوں کی تعداد بھی قلیل ہے۔ اور وہ
تہی دست بھی ہیں جس کا تمہیں اچھی طرح علم ہے لہذا ان سے لڑنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرنا۔"
جب شہنشاہ روم کا یہ خط مقوقس کو ملا تو اس نے کہا:-

"خدا کی قسم! عرب اپنی قوت اور ضعف کے باوجود ہم طاقتور اور کثیر التعداد لوگوں کے مقابلے
میں زیادہ کامیاب ہیں ان کا ایک شخص ہمارے سو آدمیوں کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت ان
کی نظر میں زندگی سے زیادہ محبوب ہے وہ لوگ جب لڑائی کے لئے روانہ ہوتے ہیں تو ان میں سے
ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے پاس زندہ واپس نہ جائے۔ ان کا اعتقاد ہے کہ اگر
وہ میدان جنگ میں مارے گئے تو یہ جنت میں جائیں گے۔ لہذا ان میں سے ہر شخص جان توڑ کر
لڑتا ہے۔ لیکن ان کے بالمقابل ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور زندگی کی آسائشوں پر دل دجان سے
فریفتہ ہیں لہذا اس صدمت میں ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان کے مقابلے میں میدان جنگ میں
کس طرح صبر و استقلال کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟"

حضرت زبیر کے قتل اور مقوقس کی راستے سے اس امر کا واضح ثبوت مل جاتا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد
کا کس قدر دہشت اور اللہ اور دین اسلام کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرنے کا کس قدر جوش تھا۔
ان میں سے کس کے پیش نظر ذرا مصیبت نہ ہوئی تھی بلکہ ہر شخص دین اسلام کی سر بلندی کی خاطر لڑتا تھا اور
بڑی خوشی سے اس راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا تھا۔ کوئی موت کے خوف کو پاس بھی نہ پھلنے دیتا تھا بلکہ
شہادت اور فتح مندی کے شوق میں دشمن سے پوری جواں مردی کے ساتھ لڑتا تھا۔

مسلمانوں کے بالمقابل رومیوں پر ضعف و کمزوری۔ تردد اور خوف ہراس کا غلبہ رہتا تھا جگلی روج

کا ان میں نام و نشان تک نہ رہا تھا۔ ان کے عزائم پسادیں پڑ گئی تھی اور ان کے دل لے سرور پڑ گئے تھے ایسی صورت میں انہیں فتح مندی اور کامیابی کیسے نصیب ہو سکتی تھی کامیابی ہمیشہ صبر و استقلال جو انہری دشمنی دلیری اور بے خوفی کے باعث حاصل ہوتی ہے اور یہ نعمتیں رومیوں کو میسر نہ تھیں۔

رومیوں کے موقف پر ایک نظر اس وقت جبکہ عرب فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے اور مصر کو فتح کرنے کے لئے ہر ممکن ذرائع سے کام لے رہے تھے۔ رومی پہ درپے خطرناک غلطیوں کے مرتکب ہو رہے تھے اور ان سے ایسے افعال صادر ہو رہے تھے جو جنگی راجح سے قطعاً مناسبت نہ رکھتے تھے ان میں اتنی حماقت تھی کہ وہ عربوں کا کامیابی سے مقابلہ کر سکتے اور جنگی توازن کو اپنے حق میں برقرار رکھنے اور پہلے درپے فتوحات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ تمام حالات کلی طور پر ان کے موافق تھے۔ جنگ ان کی سر زمین پر لڑی جا رہی تھی اور وہ اپنے دشمنوں کی نسبت انہوں کے حالات سے بہت زیادہ واقف تھے۔ اس کے علاوہ وہ ہر جنگ میں عربوں کے مقابلے میں بھاری بھاری لشکر جو سامان حرب سے پوری طرح لیس ہوتے۔ رومی آرائی سے لاسکتے تھے جبکہ عربوں کو یہ آسانی مطلق میسر نہ تھی۔ ذیل میں ہم ان مٹی مٹی غلطیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو مسلمانوں سے جنگ کے دوران میں رومیوں سے صادر ہوئیں۔

۱۔ وہ غلطیاں جن کے رومی مرتکب ہوئے، جب رومیوں کو عمرؤ بن العاص کی آمد اور سرحد عبور کرنے کے الفاہ کی جانب پیش قدمی کا علم ہوا تو ان کی قیادت نے انہوں میں مقیم رومی فوج کی مددگار مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لئے کوئی لشکر نہ روانہ کیا۔ بلکہ یہ خیال کر لیا کہ انہوں میں مقیم رومی فوج مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے کافی ہے حتیٰ کہ جب شہر کا محاصرہ طویل پڑ گیا تب بھی رومی قیادت نے محصور فوج کی مددگار مسلمانوں کو شہر سے پٹانے کے لئے کوئی لشکر بھیجنے کی تکلیف گوارا نہ کی۔

۲۔ انہوں نے بلقیس تک حضرت عمرؤ بن العاص کی پیش قدمی کے دوران میں عربوں اور رومیوں کے درمیان کوئی معرکہ پیش نہیں آیا۔ اور رومیوں نے نہ صرف مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوئی کوشش نہ کی بلکہ مصر کے اندرون علاقوں میں ان کی پیش قدمی کے لئے راستہ صاف کر دیا۔ حتیٰ کہ موثر زمین بھی رومیوں کی اس عظیم الشان فرودگذاشت پر حیرت و استعجاب کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے۔

۳۔ فہم کے صوبے میں حضرت عمرؤ بن العاص نے کئی ہفتوں تک فوجی کاؤوائی جاری رکھی لیکن رومیوں نے یہ لمبا عرصہ نہ صرف بالکل ضائع کر دیا بلکہ انہیں اس دوران میں بھاری نقصانات سے دوچار بنا پڑا۔ انہوں نے اس دفعہ سے فائدہ اٹھانے کی کوئی کوشش نہ کی اگر وہ چاہتے تو حضرت عمرؤ بن العاص کی

فوجوں کے مقابلے میں اثنائی موقف اختیار کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اس کی بجائے منفی موقف اختیار کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں کو قیوم بن کثیر مال نصیحت حاصل ہوا اور انہوں نے پورے علاقے میں دہشت و اضطراب اور خوف و ہراس کی لہر دوڑادی مزید برآں مسلمانوں نے حنا کے دستے کا بھی تلخ قہقہہ کر دیا۔

ہم۔ جب حضرت زبیر بن عوام کی قیادت میں عربوں کا امدادی فوج مصر پہنچی تو مصری بڑی آسانی سے اسے عمر بن العاص کی فوج کے ساتھ ہٹنے سے روک سکتے تھے اسی طرح وہ حضرت عمر بن العاص کو دریائے نیل عبور کرنے سے بھی روک سکتے تھے لیکن انہوں نے ان موقعوں سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کی اور ہاتھ پر ہاتھ دھر سے بیٹھے رہے اسی طرح حمیو ڈور میں اتنی طاقت تھی کہ وہ یکے بعد دیگرے امدادی فوج اور عمر بن العاص کے لشکر پر حملہ کر کے ان کا قہقہہ کر دیتا۔ لیکن اس نے یہ بھی نہ کیا۔ اور حضرت عمر بن العاص کو خندہ دریائے نیل عبور کر کے حلیہ پولیس میں مقیم امدادی فوج تک پہنچنے کا موقع فراہم کر دیا۔

۵۔ حلیہ پولیس کی جنگ سے قبل رومی باہیون میں قلعہ بند تھے۔ حضرت عمر بن العاص کی کوشش یہ تھی۔ کہ رومیوں کو کھلے میدان میں نکل کر قلعہ سے دور مقابلہ کرنے پر مجبور کیا جائے۔ حضرت عمر بن العاص اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے اور رومی اپنے قلعے سے بہت دور کھلے میدان میں نکل کر مسلمانوں سے نیرو آڑنا ہوئے۔ اس طرح وہ ان فائدہ سے محروم ہو گئے۔ جو قلعہ کے قریب یا قلعہ میں رہ کر مقابلہ کرنے میں انہیں حاصل ہوتے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اسلامی فوجوں نے اس طرح ان پر تباہ توڑ حملے کیے کہ انہیں فرار ہوتے ہی بن پڑی اور وہ دوبارہ شہر میں گھس کر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔

رومیوں کو کئی ذریعے موقع ہاتھ آئے جن سے اگر وہ نائدہ حاصل کرنا چاہتے تو آسانی کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے تمام موقعوں کو گنوا دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ہر موقع پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمان ان پر غالب آتے چلے گئے۔

(۱۳)

تسخیر بابلیوں

- ”ہمارے اور تمہارے درمیان صبح و جگ کی صرف تین شرطیں ہیں“
- ۱۔ دین اسلام میں داخل ہو کر ہمارے برابر کے بھائی بن جاؤ۔ اور جملہ حقوق میں ہمارے شریک رہو۔
 - ۲۔ یہ منظور نہ ہو تو اپنی بالادستی ختم کر کے خلافت اسلامی کی حمایت اور حفاظت میں آ جاؤ۔ اس صورت میں حفاظت کا بہت قیل معاذ اللہ کر تمہیں ہر پابندی سے آزاد کر دیا جائے گا۔ بشرطیکہ حکومت کے مفاد اور رنجور۔
 - ۳۔ اگر یہ بھی نہ کرنا چاہو تو پھر عسری فیصلہ اللہ کی طرف سے جہاد کے میدان میں کر دیا جائے گا....
- (عمر دین العاص - مقوقس سے)

عام موقف | علیہ پولیس میں عرب فتح یاب ہو چکے ہیں۔

رومی سمندر کی جانب فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔

عرب اشریب اور منوف کے شاداب علاقوں کو فتح کر کے اپنی حکومت کا جلال پوری سرزمین مصر پر پھیلا چکے ہیں۔ منسرد العول پر ہر جگہ خوف و ہراس اور مسلمانوں کا رعب طاری ہے۔ اور وہ اپنا حال و متاع اور جائیداد وطن صوب کچھ چھوڑ کر اسکندریہ کی طرف سمٹتے جا رہے ہیں۔

ان حالات میں عمرو بن العاص کے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ ان شکست خوردہ فوجوں اور جماعتوں کے تعاقب میں اسکندریہ کا رخ کرے۔ لیکن اس کے راستے میں دور کا دوٹیل حاصل ہے۔ پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ اگست کا مہینہ ہے۔ موسم سخت گرم اور نامسازاگ رہے۔ دریا کے نیل میں طغیانی شروع ہو چکی ہے۔ پانی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس علاقے میں کسی قسم کی فوجی نقل و حرکت ممکن نہیں رہی۔

دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ قلعہ بابلون میں رومی افواج کی کثیر تعداد موجود ہے اور یہ پاست مصارع جنگ کے سراسر خلاف ہے کہ ایک معقول فوجی طاقت کو اپنے عقب میں چھوڑ کر اسکندریہ کا رخ کیا جائے۔

اب حضرت عمرو بن العاص کے لئے مندرجہ ذیل دو باتوں میں سے ایک کا اختیار کرنا ضروری تھا۔

- ۱۔ پہلے قلعہ بابلون کو فتح کر کے اپنے عقب کو حملہ سے محفوظ کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد اسکندریہ کا رخ کیا جائے۔

- ۲۔ یا یہ کہ اپنی طاقت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ بابلون کے لئے چھوڑ دیا جائے اور دوسرا حصہ اسکندریہ روانہ کر دیا جائے۔

لیکن ان کی فوج اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اسے دو اہم محاذوں پر تقسیم کیا جاسکتا۔ پھر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رومی افواج اپنی کثرت تعداد کے باوجود اس غیرت و محنت کی بنا پر جو اس کے اندر مختلف میدانوں میں شکست کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے۔ اس قلعہ کی حفاظت میں کوئی رقیبہ فروگذاشت نہیں کریں گی۔ اور اگر عرب کسی نہ کسی طرح قلعہ کے اندر داخل ہو بھی گئے تو قلعہ کے اندر انہیں موت

۱۔ اب اس کا نام قصر اشع ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فتح کے وقت اس کا نام قطی نہان میں بابلون۔ ان بھی
 یوں بابلون مصر تھا۔ ابن عبد الملک نے اس کا نام باب بابلون لکھا ہے۔ ایک دوسرے قول میں اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ بابلون میں
 نے بابل کے قیدیوں کا ایک جماعت کو یہاں رکھا تھا۔

کی جنگ لڑنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ان کی نگاہ تیزوس کا اندازہ بھی لگا رہی تھی کہ اس وقت رومیوں کا جگہی مفاد محاصرہ کے طول میں ہے تاکہ ہرقل اس دوران میں ان کے لئے اسکندر سے مزید فوجی امداد بہم پہنچا سکے۔ اس لئے عمرتوین العاص نے اپنی فوری فوجی طاقت سے تھوڑے بائیسوں کا قبضہ کر لیا۔

میدان جنگ کا جغرافیہ | دورانِ حیات نقیسی میں لکھا ہے کہ اس قلعہ کو بخت نصر نے اُس وقت تعمیر کیا تھا جب اس نے مصر چھوڑ کر اٹھارہ سو اسی سے اس کا نام اپنے پایہ تخت بائیسوں کے نام پر قلعہ بائیسوں رکھا تھا اس کے بعد شاہ روم نرسا پان نے قلعہ کی بنیادوں پر مزید تعمیر کا اضافہ کر کے نہ صرف یہ کہ اسے ایک نہایت مضبوط قلعہ بنا دیا بلکہ اس کے اندر سہانی کے ایک بہت بڑے ذخیرے کا بھی بندوبست کر دیا اور یہ پتھیل اُس سنہ میں ہوئی جب اتفاق سے عیسوی صدی کا بھی آخری سال گزر رہا تھا۔ آج کل اس مقام کو مصر قدیم کہا جاتا ہے۔

بیسویں صدی کے ادائن تک اس قلعے کے تین حصے موجود تھے۔ اور اب تران میں سے بھی ایک منہدم ہو کر صرف دو باقی رہ گئے تھے۔

قلعہ کی فصیلیں اٹھارہ قدم چوڑی اور غیر مستطیل مربع شکل میں قلعہ کا احاطہ کرتی ہیں تعمیر میں پتھر اور پیشہ درندہ باری باری منزل دار لگائی گئی ہیں۔ قلعہ کی پیمائش مترین نے نہیں کی تھی قلعہ کے اندر دیباستے تل کی ایک اندازہ گاہ بھی باقی گئی تھی جس کے نشانات مقررین کے زمانہ تک موجود رہے۔ قلعہ کے اندر متعدد کینول مشا کیسے اور کینولہ معلقہ وغیرہ کا بھی مقررین ہی کے دستک پتہ چلتا ہے قلعہ کے مدھے جو آج تک باقی ہیں جزوی اور مشرقی ہیں جن میں باہر کی طرف نکلے ہوئے چار بئس تعمیر تھے۔ اور ان چاندوں کا باہمی تاہد کیساں نہیں تھا۔ ماضی قریب تک ان چاروں میں سے تین موجود تھے۔ اور اب ان میں سے ایک

مکہ مورخ یوستوس کا بیان ہے کہ اس قلعہ کو شاہ قبیز نے جنگ فارس کے زمانہ میں تعمیر کیا تھا۔

مکہ دورانِ حیات نقیسی کے مطابق یہودیوں نے جب اسکندریہ پر حملہ کیا تو شاہ تراجان نے ان کی سرکوبی کے لئے مرقیسیں کی سرکردگی میں ایک عظیم فوج روانہ کی۔ اور پھر خود مصر آگیا اس قلعہ کو تعمیر کیا۔ اور قلعہ کے اندر ایک نہایت ہی مستحکم حفاظت گاہ بنا کر اس میں پانی کی دانر مقدار کا انتظام کیا۔

ستہ یوسپین مورخ بشرکہ لکھتا ہے کہ اس وقت جو اس کو قاہرۃ القدییر کہا جاتا ہے یہ غلط ہے اس کی بجائے اس کا صحیح تاریخی نام مصر القدییر ہے۔

یہ روایت ابوصالح نے خطط سے نقل کی ہے۔ (ذیل الکتاب ص ۲۲۵)

منہدم ہو کر صرف وہ دو برج باقی رہ گئے ہیں جو اپنے درمیان ایک بڑے عالی شان دروازے کو اپنے
جوڑتے ہیں اور اس کے اظہار و حفظ کا سہرا مورخ انما و قدیرہ اس ہر تیز کے سر ہے۔ قلعہ کی تعمیر کے وقت
چوڑے دریا کے نیل اس کی ویرانوں سے ٹکراتا ہوا بہتا تھا اور اس میں کشتیاں چلائی جاتی تھیں اس لئے اس
سمت میں کوئی برج نہیں بنایا گیا۔

قلعہ کا ایک دروازہ نیل کی جانب بھی تھا۔

فصیل کی بلندی ساٹھ قدم تھی۔

کتاب (Ancient Coptic Churches) کے بیان کے مطابق اس قلعہ کی بلندی

کا یہ حال تھا کہ قلعہ کے اوپر سے دیکھا جاتا تو ملکہ سیدیہ شہر میں شمس تک پہنچ جاتی تھی

قلعہ کی جنگی اہمیت کو جزیرہ روم نے جس میں متعدد قلعے بنے ہوتے تھے کئی گنا بڑھا دیا تھا یہ جزیرہ
دریا کے نیل کے عین وسط میں واقع ہونے کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا تھا۔ جیسے دریا پر سوار ہے اور
نیل کی باگیں پوری طرح اس کے قابو میں ہیں۔

کتاب (Coira Fifty years Ago) کے مطابق عرب قلعہ بابلون کے محاصرہ

کے دوران میں جزیرہ پر پے قلعہ کر چکے تھے

قلعہ کے منافات میں وسیع زراعتی فارم، باغات، انگو رستان، کینسوں اور گرچل کا طویل

سلسلہ اس مقام تک چلا گیا تھا جہاں آج جامع ابن طولون اور قلعہ کیش واقع ہیں

رومی محاذی رومیوں نے قلعہ بند ہو کر مدافعتاً جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ان کے اس فیصلے کی تائید
مندرجہ ذیل اسباب نے کی۔

۱۔ فصیل کی مضبوطی، ۲۔ برجوں کا استحکام، ۳۔ موسم گرما کی شدت، ۴۔ اور قلعہ کے چاروں طرف

پانی سے بھری ہوئی خندق۔

رومی یقین رکھتے تھے کہ مسلمان ان زبردست راکٹوں کو عبور کر کے قلعہ تک پہنچنے میں ایک طویل

سلسلہ آج بھی قلعہ کے اوپر چڑھ کر دیکھا جائے تو ملکہ سیدیہ اور صحرا کا شاہہ کرتی ہوتی دریا کے نیل سے کافی فاصلہ تک
پہنچ جاتا ہے۔

۱۲۱۱ سے ابن دقاق اس کی تائید کرتا ہے۔

۱۲۱۱ سے ان میں سے بعض کیسے آج بھی موجود ہیں۔ کچھ تانبہ کی فصیل کے اندر واقع ہیں اور کچھ باہر مقررہ ہی راوی ہے کہ
سلطان ناصر بن قلاوون نے چودھویں صدی میں ان میں سے پیشتر کو منہدم کر دیا تھا (خطبہ عبدالصمد ۲۸۱)

مدت تک کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ امدادیں دو زبان میں یقیناً اسکندریہ سے ہمارے لئے فوجی امداد پہنچ جائے گی۔

عربی محقق حضرت عمر بن الخطاب سے غیر موافق حالات کے باوجود قلعہ کے محاصرے کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہ سوچ کر گیا کہ دریا کی طغیانی زیادہ سے زیادہ ایک دو ماہ تک رہے گی اور اتنے عرصہ میں ہم دریا پر نسیبائی اثر ڈالنے اور نہ نہیں کمزور کرتے رہیں گے۔ پھر جب طغیانی ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ خندق کا پانی بھی معمول پر آجائے گا تو ہمارے لئے قلعہ میں داخل ہونے کا راستہ کھل جائے گا۔ پانی ریل اسکندریہ سے رومی امداد کا اندیشہ، اس کی طرف سے ان کا دل مطمئن تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر قلعہ کی خندق عربوں کو نہ لگا سکتی ہے تو باہر سے آنے والے رومیوں کو بھی داخلہ سے روک سکتی ہے۔

قلعہ کا استحکام | قلعہ کی تمام فوج رومیوں پر مشتمل تھی اور جو قلعہ سے سے قلعہ تھے وہ رومیوں کے گریا غلام تھے اور رومیوں کے اس بات پر اتفاق ہے کہ موقن ششمصرہ کے شروع ہی سے قلعہ میں موجود تھا اور قبوٹس کا بھی میں شمس کی جنگ تک تو یہاں ہونا ثابت ہے۔ البتہ محاصرہ کے وقت اس کی موجودگی سے تاریخ فاروقی

قلعہ کی مکان دو شخصوں کے سپرد تھی محمودی قائد قیرس تھا جو ہر طرف کی طرف سے مصر کا راستہ بھی تھا۔ دوسرا ناما غیر صحیح تھا۔ جس کے پیرو فوج کا انتظام تھا۔ ان دو کے علاوہ بھی دو حقیقی بھائی اور دو قیاض اور دو متیاض قیادت کے منصب پر فائز تھے۔

فوج کی تعداد پانچ چھ ہزار کے قریب تھی جس کے لئے ان کے پاس خدال اور سند کے دافر ذخیرے موجود تھے۔ عام مصر میں امداد گر جا کے پجاریوں کی کثیر تعداد کو تیل کے راستے پہنچے ہی خارج کیا جا چکا تھا تاکہ ان کی جگہ مزید فوج رکھی جاسکے۔

محاصرہ | بالآخر عربوں نے قلعہ کا محاصرہ کر کے رومیوں کو قلعہ بند کر دیا۔ رومیوں نے قلعہ کے اوپر سے مخدقوں کے ذریعہ سلاخوں پر سنگ باری شروع کر دی جس کے جواب میں مسلمان بھی تیرا د پتھر

۱ ابن عبدالمکرم، یاقوت، ابن بطریق، مقریزی اور ابوالمحاسن

۲ مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بطریق قیرس تھا

۳ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ محاصرہ میں شامل ہوا۔ پھر شکست خوردہ سپاہ کے ساتھ اسکندریہ کی طرف فرار کر گیا ہو۔

۴ شاید اعیرج جرج کی بڑی بھٹی صحبت ہو۔

پھینکتے رہے۔ اگرچہ بغاہر حالات مدعیوں کی منگ باری مسلمانوں کے مقابلہ میں بہت سخت تھی مسلمانوں کی ثابت قدمی اور سخت جانی نے آخر کار مدعیوں کی ہمتوں کو پست اور جوصلوں کو شکست کر دیا۔ صلح کی بات چیت | جب اردھیں نے یہ دیکھا کہ عربوں نے نہایت استقلال کے ساتھ محاصرہ کا ایک جہینہ گوارا دیا ہے۔ اور دوسری طرف نیل کی طغیانی اور خندق کی سطح آب بھی اُترتی شروع ہو گئی نیز اسکندریہ کی طرف سے جس فوج امداد کا ہمیں انتظار تھا وہ بھی نہیں آئی اور محاصرہ ہے کہ بدستور قائم اور وبال جان بنا ہوا ہے۔ تو سالار قیس نے آنے والے خطرے کو اپنے سے اہت قریب پایا اور پلوہی سنجیدگی کے ساتھ معاملہ پر غور کرنے لگا۔

اکتوبر سنہ ۶۳۷ء میں اُس نے اپنے زیرِ اقتاد سرداروں اور سب سے بڑے پادری ہٹکانی کو مشورہ کے لیے جمع کیا اور صورتِ حال ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔

یہ عرب ہماری افواج کا پہلے ہی خاتمہ کر چکے ہیں اور اب ہمیں بھی گھیرے میں لے لیا ہے مزید بڑاں یہ کہ ان کے پاس صحرا عرب سے تازہ دم امداد اور بھی آنے والی ہے۔ جس سے ان کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ ان سے صلح کی گفت و شنید کا آغاز کیا جائے۔ اور اس کام کے لئے میں خود بنفس نفیس تیار ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں ان کے سامنے گرانقدر مال پیش کر کے نہ صرف یہ کہ موجودہ محاصرہ کو ختم کرا سکوں گا۔ بلکہ سابق مقبوضہ علاقوں کو بھی واکزارد کرالوں گا۔

اس مشورہ کی روشنی میں علیٰ منصوبہ بنایا گیا کہ مقوقس چند ساتھیوں کو لے کر خفیہ طریقہ سے جزیرہ رومہ جائے اور عمر ذہن العاص سے مجوزہ شرائط کے مطابق بات چیت کرے۔

چنانچہ وہ جزیرے پہنچ گئے اور وہاں سے قلعہ کے بڑے پادری نے عمر ذہن کو مندرجہ ذیل مراسلہ بھیجا۔
تم لوگ ہمارے ملک میں داخل ہو کر ایک عرصہ سے ہمارا خون پی رہے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رومی سپاہ لاطینی اقل، کیل کانٹے سے عیس ہو کر تمہاری مزاج پرسی کے لئے روانہ ہو چکا ہے۔ وہ تمہیں ایک طرف سے اپنے اور دوسری طرف سے دیپائے نیل کے گھیرے میں لے کر تمہیں سے ایک ایک کو گرفتار کرے گا۔ اور تمہاری ساری امیدوں اور اُمیگوں کو خاک

لے قلعہ کا دریائے نیل میں کھینے والا زلادوی دمدازہ کھول دیا گیا۔ نکلنے والوں نے کشتیوں پر سوار ہو کر جزیرہ کو چھوڑا اور جارج کو قیس کی مددگی کے متعلق اخطائے ملاز کا پرلازمہ مار بنا کر قلعہ میں چھوڑ دیا گیا۔

میں طلا کو رکھ دے گا۔ اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی سفادت ہمارے پاس بھجھو تاکہ ہم گھٹت و شنید کے ذریعہ کسی ایسے نتیجے تک پہنچ سکیں جو فریقین کے لئے قابل قبول ہو اور وہ جنگ کے خاتمہ کا ذریعہ بن جائے اور بہتر ہے کہ یہ کام روحی افواج کے یہاں پہنچنے سے پہلے مکمل ہو جائے۔ ورنہ ان کے آجانے کے بعد پھر مسامحت کا کوئی بھی امکان باقی نہیں رہے گا۔

عمرو بن عاص نے مقوقس کے سفیروں کو دو دن تک روکے رکھا۔ اور آزادی کے ساتھ اپنی فتح میں چلنے پھرنے اور لشکر کی شان و شوکت سے باخبر ہونے کا موقع دیا۔

مقوقس نے جب دیکھا کہ سفیر واپس نہیں آتے تو وہ ان کے بارے میں اندیشہ میں پڑ گیا۔ اور اس نے اپنے ساتھیوں سے اس کا اظہار کر دیا۔ یہ لوگ کس قسم کے ہیں کہ سفیروں تک کو قید یا قتل کر دیتے ہیں۔ تیسرے دن عمرو نے ان سفیروں کو اپنا مندرجہ ذیل جواب دے کر واپس کر دیا۔

”میرے اور تمہارے درمیان صلح و جنگ کی صرف تین شرطیں ہیں۔ ۱۔

۱۔ اسلام میں داخل ہو کر ہمارے بھائی بن جاؤ۔ اور تمام حقوق میں ہمارے برابر کے شریک ہو جاؤ۔

۲۔ یہ نہ مانو تو پھر اپنی بالا دستی ختم کر کے ہمارے باج گزار بن کر رہو۔

۳۔ اس کو بھی منظور نہ کرو تو پھر میدانِ جہاد میں نکل آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان خود فیصلہ کر

دیں گے اور وہی بہتر فیصلہ دینے والے ہیں۔“

مقوقس نے اپنے سفیروں سے عربوں کے متعلق معلومات حاصل کیں تو ان کے سردار نے مندرجہ

ذیل جواب دیا۔

”ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں زندگی سے زیادہ موت اور بڑائی سے زیادہ عجز و انکساری

پست ہے۔ کسی ایک کو بھی ان میں سے دنیا کی طرف رغبت نہیں، مٹی پر بیٹھ جاتے اور

گھٹنوں کے اوپر رکھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ان کا سردار بھی خود ان ہی جیسا ہے، نشان میں

کوئی اونچا ہے نہ نیچا اور نہ ہی ان کے آقا اور غلام کے درمیان کوئی تمیز کی جاسکتی ہے۔ نماز

کا وقت آجاتا ہے۔ تو سب کے سب پانی سے منہ۔ ہاتھ اور پاؤں دھو کر شریک ہو جاتے

ہیں۔ اور ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا۔ اپنی غائز میں بھی وہ عاجزی اور انکساری کا

اظہار کرتے ہیں۔“

مقوقس نے اپنے سفیروں کی یہ باتیں سنیں تو یہاں تک متاثر ہوا کہ بجز اس اعتراف کے اُسے کچھ نہ پڑا۔

”قسم ہے اُس فاتح کی جس کی قسم کھانی جاتی ہے، اگر یہ لوگ پہاڑ سے بھی ٹکرائیں گے تو اسے بھی اپنی جگہ سے ہٹا کر چھوڑیں گے۔ ان کا مقابلہ کوئی طاقت نہیں کر سکتی ساگر تاج ہم انہیں اس حال میں بھی آمادہ صلح نہ کر سکے جبکہ وہ دریائے نیل کے زرخیز آسے ہوتے ہیں تو پھر اس زرخیز سے جانے کے بعد کسی میدان میں بھی انہیں جھکایا نہ جاسکے گا۔“

مقوقس نے اس کے بعد ایک اور سفارت عمرؓ کے پاس بھیج کر درخواست کی کہ اپنے آدمی ہمارے پاس بھیجو۔ تاکہ ہم ان کے ساتھ ایسی شرائط پر معاملہ طے کر لیں جن میں تمہارے لئے بھی بہتری ہو اور ہمارے لئے بھی۔“

چنانچہ حضرت عمرؓ بن العاص نے حضرت عبادہ بن صامت کی قیادت میں دس سلاخوں کی سفارت ترتیب دی اور سیاہ فام عبادہ کو ان سب کی طرف سے شکم بناتے ہوئے ہدایت کی کہ روٹی خواہ کچھ بھی شرائط پیش کریں لیکن تم ان تین شرائط کے سوا کسی شرط کو قبول نہ کرنا جو میں نے اپنے مرسلے میں اُس کے پاس بھیج دی ہیں۔

یہ سفارت مقوقس کے پاس پہنچی تو وہ سیاہ فام عبادہ کو دیکھ کر حلا یا کہ اس کا لے کو مجھ سے دور رکھو۔ اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی بات کرنے کے لئے آگے آئے۔ پوری سفارت نے یک جاں ہو کر جواب دیا کہ یہی کالا آدمی علم و فضل اور مشورہ درائے میں ہم سب سے بہتر ہے۔ ہمارے سپہ سالار نے اس کو کچھ ہدایات دے کر ہمارا سردار مقرر کیا ہے اور ہم پر اس کی اطاعت لازم کی ہے۔

آخر عبادہ ہی نے مقوقس کے ساتھ تین چیت کی امداد صاف صاف کہہ دیا کہ:

عبادہ :- ”ہم اپنے جن ساتھیوں کے نائندے بن کر یہاں آئے ہیں ان میں ایک ہزار آدمی تو ایسے ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ سیاہ فام ہیں۔ لیکن ہمارا ایک ایک آدمی بہادر بھی ایسا ہے کہ سو سو آدمیوں کے یکساں کی جملے کو ناکام بنا سکتا ہے۔ اور اس شجاعت کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں سے کسی دنیاوی لالچ کے لئے جہاد نہیں کرتے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جتنی جہاد آخری مقصد ہوتا ہے۔ دنیا کی وقعت ہماری نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لئے کہ جسے دنیا کہتے ہیں اُس میں آدمی کا حصہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کہ بعد کا ہوتو ایک تھکے سے اپنا پیٹ بھر لے اور تنگ ہو تو ایک چادر سے اپنا بدن چھپالے۔ اسی نعمت اس دنیا کی نعمت نہیں ہے اُس دوسری دنیا کی نعمت ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے۔ اصل فراخی بھی دنیا کے بجائے آخرت ہی کی فراخی ہے۔“

مفوقس نے عبادہ کی تقریر سے حیرت زدہ ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا۔
 کیا تم نے اس آدمی جیسی باتیں کبھی سنیں۔۔۔۔۔ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو گویا
 اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کی تباہی اور بربادی کے لئے نکال کر بھیجا ہے۔ !
 مفوقس (عبادہ سے)

بھلے آدمی میں سے وہ سب کچھ سن لیا ہے جو تو نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے بارے
 میں کہا ہے۔ اب تو بھی سن لے۔ اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم لوگوں نے زمین کے
 جس حصہ پر قبضہ جایا اور جو جو علاقے فتح کیے ہیں وہ سب دنیا کی محبت اور لالچ ہی ہیں
 کیے ہیں۔ کان کھول کر سن لے رومی بہادروں کی جنگ آزمودہ افواج جو اعداؤں و شاد
 سے باہر ہیں ہماری املو اور تمہاری گوشمالی کے لئے روانہ ہو چکی ہیں اور ہم تک
 پہنچنے ہی والی ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ تمہاری سٹی سرگمزد و جمعیت ان کا مقابلہ ہرگز
 نہیں کر سکتی۔ اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اپنا دنیاوی لالچ پورا کر لو اور صلح کے
 ذریعے جنگ کا خاتمہ کر کے اپنے ملک کی طرف سلامتی کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ۔ ہم
 تمہارے ہر سپاہی کو دو دوا شرفیاں سپہ سالار کو تین دوا شرفیاں اور خلیفہ کو ایک ہزار
 دوا شرفیاں دینے کے لئے تیار ہیں۔ نقد وصول کرو اور اپنے علاقوں کی طرف واپس چلے جاؤ۔
 اس تقریر کا زخمیہ حقارت کے ساتھ عبادہ نے یہ جواب دیا :-

اُسے مردک رومی ! آنکھیں کھول، اپنے نفس اور اپنے ساتھیوں کو اندھیرے میں
 نہ رکھو تو نے جو ہمیں ضعف اور قلت تعداد کا طعنہ دیتے ہوئے رومی سپاہ کی کثرت
 سے ڈراتے کی کوشش کی ہے تو یقین کر لے کہ ہم ان باقل کو خاطر میں لانے والے نہیں
 ہیں ہم لوگ دشمن کی کثرت تعداد سے خوفزدہ ہونے کے بجائے شوق زدہ ہوتے ہیں
 اس لئے کہ اپنے گھروں سے زندگی کی تلاش میں نہیں بلکہ موت کی تلاش میں نکلے ہیں۔ ہم
 نے اپنے پروردگار کے سامنے اُس حالت میں سب سے زیادہ سُرخرو ہوں گے۔
 جب اپنے سب مجاہدین کو اس کے راستے میں ایک ایک کر کے قربان کرتے ہوئے
 اپنی جانوں کا حساب بے باق کر دیں گے ہمیں اس کے سوا کوئی دوسری کامیابی پسند ہی
 نہیں ہے۔ ہم تمہاری سرزمین پر دو فنیمتوں میں سے ایک فنیمت ضرور حاصل کریں گے
 ۱، دنیا کی فنیمت۔۔۔۔۔ تم لوگوں کو شکست دے کر ۲، آخرت کی فنیمت۔۔۔۔۔ اپنا
 آخری قطرہ خون بہا کر۔۔۔۔۔ لیکن یہ سمجھ لو کہ ہم دشمن کی کثرت اور ساز و سامان سے مرعوب

ہو کر بیڑ بکری کی طرح ذبح نہیں ہوں گے۔ بلکہ اپنا پورا پورا فرض ادا کر کے قربان ہوں گے۔
 اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں کُتِبَتْ فِيهَا تَقِيَّةٌ تَقِيَّةٌ تَقِيَّةٌ
 فِيهَا كَيْفِيَّةٌ بِأَنَّ اللَّهَ فَرَمَ كَمَا رَسَمَ دُلُوبَ سَمْتِ أَرْبَعَتِ كَأَحْسَاسٍ قَطْعًا
 مَسَا دِيَا هِيَ أَوْ سَمْتِ دَنْصَرَتِ كَادَارِ دَمَارِ صَرْفِ صَبْرٍ وَثَبَاتِ پَر رُكْحَا هِيَ۔ يَادِرُ كُحْمِي
 ذَمْرَهُ لَرَبَّنِي سَمْتِ زِيَادَهُ مَرْنِي كِي تَمْنَا هِيَ أَوْ رَمَمِ هِيَ سَمْتِ هَرْطُخِ لِرَبَّنِي مَالِ مَنَالِ دِيوِي
 بِحُولِي أَوْ دَوَسْتِ أَحْبَابِ سَمْتِ كُوَالِدِ كِي حِفَاظَتِ هِيَ سَمْتِ كُوَادِرَانِ كِي مَحَبَّتِ وَ
 كِفَايَتِ سَمْتِ آزَادِ هُو كِرَا پِنِي دُطْنِ سَمْتِ تَكَلَّمَا هِيَ۔ اِدْرَا سَمْتِ بَعْدِ مِيدَانِ جِهَادِ هِيَ هِيَ
 صَبْحِ دَشَامِ اسْمِ كِي هِيَ دَعَا هُوتِي هِيَ كُوَا سَمْتِ هَمَارِ سَمْتِ پَرِ دَرِ دِ گَارِ هِيَ اِنِي دُطْنِ أَوْ
 اَهْلِ دُطْنِ كِي طَرَفِ تَه لُو تَا أَوْ رَا پِنِي رَا سَمْتِ هِيَ قِرْبَانِ هُو جَانِي كَا مَرْتَبَةُ نَقِيْبِ كَرْتِ عَنُقَرِي
 كُوَا مَقْدَرِ دَمْعَا أَوْ هَمَارِي مَنَزَلِ آگِي هِيَ كِي طَرَفِ هُوتِي هِيَ سَمْتِ هِيَ كِي طَرَفِ نَهِي۔

اب سوچ لے اے مردِ رومی جو کچھ تجھے سوچنا ہے۔ ہماری طرف سے تو دو ٹوک
 فیصلہ ہے۔ اسی فیصلہ کا ہمارے سالار نے حکم دیا ہے۔ اسی فیصلہ کی تربیت ہم نے اپنے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حاصل کی ہے۔ اور یہ فیصلہ وہی ہے جس کا
 اظہار ہمارے سپہ سالار نے اپنے مراسم میں تم پر کر دیا ہے۔ یعنی تین بیس سے ایک.....
 مقوقس نے ایک بار پھر عبادہ کو اپنی پیش کش پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن عبادہ نے مانے اور آسمان
 کی طرف پناہ کے لہذا تھا کہ فرمایا۔

اس آسمان کے مالک کی قسم نہیں نہیں۔ اس زمین کے مالک کی قسم بھی نہیں، اس تمام
 کائنات کے پروردگار کی قسم ہرگز نہیں۔ تین میں سے ایک کے سوا کوئی بشر قابلِ قبول نہیں
 ہے اب تم ان میں سے جو نسی چاہو اپنے لئے پسند کرو۔
 عبادہ سے واپس ہو کر مقوقس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے کا مشورہ دیا۔

۱۔ اس کا رادی ہیکل ہے (کتاب الفوائد جلد ۲ صفحہ ۱۱۱)۔ لیکن بگرنے اپنی کتاب فتح العرب المعروضات
 میں ہیکل کی مخالفت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مقوقس نے جب اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو اس کے ساتھیوں نے جواب
 دیا کہ جہاں تک بشرط کا تعلق ہے ہم سبھی دین کو چھوڑ کر ایک ایسا دین ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ جس کا ہمیں کوئی علم ہی نہیں ہے
 دوسری بشرط کی بابت یہ ہے کہ جب ہم سہاروں کے باجگنا را در مطیع ہر جائیں گے تو کیا ان کے فلاح بن جائیں گے اس سے
 دہلیہ حاشیہ اگے صفحہ ۱۱۱

ساتھیوں نے پوچھا کہ پھر کونسی شرط پر صلح کا پتہ پڑھایا جاسے ؟
مقوقس نے جواب دیا : " جہاں تک پہلی شرط یعنی قبول اسلام کا تعلق ہے ، میں اس کے حق میں تو نہیں ہوں
دہی و دوسری شرط یعنی جنگ ، سو میں اس کی عاقبت بھی تم لوگوں میں نہیں پاتا ۔ اب رہ گئی تیسری شرط
یعنی تابعداری اور جزیہ تو اس پر غور کر لیا جاسے ۔"

ساتھی بولے : " گویا اس کا مطلب تزیہ ہوا کہ ہم ہمیشہ کے لئے ان کی غلامی کا حق پہن لیں ۔
مقوقس نے کہا : " ہاں تم نام کے غلام ہو جاؤ گے ۔ لیکن فی الحقیقت اپنے علاقوں پر حکمران رہو گے ، تمہاری
املاک و اولاد اور جا میں محفوظ رہوں گی ۔ اور یہ حالت اس حالت سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ تم میدان
جنگ میں قید ہو کر ہمیشہ کے لئے غلام بنائے جاؤ اور منڈیوں میں بازار کے بھاؤ بکتے پھرو پھر تمہارے
بعد تمہاری تسوں کا بھی حشر ہی ہوتا رہے ۔ یا پھر بھارت و دیگر میدان جنگ میں ایک ایک کر کے
قتل کر دیئے جاؤ اور اس طرح تمہارا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے ۔"

لیکن ساتھیوں نے اس کی اس رائے کو ٹھکرا دیا ۔ اور یہ کہہ کر کہ " غلامی سے ہر حال میں موت ہی بہتر
ہے " جنگ ہی کا فیصلہ کر لیا ۔

ہہلت | سرکردہ رومیوں کی طرف سے ایک تیسری بات یہ بھی پیش کی گئی کہ شرائط صلح پر مزید خود نوکر
کرنے کے لئے مسلمانوں سے ایک ماہ تک جنگ طوری کرائی جاسے ۔ لیکن عمرو بن عاص نے انہیں ایک
جہد کے بجائے صرف تین دن کی ہہلت دی ۔

قلعہ کی فوج کو جب مقوقس کی مصالحتہ گفت و شنید کا علم ہوا تو وہ اس سے بگڑ گئی ، اور جنگ ہی
پر مصر رہی ۔ اور اتوار کے ان تین ایام میں عربوں کے مقابلہ کے لئے پوری طرح ہتھیار بند ہو گئی ۔
مقابلے | چوتھے دن ابھی مسلمانوں کے سپہ سالار عمرو بن عاص آئندہ کے لئے نقشہ جنگ پر غور ہی
کر رہے تھے کہ اچانک رومی افواج قلعہ سے نکل کر ان پر ٹٹ پڑیں ۔ لیکن عرب بھی ایسے شب خونوں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) تو ہمارے لئے مر جانا ہی بہتر ہے ۔" اس کے جواب میں عبادہ نے فرمایا تھا کہ
" جزیہ ادا کرنے کے بعد تمہارے جان مال اور اولاد محفوظ رہیں گے اور تم اپنے اپنے علاقوں میں حکومت پر قابض اور
منصرف بھی رہ سکتے ، تمہاری دولتیں بھی ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتی رہیں گی ۔ تمہاری عبادت گاہیں محفوظ اور آباد
ہوں گی اور تمہارے دین کے ساتھ میں کوئی مداخلت نہیں کی جاسے گی ۔" مقوقس نے عبادہ کی یقین دہانی کو سنا
تو اس کا دل اطاعت کی طرف مائل ہوا ۔ لیکن باقی مسلمانوں نے اسکندریہ کے رومی جنرل کے ساتھ اتفاق نہیں کیا ۔

اور چھاپہ مار سکول سے اچھی طرح بتنا جانتے تھے آن کی آن میں وہ بھی مسخ ہو کر رومیوں سے گتھم گتھا ہو گئے اور اس بے جگری اور چابک دستی کے ساتھ لڑے کہ رومیوں پر بدحواسی چھا گئی اور وہ بھاری جانی ٹلی نقصان اٹھا کر میدان سے بھاگتے اور قلعہ کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔

صلح مقوقس | رومیوں کی اس گوشالی نے مقوقس پر صلح کے موقف کو ایک بار پھر واضح کر دیا۔ اور اس نے وقت ضائع کیے بغیر اپنی قوم کو جزیرہ اور اطاعت پر آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی جسے قوم نے یاد دل ناخواستہ منظور کر لیا۔ جس پر مقوقس نے عمرو کے پاس مندرجہ ذیل پیام بھیجا۔

معمود! مجھے امان دیدو۔ مجھ سے خود طمانت کرو۔ طمانت کے وقت چند آدمی ہمارے اور چند آدمی تمہارے سے ہوتے چاہئیں اگر بات کسی ٹھکانے پر پہنچ گئی تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔

عمرو کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ مقوقس کی امان طلبی کو مسترد کر دیا جائے۔ لیکن عمرو نے حضرت عمرو کے فرمان کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں مطمئن کر دیا اور کہا کہ تم نہیں جانتے کہ امیر المؤمنین حضرت عمرو نے مجھ سے کیا عہد لیا تھا! انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر دشمن تین شرائط میں سے کسی شرط پر معاہدہ کرنا چاہے تو اسے قبول کرنے میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔

چنانچہ رومیوں اور عربوں کے درمیان مندرجہ ذیل شرائط پر صلح طے پا گئی۔

۱۔ قلعہ رومیوں کے پاس رہے اور اسلامی قریوں اپنی جگہ پڑی رہیں۔

۲۔ سرزمین مصر کے تمام باشندے عام امن سے کہ وہ بالائی مصر سے تعلق رکھتے ہوں یا نشیبی مصر سے، رومی ہوں یا قبطی بلا امتیاز خاص و عام دو دینار فی کس جزیرہ ادا کریں۔ مگر اس حکم میں عمرو تین نابالغ بچے اور ناکارہ بوڑھے شامل نہیں ہیں۔

۳۔ اس صلح نامے پر شہنشاہ روم ہرتقل کی منظوری حاصل کی جائے۔ جس کی ذمہ داری مقوقس پر ہوگی۔ مقوقس نے اسکندریہ پہنچ کر ہرتقل سے درخواست کی کہ سرزمین مصر کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لئے اس صلح نامے پر دستخط کر دے جو ہم نے آپس میں طے کر لیا ہے۔

لے نیقزوس (Nice Phonus) نے اپنی کتاب میں ایک روایت یہ بھی لکھی ہے کہ مقوقس نے ہرتقل کو اس بات کا مشورہ بھی دیا تھا کہ اپنی بیٹی اور بیٹیوں کو اس کے لئے عمرو بن العاص کے نکاح میں دے دو جس کے اثر سے شاید وہ ہمارے مذہب نصرانیت کو قبول کرنے سے ————— لیکن یہ روایت غیر مصدقہ ہونے کے علاوہ عقل اور قیاس (دبائی حاشیہ) کے خلاف ہے۔

ہر قلعہ صلح نامے کی شرائط پڑھ کر گہری سوچ میں پڑھ گیا اور کچھ اس قسم کے سوالات نے اس کے دل و دماغ کو مادف کر دیا :-

- ۱۔ یہ صلح صرف قلعہ بابلین کے ساتھ مخصوص ہے یا تمام سرزمین مصر بشمول اسکندریہ پر جاری ہے ؟
- ۲۔ جزیرہ و صول کرنے کے بعد عرب اپنے ملک کی طرف لوٹ جائیں گے یا یہیں موجود رہیں گے ؟
- ۳۔ کیا اس معاہدے کی رو سے ملک مصر رومیوں کی قیادت سے نکل کر عربوں کی قیادت میں داخل ہو جائے گا۔ جس کے بعد عرب اور صرف عرب ہی اس سرزمین کے حکمران کی حیثیت سے اس کے خراج اور دوسری برکتوں سے مالا مال ہوا کریں گے ؟

ان سوالات کے جوابات اس نے متوقس سے طلب کیے۔ اور متوقس نے مندرجہ ذیل بنیادوں پر اپنے مصالحتی نقطہ نظر کی توجیہ کی۔

- ۱۔ ”عربوں کو مستقبل میں کسی وقت مصر سے ٹککنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔“
- ۲۔ ”اذا کیا جانے والا جزیرہ اسکندریہ کی منڈیوں اور سامان تجارت سے وصول کر لیا جاتا ہے جس سے ملکی خزانے پر کوئی خاص بوجھ نہ پڑنے پائے گا۔“
- ۳۔ ”رومیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ عربوں کو جنگ میں شکست دے سکیں۔ اس لئے کہ عرب دین کے لئے لڑتے ہیں دنیا کے لئے نہیں لڑتے۔ اور انہوں نے اپنی ضروریات زندگی کو نہایت محدود کر رکھا ہے۔ وہ صرف معمولی غذا کھاتے ہیں اور انہوں نے اپنے لباس کو ایک چادر سے آگے نہیں بڑھایا ہے۔ جس سے وہ اپنا بدن چھپا لیتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ موت ہی کے فرزند ہیں جنہیں موت کی گود میں جاتے کی ہر وقت آمد رہتی ہے۔ اور قتل ہو جانے کا شوق ہی شخص اس لئے رکھتے ہیں کہ یہی ان کے نزدیک جنت حاصل کرنے کا ایک یقینی راستہ ہے“

متوقس نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے لکھا کہ :-

”اگر آپ اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کی شمشیر نڈکاٹا مشاہدہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ انہیں شکست دینا غیر ممکن نہیں تو آسان بھی نہیں۔ لہذا ہمارے لئے اب اس سے بہتر کوئی تہمت نہیں کہ عمرو کے ساتھ صلح کر لیں قبل اس کے کہ وہ قلعہ کو بزور شمشیر فتح کر کے

(بقیہ جاتیہ صفحہ گزشتہ) کے بھی خلاف ہے۔ اس لئے کہ متوقس اتنا بے وقوف ہو گیا تھا کہ وہ عمرو بن العاص جیسے باکردار شخصیت سے اس بات کی امید رکھتا کہ وہ ایک لڑکے کی خاطر اپنے دین کو چھوڑ دے گا۔ وہی دین جس کی سریشی کے لئے وہ اپنی جان و مہلتی پر لئے پھر رہا تھا۔

تمام علاقے کو اپنے لئے مال غنیمت بنا لے

ہر قتل مقوقس کے اس جواب سے نہایت غضبناک ہوا اور اُسے کہا کہ تم نہایت فدا دہیے فدا
اور بندل ہو اور ہرگز مصر کی گورنری کے قابل نہیں

ہر قتل کو اپنی فوجی طاقت پر گھنڈتھا اور اُس کے لئے اس سے زیادہ توہین اور کیا ہو سکتی تھی کہ
اُس کی ایک لاکھ فوج کو صرف بارہ ہزار عربوں سے شکست کھا جانے کا طعنہ دیا جائے
صلح کا خاتمہ عربوں کو بھی صلح کے اس حشر کا پتہ چل گیا۔ اور جنگ کے حالات پھر عود کر آئے
جوں جوں دریائے نیل اور خندق کا پانی اُتر رہا تھا۔ رومیوں کے عزائم اور امیدوں کی سوتے
بھی خشک ہوتے جاتے تھے۔ اور جب خندق پانی سے بالکل خالی ہو گئی تو رومیوں کی جان بھی گویا نکل گئی
اور انہوں نے آخری سنبھال لینے کے لئے خندق میں فرار دیکھے۔ کانٹے بھر دیئے۔ خاص طور پر قلعہ کے
دروازوں کے سامنے۔ تاکہ عرب ان کو عبور کر کے قلعہ کی تفصیل تک نہ پہنچ سکیں۔

اب سردی کا موسم تقریباً ختم ہو رہا تھا اور محاذ کے عمومی حالات حسب ذیل تھے :-

۱۔ اہل قلعہ میں ایک ڈبا پھیل گئی جس سے ان کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہو گئی۔

۲۔ اب تک کسی طرف سے قلعہ والوں کو فوجی امداد نہیں پہنچی۔

۳۔ عرب گورو نواح کے علاقوں پر حملے کر کے اپنے خون کو گرم اور طاقت کو بڑھاتے رہے۔

۴۔ فردی سنگلاہ میں ہر قتل شاہِ روم مر گیا اور اس کی موت کے ساتھ ہی رومیوں کے سپہ
سپہ جوصلے بھی پست ہو گئے۔

سیونلی نے ہر قتل کی موت کا ذکر کرتے ہوئے کیا عمدہ فقرہ کہا ہے: *لقد ساء الله امره وموتہ*

یعنی ہر قتل کی موت سے اللہ تعالیٰ نے رومیوں کی کمر توڑ دی۔ دوسری طرف اُس کی موت نے

عربوں کے حوصلوں کو پہلے سے کئی گنا زیادہ بلند کر دیا اور انہیں قلعہ کے بہت جلد فتح

ہوجانے کا یقین ہو گیا۔

۵۔ عرب برابر اس کوشش میں تھے کہ کسی تدبیر سے خندق کی دیوار میں شکاف پیدا کر کے

اندر جانے کا راستہ بنایا جائے۔

۶۔ فریقین کا مقابلہ زیادہ تر تیرا تیرا کی صورت میں ہونا تھا لیکن کبھی کبھی رومی قلعہ سے باہر

لے ایک ہدایت کے مطابق یہ واقعات دسمبر سن ۶۳۷ء میں پیش آئے۔

۷۔ بعض ہدایات کے مطابق ہر قتل کی موت مارچ سن ۶۳۷ء میں واقع ہوئی۔

جی آتے تھے اور عربوں کے شدید حملے کی تاب نہ لا کر دوبارہ قلعہ بند ہو جاتے تھے۔
 ردیموں کے حملے | را، ایک دفعہ محافظین قلعہ کی ایک جماعت نے عبادہ اور زبیر کو نواز
 پڑھتے دیکھا۔ تو ان پر بے خبری کی حالت میں حملہ کر دیا۔ لیکن مسلمان فوراً گھوڑوں پر سوار ہوئے
 اور حملہ آوروں پر چھٹ پڑے اور انہیں قلعہ کی طرف بھگا دیا۔ وہ بھاگے ہوئے راستے
 میں زیورات پھینکتے گئے تاکہ مسلمان ان کے جمع کرنے میں مشغول ہو جائیں اور وہ اس بہت
 سے فائدہ اٹھا کر قلعہ میں داخل ہو جائیں۔ — اسی موقع پر حضرت عبادہ کو پتھر لگنے سے
 ہلاک سا صدمہ بھی پہنچا تھا۔

۲۔ ایک اور موقع پر سب مسلمان جمع کی نماز کے لئے جمع تھے اور عمر بن عامر جہاد کا خطبہ پڑھتے
 رہے تھے۔ ایک رومی نے اس کی خبر اپنی قوم کو کر دی۔ جو نبی عمر نے خطبہ ختم کر کے نماز کی
 نیت باندھی تو اچانک ردیموں کی فوج نے قلعہ سے نکل کر مسلمانوں پر بحالت نماز حملہ کر دیا جبکہ
 وہ سب کے سب غیر مسلح تھے۔

سمندو کی جنگ | عمرو کو خبر ملی کہ ردیموں نے نیل میں نیل کی دو شاخوں کے درمیان تھپیڑوں
 کی سرکردگی میں مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے ایک فوج جمع کی ہے۔ تو انہوں نے دشمن کی نقل و حرکت
 شروع ہوتے سے پہلے ہی اس کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کر لیا۔ فوج کے ایک حصہ کو قلعہ کے
 محاصرہ پر برقرار رکھا اور باقی فوج کو اپنے ساتھ لے کر نیل کی مشرقی شاخ کو اشریب کے مقام پر عبور
 کرتے ہوئے سمندو کی طرف روانہ ہو گئے۔

تھپیڑوں نے شہر کی حفاظت اور مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے دو سو سالاروں کو بھیجا۔ یہ
 دونوں پہلے شہر کے محافظ دستے کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ مل کر عربوں سے جنگ
 کریں لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنی اوج کو لے کر شہر سمندو سے کچھ فاصلے
 پر صف آرا ہو گئے۔ اور ایسی سخت جنگ کی کہ مسلمانوں پر ان کا پتہ بھاری رہا۔ مسلمانوں کو محض جانی نقصان

ملے اس واقعہ کا ذکر ابو الحسن نے انجوم الزاہرہ میں بھی کیا ہے۔ لیکن اس نے عبادہ کے ساتھ زبیر کا ذکر نہیں کیا
 ہے۔ یہ روایت واقدی کی ہے۔ جو نہایت جھوٹا اور کذاب ہونے کے علاوہ عقل و خرد سے بھی غاری ہے۔

یہ روایت گھڑے ہوئے اُسے اس بات کا خیال نہ آیا کہ عمرو جیسا ہوشیار اور مدبر سپہ سالار کس طرح ایسی نقلی
 کرکت بنا کر ساری فوج کے ساتھ ناز کے لئے کھڑا ہو جاتا۔ دشمن سے جنگ کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
 (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

سے دو چار ہوتا پڑا۔ اس واقعہ کے بعد عمرو نے اندازہ کر لیا کہ شمالی مصر کی فتوحات آسان نہیں ہیں۔ اس لئے کہ اس علاقے میں نہروں، خندقوں اور قلعوں کا عام براج ہے جن کے سر کرنے کا سامان ہمارے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ وہ واپس ہو گئے۔ ادراثریب اور منوف کے قلعوں کی مرمت کرتے ہوئے واپس بالبیون کے محاصرہ میں شامل ہو گئے۔ مگر عقیدہ طور میں ان کا تعاقب کرنے اور جنگ کا تسلسل قائم رکھنے کی ہمت نہیں تھی۔

فتح عظیم | بالبیون کے محاصرے کو سات ماہ گزر چکے ہیں۔ اور عرب بھی اس کے طویل سے کچھ اکتائے جا رہے ہیں۔ اسی حال میں ایک چمک پیدا ہوئی۔ عرب کے مشہور بہادر اور شہادت کے آرزو مند زبیر بن العوام لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آج میں ارادہ کر چکا ہوں کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دوں۔ اور امید کرنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو مسلمانوں کی فتح و نصرت کا ذریعہ بنا دے گا۔

چنانچہ وہ رات کے وقت چند ساتھیوں کو لے کر آغوشِ غلٹ میں چھپے ہوئے قلعہ کی دیوار کے قریب پہنچے۔ اور فیصل پر ایک سیڑھی لگا کر اوپر چڑھ گئے۔ قلعہ پر پہنچ کر ٹکیہ بلند کی ساتھ ساتھ دوسرے ساتھی بھی قلعہ پر پہنچ گئے اور فیصل کو اپنے پاؤں سے روندتے ہوئے سب نے مل کر ٹکیہ کا فائدہ بلند کر دیا۔ باہر کے مسلمانوں نے بھی ان کی ہم نوائی کی۔ ٹکیہ کے نعروں نے قلعہ والوں کو یقین دلا دیا کہ عرب قلعہ میں داخل ہو چکے ہیں اس لئے وہ دروازہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زبیر نے اندر سے دروازہ کھولا اور مسلمان قلعہ پر قابض ہو گئے۔

دقیقہ حاشیہ ص ۱۰۸ گزشتہ صحابہ کرام کا نام قاعدہ تھا کہ فتح کا ایک حصہ دشمن سے جنگ کے لئے تیار رہتا تھا اور دوسرا حصہ نازا ادا کرتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا فریق نازی میں مشغول ہو جاتا تھا اور پہلا فریق اس کی حفاظت کرتا تھا۔ پس ایسے مشہور اور متداول طریقہ کے خلاف حضرت عمرو بن العاص کس طرح کر سکتے تھے۔ (دعا احمد)

۱۰ رات کے وقت حملہ کی روایت میں یعقوبی منفرد ہے جلد ۲ ص ۱۰۸ (درتہ بیروٹی کے بیان کے مطابق زبیر کا حملہ شام کے وقت ہوا تھا (ص ۱۰۸))

۱۱ لہ معری نے لکھا ہے کہ عربوں نے جس جگہ سیڑھی لگائی تھی، اس کا نام سوتق، الحام تھا۔ ابوالمحاسن نے اس کی تائید کی ہے۔ لیکن یا قوت کہتا ہے کہ وہ جگہ سوتق کے قریب تھی۔ ابن بطریق روایت ہے کہ وہ جگہ قلعہ کے جنوب میں تھی۔ بلاذری اسی کا مزید ہے کیونکہ اس نے لکھا ہے۔ کہ زبیر شمال سے آیا تھا اور دوسری جانب سیڑھی لگائی تھی (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

سالارِ قلعہ جورج فوراً عمروؓ کی خدمت میں اہل قلعہ کے لیے امن و سلامتی اور صلح کی درخواست کے لیے حاضر ہو گیا جسے عمروؓ نے قبول کر لیا کہ لیکن حضرت زہیرؓ نے ان سے اختلاف رائے کہتے ہوئے عرض کیا کہ اگر آپ ذرا صبر کرتے تو میں فصیل سے آنکر قلعہ میں داخل ہو جاتا اور پھر سب کچھ آپ کی عین مرضی کے مطابق ہوتا۔ لیکن عمروؓ نے صلح نامہ میں یہ شرط داخل کر دی تھی کہ رومی فوج تین دن کے اندر راند و قلعہ کو خالی کر دے گی اور اس کا جملہ سامان رسد اور اسلحہ وغیرہ ہمارے لئے مالِ فقیہت ہوگا۔

فتح کے بعد جنگ کے خاتمہ اور قلعہ کی تسخیر کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ بھی سن لیجئے :-

۱۔ رومی اپریل ۶۳۷ء کی چھ تاریخ کو عیدِ فصیح کے دن قلعہ سے نکلے اور اس حال میں نکلے کہ ان کے دلوں میں ایسے دن کا کوئی احترام موجود نہ تھا۔ بلکہ انہوں نے اس دن کو مصر والوں کے لئے جیسے خوشی کے ماتم اور مصیبت کا دن بنا دیا تھا۔ اور اب وہ انہیں بھی اپنے ساتھ جلا وطنی میں کھینچ کر بیٹھا چاہتے تھے۔ حالانکہ ان رومیوں نے ان پر اپنے وقت میں مظالم دیکھے اور قید و بند کی سزائیں دینے حتیٰ کہ ان کو شہید کرنے میں دریغ نہیں کیا تھا۔

بشپِ مصری حنا نقیوسی نے اپنے دیوان میں اس کا فکرا کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :-
 مسیح کے اصلی دشمن خود مسیحی ہیں جنہوں نے نئی بدعات سے دین کو ناپاک کیا اور
 عوام اناس کے ایمان کو سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے مسیح کی کھلی نافرمانی کرتے
 ہوئے دوسرے اپنے ہی جیسے مسیحیوں کو غلام اور ذلیل بتایا اور یہ اتنا بڑا صدمہ تھا
 جس سے بڑا صدمہ بتوں کے پر جنے والے بھی سمجھتے کہ نہیں پہنچا سکے۔

۲۔ قلعہ میں قبلی افواج کی ایک کثیر تعداد باقی رہ گئی۔ اور جب انہوں نے عربوں کی سادگی اور پختے پرانے لباسوں کا مشاہدہ کیا۔ کہنے لگے کہ ہائے! اب ہماری قسمت میں ایسے نیم برہنہ اور خستہ حال لوگوں کی غلامی لکھی ہے۔ جو بہت ہی ذلیل اور کم حیثیت ہیں!

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ

سٹہ عربوں کا یہ حملہ جمعہ کے دن ہوا۔ جس کے بعد مورخ ۶ اپریل ۶۳۷ء کو عیدِ فصیح کا دن تھا۔ اور
 اسی دن رومیوں نے قلعہ خالی کیا تھا۔ — طبری کا بیان ہے کہ زہیرؓ جب قلعہ کے اندر داخل ہو گئے تو
 صلح پسند اہل قلعہ نے خود اپنے ہاتھوں سے قلعہ کا دروازہ کھولا۔ اور پھر زہیرؓ کی محبت میں وہ عمرو
 کے پاس پہنچے۔

عمرو کو ان کے ان احساسات کا علم ہوا تو انہوں نے قبلی ٹھکانہ کو دروازہ دعوتِ طعام پر مدعو کیا۔ پہلے دن عربوں کے مذاق کے مطابق اونٹ کے گوشت کا صرف پانی اور نمک دار شراب تیار کیا جسے عرب زوح زوح کر کھانے لگے۔ قبلی اس وحشت ناک منظر کی تاب نہ لائے اور بغیر کچھ کھائے پیے واپس چلے گئے۔ دوسرے دن مہسری رواج کے مطابق طرح طرح کے لذیذ کھانے تیار کرائے گئے جنہیں قبلیوں نے خوش ہو کر کھایا پیا۔

اس کے بعد عمرو قبلیوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا :-

یقین رکھو کہ تم ہمارے پڑوسی ہو اور پڑوس کی رعایت رکھتے ہوئے میں اپنے معاہدوں کا پوری طرح پابند رہوں گا۔ مجھے تمہارے اُن ناگوار اور پریشیدہ احساسات کا بخوبی اندازہ ہے جن کی بنا پر تم اطاعت سے نکل جانے کی غلطی کر سکتے ہو۔ دیکھو ایسا اقدام تمہارے لئے ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ میں نے دو دن کی ضیافت میں تمہیں اس بات کا مشاہدہ کرا دیا ہے۔ کہ جزیرہ عرب میں ہماری معیشت اور خوراک کتنی ٹھیک تھی اور تمہارے ملک میں اگر ہمیں کیسے کیسے اعلیٰ اور مرغی کھانے میسر آ گئے ہیں۔ تو کیا اب تمہیں ہماری ذات سے یہ اُمید ہو سکتی ہے کہ ہم جیتے جی اس سرزمین کو آسانی کے ساتھ چھوڑیں گے؟ دیکھو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یا اسلام میں داخل ہو کر ہمارے برابر کے بھائی بن جاؤ۔ ورنہ پھر جزیرہ منگولہ کر کے اپنی اپنی بستیوں کو چلے جاؤ گے۔

قبلی رخصت ہوئے تو آپس میں اس قسم کی سرگوشیاں کر رہے تھے کہ عربوں کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ اور اب ہم پوری طرح اُن کے قدموں کے میچے پا مال ہو چکے ہیں۔

حضرت عمرو کو جب عمرو بن عاص کی اس تقریر کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ شب روگ تو طوار سے جنگ کرنے ہیں لیکن عمرو اپنی زبان کے ذریعہ جنگ کرتا ہے۔

سے طبری نے اس واقعہ کو ایسی طرح لکھا ہے کہ عمرو نے تیسرے دن اہل مصر کو بلایا اور ان کے سامنے اپنی فوج کو کراستہ کر کے اُن سے اس طرح خطاب کیا کہ عربوں کی معاشرت اور معیشت کو دیکھو کہ تمہارے دلوں میں کچھ دسامیں اُبھر رہے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہاری ہلاکت کا پیش خیمہ بن جائیں۔ اس لئے میں نے تمہیں عربوں کی تیوں حالتوں کا مشاہدہ کرا دیا ہے کہ وہ اپنے جزیرہ میں کیا تھے۔ مصر میں اگر کیا بن گئے اور (باقی حاشیہ لگے صفحہ پر)

۳۔ قبطیوں نے عربوں کی شوکت دیکھی تو نرم پڑ گئے اور اطاعت اختیار کر لی۔ بعض نے ان میں سے اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے بھائی بن گئے اور بچہ حقوق و مراعات میں برابر کے شریک ہو گئے۔ جزیرہ کی وصولی وغیرہ میں بھی انہوں نے مسلمانوں کی بہت مدد کی۔

۴۔ قبطیوں کے علاوہ کچھ رومی بھی فرجیوں اور غیر فرجیوں میں سے داخل اسلام ہوئے۔ واقعات سے اخذ کردہ نتائج یہ حالات تھے جنہوں نے عمر بن عاص کی شخصیت کو مختصرہ علاقوں میں مضبوط کر دیا اور آئندہ فتوحات کے لئے راستے کھول دیئے۔ یہاں تک کہ فراغ عمر کی یہ سرزمین قیامت تک کے لئے اسلام کی سرزمین بن گئی۔

۱۔ محاصرہ | اس جنگ میں عمر بن عاص نے جاہلانہ حیثیت اختیار کی اور رومیوں نے مدافعتاً ایک طرف محاصرے کی ناکہ بندی سے رومیوں کے لئے بیرونی امداد کے تمام ذرائع بند کر دیئے تو دوسری طرف قیدیوں کی طرح مجبور رہنے کی وجہ سے ان کے مردانہ اور بہادرانہ جذبہ پرنفیاتی طور سے بڑا اثر پڑا۔ اور اس کے بالمقابل مسلمان کھلی نضائیں آزدانہ نقل و حرکت کے ذریعہ اپنی جسمانی قوت کو بحال اور پرورش کرتے رہے۔

۲۔ قیادت | عرب عمر بن عاص کی واحد کمان کے تحت لڑ رہے تھے۔ اور ان کے واحد سپہ سالار ہی تدبیر جنگ۔ تنقید جنگ اور محاذ جنگ سب کاموں کے ذمہ دار تھے۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ایک ایک مجاہد کے لئے قانون اور حرف آخر تھا۔ اس کے برخلاف رومیوں پر ایک سے زیادہ قیادتیں مسلط تھیں بقوتس کے علاوہ جانچ بھی ان کا کاٹنڈر تھا۔ امدان دو کے علاوہ دو اور حتمی بھائی اور دو قیادتیں اور دو منیائیں بھی ان کے کاٹنڈر تھے۔ ذمہ داری کی اس تقسیم کا قدرتی نتیجہ یہی ہوا کرتا ہے کہ ذمہ داری کا پورا احساس کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ عربوں کے ساتھ پہلے ہی لگنے والے رومیوں کو صلح کی طرف مائل کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ صلح بھی اسی اختلاف قیادت کی بھینٹ چڑھ کر رہ گئی۔ داعی صلح متوقس اپنی جگہ پر با اختیار تھا اور داعی جنگ ہر قتل اپنی جگہ۔ دونوں اپنے اپنے موقف پر جمے رہے اور باہلیوں کے صلح نامے پر اس کے دستخط نہ

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ | جب وہ میدان جنگ میں اترتے ہیں تو کیا ہوجاتے ہیں۔

بلے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں خدا کی قسم عمر کی جگہ بڑی نرم ہے۔ تیرس میں وہ سردوں کی طرح

سختی ہے۔ اور وہ جوش و خروش ہے۔

ہونے کی وجہ سے اہل قلعہ نہ صلح ہی کے قاعدے سے بہرہ یاب ہو سکے اور نہ جنگ ہی کر سکے۔
۳۔ باطنی اسباب جنگ کے میدان میں ظاہری اسلحہ کی طرح کچھ باطنی اسلحہ بھی فیصلہ کن اثر دیکھتے
 ہیں۔ رومیوں کے حوصلے عربوں کے مقابلہ میں بہت تھے۔ اور وہ اس حد تک مرعوب تھے کہ
 جب بھی ان محبا دین پر نظر ڈالتے تھے۔ تو حسادت کے بجائے انہیں مرعوبیت کی نظر سے
 دیکھتے تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ عربوں کی یہ ہلکی ہانپنے ان کا سبب سے بڑا تعارف رومیوں میں
 اس طرح کرایا تھا کہ یہ لوگ موت کے شائق، جنت کے عاشق، دنیا سے متنفر اور فتح مندی سے
 زیادہ شہادت کو محبوب سمجھتے ہیں۔

دوسری اچھی شہرت جو ان کے درمیان عربوں کو حاصل تھی وہ ان کی باہمی مساوات تھی اور
 جو رومیوں کے درمیان یکسر عیناً اور مفقود تھی۔ چنانچہ ان کے قلوب کو مسخر کرنے کے لئے ایک ہی
 نظارہ کافی تھا کہ یہ لوگ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں گھٹنوں پر رکھ کر سوتلی کھا لیتے ہیں۔ ان کے درمیان
 بڑے کوچھوٹے اور آقا کو غلام سے الگ نہیں پہچانا جا سکتا۔

۴۔ نصب العین کی حفاظت تین باتوں میں سے ایک بات مسلمانوں کا تعین نصب العین تھا۔
 اسلام۔ جتربہ۔ یا تلوار۔ اسی نصب العین کا تعین ان کے غلیظہ نے ان کے لئے کر دیا تھا۔ اسی
 کی پیش کش عمر بن عاص نے متوقس کو کی تھی۔ اور جب متوقس نے عبادہ بن صامت کا رخ دوسری
 طرف پھیرنا چاہا تو انہوں نے اپنی تین شرائط پر تین زبردست قسمیں کھا کر اسے یقین دلایا تھا۔ کہ
 مسلمانوں کے پاس نین کے علاوہ چوتھی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور یہی نصب العین تھا کہ جب نہ بیہ
 نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر باہیوں کا دروازہ کھولا اور جادو سے ان سے سبقت کر کے عمر بن عاص
 سے صلح منظور کرائی۔ جس پر نہ بیہ نے غضبناک ہو کر عمرو سے عرض کی کہ اگر آپ ذرا توقف کرتے
 تو سارا معاملہ ہماری مرضی کے مطابق ہی ہو جاتا۔ تو عمر بن عاص نے اسی نصب العین کا حوالہ دے کر
 زبیر کو خاموش اور اپنے فوجی مفاد کو قربان کر دیا تھا۔

۵۔ قبول صلح عمر بن عاص کے سامنے ہر مرحلہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد رہا وَإِنْ جَنَحُوا
 بِأَنفُسِهِمْ فَاجْنَحْ مَعَهُمْ وَسَوْ كُنُّوا كُفَّارًا یعنی اگر دشمن صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اللہ پر بھروسہ
 کر کے جھک جاؤ۔

متوقس نے عین دوران جنگ میں صلح کا مطالبہ کیا تو عمرو نے جنگ بند کر دی۔ اور کوفتہ بٹیند
 کو لبا کرنا چاہا تو اسے بھی لمبا پھرنے دیا۔ پھر جب صلح نام ہو گئی تو دوبارہ جنگ شروع کر دی۔

دوسری جھڑپ کے بعد بھی تھوٹس سے صلح چاہی تو اس دفعہ بھی صلح کر لی گئی۔ اور اس وقت تک جنگ ہنتی رہی جب تک تھوٹس کی فوجوں نے دوبارہ جنگ شروع نہ کر دی۔
معلوم ہوا کہ عمرو بن العاص آیت کریمہ کی حدود کا ہر جگہ خیال رکھتے تھے۔ دشمن کے رُک جانے پر رُک جاتے تھے اور دشمن کے بھڑ جانے پھر جاتے تھے۔

۶۔ طبعی اسباب | قدرتی حالات کو جنگ میں بڑا دخل ہوتا ہے۔

اس قلعہ کی تعمیر میں زیادہ وقت خرچ ہوئے کی بڑی وجہ گہنی کا موسم اور دریا کی طغیانی تھی۔ جب طغیانی ختم اور خندق خشک ہو گئی تو قلعہ کی تعمیر فوراً ہو گئی۔

۷۔ داخلی اسباب | رومیوں نے قبضوں کے جذبات کو اپنے خلاف بھڑکایا تھا جس کی وجہ سے ان میں رومیوں کے رجحانات اور مفادات سے کوئی دلچسپی باقی نہ رہی گئی تھی۔ اور اس سلسلہ میں

سب سے اہم پارٹے خود قیس نے ادا کیا تھا۔ جس نے اپنے مذہب کی تردید کے لئے تشدد کے ذرائع استعمال کرنے سے بھی گریز نہ کیا تھا۔ اور اسی کے تشدد کی وجہ سے ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت بنیامین کو وطن چھوڑ کر فرار ہو جانا پڑا تھا۔ اسی طرز عمل کا یہ نتیجہ تھا کہ قبلی مصر کی سرزمین میں رومی اقتدار کو ایک لمحہ کے لئے بھی دیکھنا پسند نہیں کرنے تھے اور ان کی سب سے زیادہ دعائیں دس کے زوال کے لئے بنتی تھیں۔

اسی اندرونِ منافرت کا مظاہرہ تھا جب تغیر دور نے سمند کی مدافعت کے لئے اپنے

دو سہ سالاروں کو بھیجا اور انہوں نے اہل شہر کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کی تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم عربوں کے مقابلہ میں تمہارا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں۔

مورخین کے بیانات تو یہاں تک ہیں کہ مصر کے قبلی مجاہدین کی افواج میں اتنی کثرت سے شریک ہوئے کہ انہوں نے شہدائے جنگ کی کمی کے کھاتے کو روکا کر دیا۔

۸۔ مذہب میدان جنگ میں | عرب اگرچہ میدان جنگ میں برسرِ ہیکار ہوتے تھے لیکن وہ

اپنے دین۔ تعلیمات دین۔ فرائض دین اور بالخصوص نماز کو کسی حال میں فراموش نہیں کرتے تھے۔

یہاں تک کہ نماز کی امامت خود نوح کے سب سے بڑے سپہ سالار عمرو بن عاص کرتے تھے۔ جیسے کہ ہم اس سے قبل ذکر کر چکے ہیں کہ اہل قلعہ نے دو مرتبہ مسلمانوں پر بھارت نماز چلے

کیے۔ پہلی مرتبہ عبادہ اور زبیر پر۔ اور دوسری مرتبہ جمیع کی نماز میں تمام نوح پر۔

اور اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ دین ہی روحانی، جذباتی اور ایمانی محرکات میں سب سے

بڑا کامیاب ٹرک ہے جو انسان کے اندر شوقِ جہاد اور عشقِ شہادت کا ہوش اور دلولہ پیدا کرتا ہے۔
 ۹۔ شبِ نوح اور سلامتی افواجِ عمرؓ نے عقیدہٴ دور کی نقل و حرکت سنی تو انہوں نے خیال کیا کہ اس کا فوری تدارک نہ کیا گیا تو وہ بابلین کے محاصرہ پر اثر انداز ہو کر محصورین کے حوصلے بلند اور محاصرین کے حوصلے پست کر سکتی ہے۔ چنانچہ وہ بلا توقف اپنی فوج کا ایک حصہ قلعہ کے لئے چھوڑ کر باقی فوج کے ساتھ سمند کے قریب دشمن سے جا ملے۔ اور جب دیکھا کہ مسلمانوں کی جمعیت رومی سپاہ کے مقابلہ کے لئے کافی نہیں ہے۔ اور ایک ہی جھڑپ میں ان کا کافی نقصان ہو گیا ہے تو نہایت ہشیاری کے ساتھ بقیہ فوج کو بچا کر قلعہ کی طرف لے آئے اور اس مقابلہ سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ عقیدہٴ دور کو مسلمانوں کی شجاعت کا اندازہ ہو گیا اور اس کی فوجیں نہ تو مسلمانوں کے تعاقب میں ہی جرات کر سکیں اور نہ قلعہ بابلین کی مدد کو آسکے۔
 بڑھ سکیں۔

قلعہ کی دیوار پر چڑھنے کا واقعہ رات کے وقت پیش آیا اور اس معرکہ کو رومی طرح صیغہٴ رازہ میں رکھا گیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے خبری کے حملے سے دشمن کے حواس پر اگانہ ہو گئے اور ان کے قائد نے اس صلح کی تکمیل میں جلدی کی جس کے لئے وہ بہت پہلے سے تیار تھے۔ لیکن بلاوجہ دیر کر کے مسلمانوں کا وقت ضائع کر رہے تھے۔

۱۰۔ عمرؓ عثمانی عاصی کی ایک غلطی | اس میں شک نہیں کہ عمرؓ عثمانی عاصی نے رومی سپاہ کو تین دن کے فوج سے قلعہ بدر کر کے ایک سیاسی غلطی کا ارتکاب کیا۔ اور ان کی یہ فردگذاشت ان کے اس ارادے کے ساتھ کھلا تعارض رکھتی ہے کہ وہ اپنی افواج کی سلامتی کا پورا لحاظ رکھتے تھے۔ آخر اس میں کیا مصلحت تھی کہ دشمن کی فوج کو قلعہ سے نکال کر اپنے ہی مقابلہ کے لئے آزاد کر دیا گیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس حکم کو بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور ایسے بیماروں کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا جن کی طرف سے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ وہ دوبارہ بہتیا رہیں اور مقابلہ پر آجائیں گے۔

مورخین اگرچہ یہ بات بتاتے ہیں کہ رومیوں کا جلاوطن شدہ لشکر کہاں چلا گیا۔ لیکن ملک کے عمومی حالات اس بات کی طرف صاف اشارہ کر رہے ہیں کہ مصر پر بھی تک مسلمانوں کا مکمل قبضہ نہیں ہوا تھا۔ اور کئی مقامات پر رومی افواج مقابلہ کے لئے تیار ہو رہی تھیں۔ اس لئے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ قلعہ بدر رومی بھی اپنی کے ساتھ شامل ہو گئے ہوں گے۔ بہر حال مورخین جس طرح ان کی جلاوطنی کی وجہ بتاتے ہیں اس طرح اس بات کے بتانے سے بھی خاموش

ہیں کہ وہ جلاوطن ہو کر کہاں چلے گئے۔

بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ اگر ردی سپاہ کو قلعہ ہی کے اندر زیر حراست رکھا جاتا تو اس سے مسلمانوں کو کئی مشکلات پیش آجائیں مثلاً:-

۱۔ ان کی نگرانی کے لئے مسلمانوں کی کثیر فوج قلعہ میں رکھنی پڑتی جس سے مزید فتوحات کے لئے فوج کم ہو جاتی۔

۲۔ اتنی کثیر تعداد کے لئے خوراک کی فراہمی بھی ایک مسئلہ کی صورت اختیار کر جاتی۔

۳۔ خوراک کے علاوہ ان کی نگرانی کے لئے محکمہ نگران اور قید کی صورت میں محکمہ جیل کا قائم کرنا پڑتا۔ اور اس طرح کئی نئے مسائل کھڑے ہو جاتے جن کے لئے سر دست سلمان تیار نہ ہوتے اور ان کے پاس افرادی طاقت ملتی نہ تھی۔ بالخصوص اس حال میں جبکہ انہیں مستقبل قریب میں اسکندریہ کی سب سے بڑی جنگ ابھی لڑنی باقی تھی۔

(۴)

اسکندریہ اور ساحلی علاقہ کی فتوحات

اللہ تعالیٰ نے وہ شہر بھی فتح کرا دیا جس میں
چار ہزار محلات و قصور، چار ہزار حمام،
چار سو گھیل کے میدان، بارہ ہزار پھل فروش
اور چالیس ہزار ذمی یہودی آباد ہیں۔

(خط عمرو بن العاص بنام خلیفہ عمر بن)

اسکندریہ کی طرف پیش قدمی

عربی موقع | راہ عمرو جاتے تھے کہ اب سے تین ماہ بعد دریائے نیل میں طغیانی شروع ہو جائیگی اس لئے انہوں نے فوراً ہی حضرت عمروؓ کے پاس اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کی اجازت اور مزید فوجی امداد کے لئے پیغام بھیج دیا۔

۲۔ قلعہ بابلیون کی مرمت وغیرہ کر کے خارجہ بن حذاقہ کی سرکردگی میں ایک دستہ اس کی حفاظت کے لئے مقرر کر دیا۔ اور خود آئندہ نقل و حرکت کے لئے شاہ راہوں کی درستی اور دریائے نیل پر پل بنانے میں مشغول ہو گئے۔ اس کام میں واقف کار قبیلوں سے بہت کچھ امداد لی۔ تاکہ خلیفہ کی طرف سے اجازت آتے ہی فوراً بلا تاخیر اور پوری تیز رفتاری کے ساتھ اسکندریہ کی طرف کوچ کر دیا جائے۔

۳۔ چونکہ نیشی مصر میں دریائے نیل کے ڈیلے کو سیراب کرنے والی کئی نہریں نکلتی تھیں۔ اور یہ سب نیل کی مغربی شاخ کے مشرقی ساحل سے نکلتی تھیں جو فوج راستے میں حائل اور اس کی رفتار کو سست کرنے والی تھیں اس لئے عمروؓ نے اس سے مغربی ساحل کو اپنے سفر کا راستہ بنایا۔

رومی موقع | راہ ہرقل کی موت کے بعد روم کی بادشاہت اس کی بیوی مریتیا اور اس کے دو بیٹوں قسطنطین اور ہرقلیوناس میں تین جگہ تقسیم ہو گئی۔ لیکن ان میں سے قسطنطین بھی تین ماہ کے بعد فوت ہو گیا تو پھر اس کے بیٹے کونستانس نے اپنے باپ کے قتل کی ذمہ دار مریتیا کو گولتے ہوئے اس کے خلاف شورش برپا کر دی جس کا انجام یہ ہوا کہ کونستانس کو اس کے باپ کا حق دے دیا گیا۔ اور اس طرح اُسے قلیوناس کے ساتھ بادشاہت میں شریک بنا دیا گیا۔

۴۔ قیس قسطنطین واپس آ گیا اور مریتیا کی مہربانی سے اپنے سابق منصب پر فائز کر دیا گیا۔
۵۔ شہنشاہ روم نے ایک بہت بڑا لشکر تیار فرمایا اور اسے مصر کے دفاع کی خاطر اسکندریہ روانہ کر دیا۔

پیش قدمی | عمرو نے دریائے نیل کے ساحل پر صحرا کی طرف سے سفر شروع کیا جہاں نالوں سے خالی ہونے کی وجہ سے فوجی سفر کے لئے مناسب تھا۔ اس سفر میں اس نے اپنے ہمراہ بھروسہ کے قابل قبلی سردار امدل کو بھی لے لیا تھا۔ تاکہ وہ اہل ملک ہونے کی وجہ سے مناسب رہنمائی بھی کریں اور ضرورت پیش آنے پر اہل مصر اور عربوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض بھی انجام دیں۔

ایک روایت کے مطابق سفر کے وقت عمرو کا خیمہ اکھاڑا جانے لگا تو معلوم ہوا کہ اس میں ایک کبوتری تے انڈے سے لگے ہیں عمرو نے فوج کو خیمہ اٹھانے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ یہ ہمارا قابل احترام ساتھی ہے۔ اسے تکلیف نہ ہو۔ اور اس وقت تک خیمہ کو یوں ہی لگا رہنے دو جب تک کہ یہ انڈوں میں سے بچے نکال لے امددہ ہندش پا کر اڑ جائیں۔ دوسری روایت میں اس پر یہ اعزاز بھی ہے کہ کبوتر کی حفاظت کے لئے ایک چوکیدار بھی مقرر کر دیا گیا۔

طوفان | عمرو کا ارادہ براہ راست نقیوس پہنچنے کا تھا جہاں رومیوں نے اپنی فوجیں جمع کر رکھی تھیں لیکن رومی مسلمانوں کی پیش قدمی روکنے کے لئے طوفان اچکے تھے

اسکندر یہ جانتے کے لئے اس مقام پر دریائے نیل کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ اور صحرا لیبیا کے قبلی علاقوں کی طرف یہاں سے ایک شاہراہ بھی نکلتی ہے۔ اسی اہمیت کی بنا پر رومیوں نے یہاں سخت دفاعی جنگ لڑی اور شجاعت دیہادری کا زبردست مظاہرہ کیا۔ لیکن بالآخر شکست کھائی اور فوجوں کی ہزیمت کے بعد عمرو دین العاص کو شہر پر قبضہ کرنے میں کوئی خاص وقت

نہیں ہوتی تھی۔ نقیوس | نقیوس ایک شاندار شہر ہونے کے ساتھ ساتھ مستحکم قلعہ بھی ہے جو نیل کی مغربی شاخ

۱۴۰ مدیریۃ البحر

۱۴۱ مدیریۃ المنوفیہ

۱۴۲ اس کا ایک نام طوقہ بھی ہے۔ عرب اس کو طواف کہتے ہیں۔ اس کا محل وقوع رزین کے زاویہ کے

مقابل اور منوف جنوب میں ہے طبری نے اس کا نام مروہ لکھا ہے۔ مگر یہ تحریر کی غلطی معلوم ہوتی ہے

جلد ۲ صفحہ ۱۹۷

۱۴۳ آج کل نقیوس کی جگہ ساحل نیل پر منوف کے شمال مغرب میں شب شیرامی بستی آباد ہے۔

۱۴۴ رستش کی شاخ

کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ جس کا فاصلہ بائبلون سے ایک دن کی مسافت ہے اور صوف سے صرف دو گھنٹے کے برابر۔ اس جگہ دو فرسخہ کے کچھ آثار قدیمہ بھی موجود ہیں۔ یہ شہر ایک بہت بڑے سبھی رہنما کی قیام گاہ ہونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ مشہور ہے۔ اور چونکہ اسکندریہ اور بائبلون کی درمیانی شاہراہ پر واقع ہے۔ اس لئے سیاسی اور جنگی اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس وجہ سے عمرو نے اسے بلا تخریب چھوڑ کر اسکندریہ کی طرف بڑھنا مناسب نہ سمجھا۔

اس شہر کا سپہ سالار دو مہینوں تک اس کے پاس ایک معمولی سی جمعیت اور محدود سے چند کشتیاں تھیں جن پر سوار ہو کر اسے سٹانوں کے مقابلے کے لئے نکلنا تھا لیکن جونہی اس کی نظر مسلمان سپاہ پر پڑی اسی کے دل پر دہشت طاری ہو گئی اس کے قوسے عمل نے جواب دے دیا اور وہ فوج کو وہیں چھوڑ کر اپنی خاص کشتی میں بیٹھا اسکندریہ کی جانب بھاگ گیا۔ فوج نے اپنے سالار کو بھاگتا دیکھا تو اس نے بھی ہتھیار چھینک کر کشتیوں کا رخ کیا۔ لیکن فاتح ان کے پیچھے سے پیسے ہی اپنی جانیں بچانے کے لئے کشتیوں کے ٹکر کاٹ چکے تھے۔

ابھی سر اسینگی کی حالت میں بلا ہتھیار فوج پانی ہی میں تھی کہ عرب حملہ آوروں نے انہیں جالیا اور ایک ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان میں سے صرف ایک فرد بیچ سا جس کا نام ذکر یا تھا۔ اس کے بعد عرب شہر میں داخل ہو گئے۔ اور اسے خراج کر لیا۔

حنانقیصی کی روایت ہے کہ "عرب شہر میں داخل ہوئے اور جس جس کو بھی راستے میں پایا قتل کرتے گئے یہاں تک کہ اگر کسی نے کینسہ میں داخل ہو کر بھی پناہ لینی چاہی تو وہ بھی ان کی تلوار سے نہ بیچ سکا۔ نہ انہوں نے کوئی مرد چھوڑا نہ عورت اور نہ بچہ۔ اس کے بعد شہر کی مضافاتی بستیوں میں بیچ کر غارت گری کی۔ شہر صوفاپنچے تو وہاں قھیوڈر کا ایک رشتہ دار اسکو تاؤس اپنے بال بچوں کے ساتھ انگور کے ایک باغ میں چھپا ہوا تھا۔ ان سب کو عربوں نے بھی نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔"

اسے حنانقیصی نے اس روایت میں عربوں کے خلاف اپنے حسبِ لازم بھرا ہے۔ اس لئے کہ مسلمانوں نے اپنی کسی جگہ میں بھی اس واضح ہدایت کی خلاف ورزی نہیں کی کہ "ان کے طلبوں، بوڑھوں، عورتوں، بچوں اور راہبوں کو کسی حال میں قتل نہ کرو۔" اور اس کی سخت تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی طرف سے (باقی حاشیہ اگلے پر)

شہر نقیوس فتح ہو چکا تو جو رومی کشتیاں نیل پر پڑی ہوئی تھیں وہ منتشر ہو گئیں اور راستہ تمام رکاوٹوں سے خالی ہو گیا۔

کرم شریک | عمرو نے چند روز نقیوس میں قیام کیا اور اسی دوران میں اپنے ایک بہادر ساتھی شریک کو بھیجو ڈوڈ کی فوجوں کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ یہ فوجیں اسکندریہ کی طرف جا رہی تھیں مسلمانوں کی اسکیل کی مسافت پر طرزیوں کے قریب جا پڑا۔ تین دن تک شدید مقابلہ ہوا جب رومی مسلحوں کا گھیراؤ اٹھنے میں کامیاب ہو گئے تو شریک نے خلا سے کورقیا پاکر مالک بن نعامہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے اشتر گھوڑے پر سوار ہو کر رومی محاصرہ کو چیرتا ہوا برق رفتاری کے ساتھ عمرو بن عاص کو میدان کی نزاکت سے باخبر کر دے۔

مالک نے تعمیل حکم کی۔ رومیوں نے ہزاروں کوشش کی کہ کسی طرح مالک کو پکڑ لیں لیکن ناکام رہے جو نبی حضرت عمرو بن العاص کو یہ پیغام بلا انہوں نے بلا تاخیر برق رفتار ملک روانہ کر دی۔ امداد کا پہنچا تھا کہ رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور شریک کی مٹی بھر جاعت سے زخم سے نکل آئی۔

جس موقع پر یہ جنگ پیش آئی اس کا نام کرم شریک (یعنی شریک کا ٹیلہ) رکھ دیا گیا۔ کریون | عمرو ڈوڈیوں کے تعاقب میں ان کو دھکیلتے ہوئے دلجوئی تک لے گئے۔ وہاں سے دمنہور کا رخ کیا۔ سنگھیس کے مقام پر رومیوں کے ساتھ سخت معرکہ پیش آیا جس کے نتیجے میں رومیوں کو شکست ہوئی اور ان کے پاؤں ایسی بُری طرح اکھڑے کہ وہ دمنہور میں رُکے بغیر نہ بے اسکندریہ کا رخ کر کے قلعہ کریون پہنچے جہاں بھیجو ڈوڈ سے پھر ایک دفعہ رومیوں کی کثیر تعداد فوج اکٹھی کر کے

ریقہ حاشیہ منور گزشتہ ہمیشہ کی جاتی رہی ہے۔ اس نے نقیوسی کا یہ بیان سرا سر کذب و افتراء اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔

سے ابن عبدالمکرم کی روایت میں کرم الشریک ابن بطریق کی روایت میں کرم شریک لکھا ہے۔

سے مقرزی کی روایت میں سنگھیس، ابن بطریق کی روایت میں سلستان (SALSTAN) اور بعض دوسری روایات میں میامیس آیا ہے۔ ادرہ کریون اور کرم شریک کے درمیان دمنہور سے چھریل جزب کی ایک بستی کا نام ہے۔

سے باہیون اور اسکندریہ کے درمیان جتنے بھی قصبے ہیں ان میں اسکندریہ کے قریب سب سے آخری قلعہ کریون ہی ہے یہ گندم کی سب سے بڑی منڈی ہونے کے علاوہ سیاسی اعتبار سے بھی بہت اہم ہے۔ اس لئے کہ اسکندریہ (باقی حاشیہ لگے منظر)

مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنا حوصلہ نکالنے کی تیاری کر رکھی تھی۔ اور اسے یقین تھا کہ شہر کی بیرونی نہر اور اندرون شہر کا مستحکم قلعہ دونوں چیزیں اس کی خاطر خواہ امداد کریں گی۔ اور اسکندریہ جانے کا راستہ اس کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جس کے ذریعہ مسلمان بالابالا شہر میں داخل ہو سکیں۔ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اور دوران جنگ میں منگیس، خمیس، سخا اور طیب وغیرہ مقامات سے رومیوں کو تازہ دم امداد پہنچتی رہی۔ لڑائی تقریباً بارہ چودہ دن تک طول پکڑ گئی۔ مسلمان ہمت باندھ باندھ کر سخت سے سخت حملہ کرتے تھے۔ لیکن رومی ہر حملہ برداشت کر جاتے۔ آخر کار نصرت یہاں تک پہنچی کہ مسلمانوں نے غازیخوف ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعائے نصرت مانگی جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ رومی شکست کھا کر اسکندریہ کی طرف بھاگ گئے اور شہر مع قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔

کریون کی فتح کے بعد اسکندریہ کا راستہ بالکل صاف تھا۔ عمرو نے یہاں کچھ عرصہ اپنی فوج کو آرام دیا اور اس کے بعد وہاں سے بلا مزاحمت سیدھے اسکندریہ جا پہنچے۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کریون کی جنگ میں عربوں کی کمان عمرو کے بجائے ان کے غلام دوران کے ہاتھ میں تھی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص اس لڑائی میں زخمی ہو گئے۔ تو انہوں نے دردان سے بعزنی آرام کیمپ کی طرف لوٹ جانے کی اجازت مانگی تو ان سے دردان نے پوچھا کیا آرام کرنے کے لئے جانا چاہتے ہو؟ سن لو آرام تمہارے آگے ہے پچھپے نہیں ہے۔ یہ بات کر کے دونوں آگے کی طرف بڑھ گئے اور رڑتے رہے۔ عمرو کو بیٹے کے زخمی ہونے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے کسی آدمی کو ان کی خبریت معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جواب میں عبد اللہ نے چند اشعار پڑھے جن کا مطلع یہ تھا

أَقُولُ لَهَا إِذَا اجْتَأَتْ وَجِاشَتْ مَكَائِبُ حَمْدِي أَدُوسِي نَحْبِي

ابن عبد العاص کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور انہوں نے رومیوں کو خوب قتل کیا اور اس کے بعد ان کا بیٹا اسکندریہ تک نہ چھوڑا۔

ابن عمرو کے اسکندریہ تک پہنچنے اور راستہ کی فتوحات وغیرہ میں بائیس جینے گئے۔
سے معترفی کا بیان ہے کہ عبداللہ نے صرف ایک ہی شعر پڑھا تھا۔ اور اس شعر کا اصل قائل عمرو بن الاطابہ ہے۔

رجب وہ اپنے اور جوش مانے لگتی ہے تو میں سے کہتا ہوں کہ دیکھو اپنے محاذ کو نہ چھوڑو
راحت حاصل کرنی ہے تو اسی جگہ حاصل کرو اور حد بیان کرنی ہے تو اسی جگہ بیان کرو
عمر نے بیٹے کا یہ پیغام سنا تو خوشی سے اُچھل پڑے اور فرمایا کہ یقیناً میرے بیٹے کو ایسا ہی ہوا چاہیے

فتح اسکندریہ

عرب اسکندریہ کے قریب پہنچے اور اس کے در و دیوار پر نظر ڈالی تو ان پر حیرت و استعجاب کا عالم
ظاہر ہی ہو گیا۔ اور دمشق بیت المقدس اور انطاکیہ کے منافرجن سے وہ اب تک مرعوب تھے۔ سب
اسکندریہ کے سامنے گرد ہو کر رہ گئے۔

یہ وہی اسکندریہ ہے جسے اسکندر اعظم نے بحر ابيض پر تعمیر کیا اور اپنے ہی نام پر اس کا نام بھی
رکھا۔ اور اب اسکندر اعظم کی اسی یادگار کو عمرو بن العاص اسلامی یادگار بنانے آئے ہیں اب وہ
اس کی سر زمین پر اس کے محلات و قصور پر، اس کے قبول اور میناروں پر سکندر اور اسکندریہ
دونوں کے حقیقی مالک خدا سے واحد و تبارک عیدیت کا علم لہرانے کا عزم کر چکے ہیں

اسکندریہ رومانی شہنشاہی کا دوسرا دار الخلافہ اور ساری دنیا کا اہم تجارتی مرکز تھا۔ اور اسی
اہمیت کی بنا پر رومیوں اور ان کے پیشرو بطلانس نے ہمیشہ اس کی قلعہ بندی اور استحکام کو اولین
حیثیت دی تاکہ فارس، گران دنیا اور فاتحین عالم اس کو کسی طرح کا صدمہ نہ پہنچا سکیں۔

اسکندریہ اپنی رونق، خوبصورتی، چمک دمک، استحکام، فصیول، عمارتوں، بازاروں، بھلوں، اور
باغوں کے لحاظ سے یکتائے زمانہ ہونے کے ساتھ ساتھ انجینیئری کا شاہکار اور اپنے سیاسی و جزائی
عمل و قمع کے لحاظ سے بہت بڑی عظمت کا حامل تھا۔

اصطخری کہتا ہے کہ "اسکندریہ کی تعمیرات میں زشوں، ستونوں اور دیواروں کے لئے زیادہ تر
سنگ مرمر ہی استعمال کیا گیا ہے"۔

سیوطی کہتا ہے کہ سارا شہر دن کی طرح رات کو بھی سفید، براق اور چمکدار دکھائی دیتا ہے۔۔۔"

۱۵ ابوابیم بن محمد اصطخری -

۱۶ مسالک الممالک جلد ۱ ص ۵۱ -

۱۷ حسن المحاضرہ -

”چونکہ اس کے فرش فردش اور در و دیوار میں سفید براق مرمر لگایا گیا ہے اس لئے نما ہوں اور تاریکین دینا نے اپنے باس کارنگ سیاہ قرار دے لیا تھا۔ اور جب ان میں سے کوئی شہر میں داخل ہونے پر مجبور ہوتا تو آنکھوں پر پردہ ڈال کر داخل ہوتا تھا۔ تاکہ اس عروس دنیا کے چہرے پر اُس کی نظر پڑ کر ضبطِ اعمال کا سبب نہ بن جائے۔“ کوئی جلاب اگر چاہتا کہ رات کے وقت سوتلی میں دھاگہ پر دستے تو وہ اپنے چراغ کے بجائے اُس چمک میں پڑتا تھا جو چاند کی چاندنی سے سفید رنگ مرمر میں پیدا ہوتی تھی۔

مسعودی کہتا ہے کہ لوگ مرمر کی چمک چوند سے بچنے کے لئے عام طور پر بزرنگ کے پردے راستوں پر ڈال دیا کرتے تھے۔

”راستے جتنے بھی تھے ستونوں کے درمیان سے نکلتے تھے بڑی شاہراہیں دو تھیں ایک مشرق سے مغرب کو باب الشمس سے باب القمر تک نکل جاتی تھی اور دوسری جنوب سے شمال کی طرف چلی جاتی تھی۔ اور دونوں کے چوراہے پر ایک وسیع میدان تھا جس کو باغیچوں اور محلات و قصور سے آراستہ کیا گیا تھا۔“

سیوطی نے ابن عبدالحکم سے نقل کیا ہے کہ ”اسکندریہ تین علاقوں پر تقسیم تھا۔ معری علاقہ رومی علاقہ اور یہودی علاقہ ہر علاقہ کی ایک جداگانہ اپنی تفصیل بھی تھی اور ایک سب سے بڑی مشرق و فصل تھی جو تینوں علاقوں کی بیک وقت حفاظت کرتی تھی۔“

حنا سکوس کہتا ہے کہ ”شہر کے وسط میں بھی بہت سے باغات موجود تھے۔“

عبدالقدیر غریف کہتا ہے کہ ”شہر میں سات قلعے اور سات خندقیں تھیں۔“

سیوطی کہتا ہے کہ ”اسکندریہ جیسا متحدہ شہر دنیا کے تھے پر کہیں نہیں پایا جاتا۔“

اسکندریہ میں بلند اور ضخیم میدانوں کی کمی نہیں تھی۔ بطابستہ کے محلات سے یہ شہر بھرا پڑا تھا اسی میں وہ عظیم الشان مقبرہ ہے جس میں اسکندر اعظم کی لاش سونے کا پرت چڑھا کر رکھی گئی ہے۔

مقبرہ تتراموس کے گیلینہ ماہیادریا کے گیلینہ مرتضیٰ کے گیلینہ مقبرہ اور گیلینہ قیصریوں اسی شہر میں ہیں۔

۱۷ مقصد یہ ہے کہ چاند کی چاندنی میں مرمر کے اندر بہت زیادہ روشنی پیدا ہوتی تھی۔

۱۸ مروج الذهب ص ۲۹

۱۹ یہ ستونوں سے گھرے ہوئے برآمدے کے درمیان ایک عالی شان محل ہے کی ایک روایت کے مطابق اسکندر نے ارمیاہ پیغمبر کییاں دفن کیا تھا اور اسی وجہ سے لوگ اس مقبرے کا بیحد احترام کرتے ہیں (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

عربوں کے دلوں میں جس عمارت نے سب سے زیادہ اثر کیا وہ سراپوٹم ہے جو دراصل کئی خوبصورت عمارتوں کا ایک حسین مجموعہ ہے۔ اور یہ عمارت مصری علاقہ میں اُس موقع پر ہے جہاں دقلدیانوس کا مینار بنا چوا ہے اور جیسے عربوں نے عمرو السواری کا نام دے دیا ہے۔ اس کے پہلو میں بہت اونچے طلائی تہے والی ایک اور عمارت ہے جو ستونوں پر قائم ہے۔ اور اس کا نام اٹوس ہے۔

سب سے زیادہ حیرت انگیز وہ منارہ ہے جسے جہازوں کی رہنمائی کے لئے بطلیموس فلاولوس کے عہد میں سوستراتوس کنیدی نے تعمیر کیا تھا۔ یہ منارہ عربی فتوحات کے وقت صحیح حالت میں تھا دن کے وقت سورج کی روشنی سے چمکتا تھا اور رات کے وقت اپنی روشنی سے یہ کئی فرسخ کے فاصلے سے دکھائی دیتا تھا۔

مجاو جنگ یہی اسکندریہ آج مجاوجنگ ہے۔ اس کی محافظ فوج پچاس ہزار کے لگ بھگ ہے جس کے لئے سلمان رسد بھی واقف مندار میں شہر کے اندر موجود ہے۔ چاروں طرف نہایت مستحکم فصیلیں ہیں جن پر جدید ترین آلات حرب اور بڑی بڑی طاقت کی بمبھیتیں نصب ہیں۔

(بقیہ حاشیہ منور شدہ) سب سے اس کا بانی اور جیوس بتایا جاتا ہے۔

حاشیہ حاشیہ منور شدہ کہ یہ گینہ شہر کے ایک دروازے کے قریب مندر کے کنارے واقع ہے (مشہور) اور کونوس کا بیان ہے کہ جب تم مصر کی طرف سے شہر میں داخل ہو تو قریب شہر کے شمال میں ایک بہت بڑا گینہ دکھائی دے گا جس میں مرقس انجلی کا جڑ دن ہے۔ جگینہ کے شمال حصہ میں بالکل خراب کے سامنے ہے اور اُس کے اوپر رنگ مرمر کا ایک ستون بطور نشان کھڑا کر دیا گیا ہے۔

یہ شہر کا سب سے بڑا حصہ ہی ہے جو شہر کے سب سے بڑے حصے پر دیووں میں واقع ہے۔ اور اپنی عظمت و شان کی وجہ سے گینہ بکری کا مقام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے صحن میں دو قدیم قرارے تھے اس گینہ کو عجیب و غریب تقادیر اور نقش و نگار سے مزین کیا گیا تھا۔ چاندی سونے کے زیروں نے اسے بالکل دلہن بنا دیا تھا اُس زمانہ میں قریبیاں اور نذرانے پیش کئے گئے اس سے بڑی کوئی دوسری قرآن گاہ نہیں تھی۔ حاشیہ منور شدہ نے اسے تعمیر چیل کہا ہے۔ یعقوبی کا بیان بھی یہی ہے کہ اس میں رنگیں اور نقشیں پتھروں کے بنے ہوئے دو فرارے تھے۔

ابن حوقل کہتا ہے کہ اس کی تعمیر شاید پتھروں سے کی گئی تھی جنہیں سیسہ کے ذریعہ جوڑا گیا تھا (بانی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

شمال میں شہر کی حفاظت سمندر کر رہا ہے۔ جنوب میں بحیرہ عرب اور ایک نہر کا قطعہ ہے۔ اور مغرب میں نہر ثعبان اس کا پہرہ دے رہی ہے۔

اور اب عربوں کی پیش قدمی کے لئے صرف ایک رخ یعنی... کچھ حصہ جنوب مشرقی باقی رہ گیا ہے۔

فریقین کے آلات جنگ جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، تیمم فضیلیں اسکندر یہ کام سب سے بڑا دفاعی ہتھیار ہیں۔

اس کے علاوہ پردھیوں کے پاس دیوبل مخنیقوں کی کمی نہیں ہے جن کے ذریعے وہ فضیل پر چڑھ کر بھاری بھاری پتھروں کی بارش برسات سکتے ہیں۔

لیکن عربوں کے پاس قلعہ شکن آلات میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ مفتوحہ علاقوں کے مالی غنیمت میں جو آلات ان کے قبضہ میں آئے تھے انہیں بھاری ہونے کی وجہ سے دوسری جگہ منتقل ہی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

پس لے دے کر ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے تو ان کے عربی گھوڑوں سے ہیں جنہیں وہ ہر میدان میں ڈال دیتے ہیں۔ یا پھر ایمان راسخ، عشق جہاد، ثابت قدمی اور شجاعت و شہامت کے اخلاقی ہتھیار ہیں جنہیں وہ فلاؤ کے ہتھیاروں نے زیادہ قابل اعتماد اور کارگر سمجھتے ہیں۔ اور اب تک ہر میدان میں یہی ان کے امتیازی ہتھیار رہتے آئے ہیں۔

حاذق کا جائزہ | ابتداریں عمر و قحط کا نقشہ جنگ یہ تھا کہ وہ عادت کے مطابق شہر کا کئی محاصرہ کر لیں۔

لیکن تین اطراف میں پانی ہونے کی وجہ سے محاصرہ صرف خشکی ہی کی طرف ہو سکتا تھا۔ اور وہ بھی شہر سے دور مخنیقوں کی زد سے بچ کر اس لئے کہ اہل عربی حملہ میں مسلمان مخنیقوں کی تنگ باری کا تلخ تجربہ کر چکے تھے۔ اس لئے عمر و نے صرف اس بات پر اکتفا کیا کہ اسلامی فوج اپنے کیمپوں ہی میں پڑی رہے۔

بقیہ حاشیہ منور گزشتہ | ایسی تعمیر کی مثال دنیا میں کسی دوسری جگہ نہیں ملتی اور ایسی کہتا ہے۔ کہ ایسے سخت پتھر اور پھران کے جوڑنے کا ایسا مضبوط مسئلہ اور ترتیب کا ایسا ڈالا وٹنگ دنیا کے کسی خطے میں نہیں پایا گیا

۲۔ اصطلاحی کہتا ہے کہ اس عمارت میں تین سو سے زیادہ کمرے ہیں جن کی سیر کی رہنا کے بغیر ممکن نہیں

۳۔ مغربی نے بھی اپنے الفاظ میں اس کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عمارت میں دروازوں، راستوں

اور منزلوں کی اتنی بھول بھلیاں ہے کہ جو ذرا ٹری بھی داخل ہوتا ہے۔ وہ سرگرمیاں ہرگز راستے سے ہٹک جاتا ہے۔ (بقیہ حاشیہ منور گزشتہ)

مسلمانوں کا سکندریہ کے دروازے پر اس طرح پڑے رہنا بھی مفید ہی رہا۔ کیونکہ اس ناکہ بندی سے سکندریہ کا تعلق بیرونی دنیا سے کچھ قطع ہو گیا تھا اور اسل دراصل دراصل کا تقطاع بھی ایک بہت بڑی موثر تدبیر جنگ ہے۔

شہر کے فتح ہونے کی اب صرف ایک ہی صورت رہ گئی تھی۔ اور وہ یہ کہ رومی افواج محاصرہ سے تنگ آ کر میدان میں نکلیں اور پھر مسلمان انہیں شکست دے کر پیچھے دھکیلتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہی شہر کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور عمرو کو یقین تھا کہ جلد یا بدیر ایسا ہی ہوتا ہے۔ رومی افواج اپنی کثرت تعداد کے بھرپور سے پرکھی نہ کبھی شہر سے باہر ضرور نکلیں گی۔ اور ہمارا کام بن جائے گا۔

اس کے علاوہ عمرو کو یہ بھی احساس تھا کہ گرمی کا موسم ہو اور موسم کے ساتھ ہی نیل کی طبعیاتی قریب ہے جس کے بعد اسلامی فوجوں کی نشیبی مصر کی طرف مراجعت آئے گی اس لئے انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ وہ سکندریہ کی ان مضافاتی بستیوں میں فروکش ہو جائیں جن کے مالک انہیں خالی کر کے سکندریہ بھاگ گئے ہیں۔

نقشہ جنگ | محاذ جنگ کا مذکورہ بالا جائزہ لینے کے بعد عمرو نے مندرجہ ذیل خطوط پر نقشہ جنگ مرتب کیا :-

- ۱- فوج کا ایک حصہ سکندریہ کی ناکہ بندی کے لئے اسی جگہ پڑاؤ ڈالے رہے۔
- ۲- اس کے ساتھ ساتھ نشیبی مصر کی فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رہے۔
- ۳- رومیوں کے متروکہ محلات و قصور کے بلبے سے باغیوں کے قریب نیل پر ایک پل تعمیر کیا جائے۔

مسلمانوں کا شہر میں داخلہ اور سپاؤں | ابھی عمرو اس منصوبہ پر عمل شروع کرنے بھی نہ پاسے تھے کہ ان کی خواہش پوری ہوئی۔ رومی مقابلہ کے لئے میدان میں نکل آئے۔ گھسان کی جنگ ہوئی اور مسلمان رومیوں کو دھکیلتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن اندر داخل ہوتے ہی رومیوں کا ڈیرہ پڑھ گیا اور وہ مسلمانوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) | سلطہ سیرمی کو بیان ہے کہ جس جگہ عربوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ حلوہ اور قصر فاروس کے

درمیان کا میدان تھا۔ قصر فاروس سکندریہ کے مشرق میں واقع ہے۔ ابن عبد الحکم نے بھی اس کی تائید میں لکھا ہے کہ

عوب و درواہ تک حلوہ میں رہے۔ فارس کا نام بعض کتابوں میں قصر فاروس ہی آیا ہے۔

ایک عجیب واقعہ | اس حملہ میں مسلمانوں کے دو آدمی اندر ہی رہ گئے۔ جن میں سے ایک خود عمروؓ اور دوسرے مسلم بن مخلد۔ رومیوں نے ترجمان کے ذریعہ ان سے بات چیت شروع کی اور کہا دیکھو تمہارے ساتھی ہمارے آدمیوں کو پکڑ کر لے گئے ہیں اور تم ہمارے قبضے میں ہو۔ معاملہ کا اس طرح تصفیہ کرو کہ ہم تمہیں قتل کرنے کی بجائے اپنے آدمیوں کے ذریعہ میں آزاد کر دیتے ہیں تم ہمارے قیدیوں کو آزاد کر دو۔ لیکن انہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ رومیوں نے دوسری متبادل صورت یہ پیش کی کہ "تمہارا ایک آدمی ہمارے ایک آدمی سے مقابلہ کرے۔ اگر ہمارا آدمی غالب آجائے تو تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ اور اگر تمہارا آدمی غالب آجائے تو ہم تمہیں آزاد کر کے تمہارے ساتھیوں کے پاس بھیج دیں گے۔" وہ اس شرط پر رضی ہو گئے۔ رومیوں کی طرف سے ایک جنگجو بہادر سامنے آیا جو اپنی بہادری شجاعت میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ اس عمر سے عمرو نے اس کی طرف بڑھتے کا قصد کیا۔ لیکن مسلمانوں نے فرار دیا کہ ہائیں یہ کیا کرنے لگے ہو، دہری غلطی کرتے ہو، تم امیر لشکر ہو، مسلمان تمہاری طرف سے سخت فکر مند ہوں گے کہ یہ معلوم تمہارا کیا شہر ہوا۔ اگر بات بگڑ گئی تو مسلمانوں کے دل ٹوٹ جائیں گے اور سارا انتظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ٹھہر جاؤ، تمہارا منشا رائد نے چاہا تو میں پورا کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی مسلمہ رومی کی طرف چھپے اور قابو پاتے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ رومیوں نے اپنا معاہدہ پورا کیا اور انہیں تلے سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد جب رومیوں کو پتہ چلا کہ ان میں تو خود سپہ سالار عمروؓ بھی موجود تھا تو بے حد پشیمان ہوئے اور مخالف سردار کے اس طرح ہلکنے پر کف افسوس کئے رہ گئے۔

اس واقعہ کے متعلق دوسری روایت | اورونگ اپنی کتاب "تاریخ معاصرین محمد میں لکھتا ہے کہ عمروؓ نے حاکم شہر کے سامنے ہنح کر ایسی گفتگو کی جس سے ان کی بہادری اور سرداری کا خیال ہوتا تھا اس لیے حاکم کو ان کے سردار ہوتے کا شبہ ہوا اور اس نے ان کے قتل کا حکم دیدیا۔ عمروؓ کا غلام دروان جو ان کے قریب ہی کھڑا تھا اس بات کو سنا اور حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے عمروؓ کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور کہا "ادکے" اپنے سرداروں کے سامنے لب کشائی کر رہا ہے۔ زبان بند کر۔" پھر رومی حاکم سے مخاطب ہو کر بولا کہ ہمارے غیبیہ نے ہمارے سپہ سالار عمروؓ بن عاص

کے پاس ایک فرمان بھیجا ہے۔ جس میں اسے محاصرہ ختم کرنے اور رومیوں کے ساتھ صلح کر لینے کا حکم دیا ہے اور حاکم کو مشورہ دیا کہ یہ شخص صلح کی گفت و شنید کرنے کے لئے درمیان رابطہ کا کام بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ چنانچہ حاکم نے دردان کی رائے منظور کر لی اور عمروؓ کو آزاد کر دیا۔ ایک اور جھڑپ ایک دفعہ اور بھی اسی طرح رومی شہر سے باہر نکل کر حملہ آور ہوئے۔ اور مہری قبیلہ کے ایک آدمی کا سر کاٹ کر لے گئے مہریوں نے عہد کر لیا کہ وہ اپنے آدمی کو سر کے بغیر ہرگز ورنہ نہ کریں گے۔ اس پر عمروؓ نے یہ تدبیر تیار کی کہ آئندہ جب بھی رومی باہر نکلیں تو تم ان پر حملہ کر کے ان کے ایک آدمی کا سر کاٹ لینا اور پھر اس شرط پر واپس کرنا کہ وہ تمہارے آدمی کا سر دے دیں چنانچہ یہی ہوا۔ جب رومی حملے کے لئے نکلے تو مسلمانوں نے ان کے ایک بھائی کا سر کاٹ لیا اور پھر اس کے ساتھ مہری کے سر کا تبادلہ کر لیا۔

سریہ عمروؓ اس کے بعد عمروؓ نے فوج کو محاصرہ جاری رکھنے کا حکم دیا اور خود ایک مختصر سا دستہ لے کر گریون ہوتے ہوتے دہنوڑ پہنچے۔ اور وہاں سے مشرق کی سمت مرطکہ اس صوبہ میں پہنچ گئے جس کا موجودہ نام غریبہ ہے۔ شہر سخا ان کا نشانہ تھا اور وہ اس پر بے خبری کے حال میں اپنا کھچا پر مارنا چاہتے تھے۔ لیکن قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ شہر کا احاطہ نصیبوں اور نہروں سے کیا گیا ہے اس لئے وہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بقیع حنا نقیوسی عمروؓ کا سخا پر کئی تابوڑ چل سکا۔ عمروؓ سخا سے پٹ کر جزئی بستیوں کی طرف لڑا تے ہو گئے۔ پہلے طوخ پر کیمپ ڈالا اور پھر اس کے بعد مسیس پہنچے لیکن یہ دونوں بستیاں بھی عربوں کے حملے سے ڈٹ گئیں جنہیں عمروؓ دشوار سمجھ کر واپس ہو گئے۔

۱۶۵) کندی کہتا ہے کہ محاصرہ اسکندریہ تین مہینے جاری رہا۔ مقررہ چار ماہ بتلا تا ہے (جلد ۱ ص ۱۶۵)

ابن عبد الحکم (ص ۲۲) سیوطی (جلد ۱ ص ۵۳) اور اردو لکھنے بھی اسی کی تائید کی ہے۔

۱۶۶) عمروؓ کو امید نہیں تھی کہ اسے اس علاقہ میں کوئی جنگ پیش آئے گی۔ اس لئے زیادہ فوج کی ضرورت نہ

گئی۔ کیونکہ اس کی ضرورت فقط بتہ شہروں میں پیش آتی ہے۔

۱۶۷) یہ شہر طحا کے شمال میں ۲۲ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔

۱۶۸) وہاں ص ۱۶۷

۱۶۹) یہاں طوخ سے مراد یا تو وہ طوخ مزید ہے جو صوبہ غریبہ میں واقع ہے۔ یا قبلیہ کا طوخ اکلام مراد ہے

(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ایک روایت کے مطابق عمرو نے نعل و حرکت میں ۱۲ مہینے خرچ کیے یہاں تک کہ وہ شہر دماط تک جا پہنچے۔ لیکن بقول حنفیسی عمرو اس علاقہ کے شہروں کو فتح نہیں کر سکا۔
 مہرچہ خاضعہ مضافوں کو معلوم ہوا کہ صوبہ صعید میں رومی اقواج صحیح ہیں تو انہوں نے خارجہ بن حذافہ کی سرکردگی میں ایک دستہ اس طرف روانہ کر دیا۔ یہ دستہ شہر الطوبہ پہنچا تو شہر والوں نے صوبہ کے گورنر حنا کو اس کی اطلاع دی اور اس سے جنگ کے لئے تیار ہونے کا مطالبہ کیا۔ لیکن اس کے دل میں عربوں کا خوف پیدا ہو گیا اور اس نے یہ سوتلج کر کہ میرا حشر بھی کہیں ویسا ہی نہ ہو جیسا قیوم مالوں کا ہو چکا ہے اس نے قومی خزانہ اپنے ساتھ لیا اور قوم کو چھوڑ کر اسکندریہ کی طرف بھاگ گیا۔

صوبہ صعید کی فتوحات اس مقام پر مکمل ہو گئیں اور اس کے اکثر بیشتر رومی علاقہ کو خالی کر گئے جو قدر قلیل باقی رہے۔ انہوں نے مکمل طور پر اطاعت قبول کر لی۔

اسکندریہ کا اندرونی خلفشار | رومیوں میں گروہی اور قومی تفریق پیدا ہو گئی۔ اور سیاسی سطح پر وہ بڑی جماعتوں رومِ اخضر اور رومِ ارتق (یعنی یمن رومی اور نیلے رومی) میں تقسیم ہو گئے۔ اور اس اختلاف میں ایسے اندھے ہوتے کہ انہیں اپنا وہ مشترک اور طاقتور دشمن بھی دکھائی نہ دیا جو اسکندریہ کے عین دروازے پر دستک دے رہا تھا اور جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز وہ اپنے بہرے کا نون تک سے سن رہے تھے۔

حنفیسوی کا بیان ہے کہ اس اختلاف کی اصل بنیاد دینی فرقہ بندی کے سوا کوئی دوسری نہیں تھی پھر اس نے ان کے باہمی جنگ و جدل کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بڑے بڑے لکھا کہ "یہ سارا کرشمہ ان کے ذاتی مفاد پرستی کا تھا۔"

قیس کی واپسی | قیس عرصہ دراز تک اسکندریہ سے غائب رہنے کے بعد اب پھر واپس آ گیا۔ اور اس کی واپسی پر مدینوں نے خوشی کے شادمانے بجائے۔ قیسوی لکھتا ہے کہ قیس کی واپسی سے اہل شہر پر خوشی کے مارے عالم وجد طاری ہو گیا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے کے ساتھ ساتھ اس کا زبردست شادمانہ استقبال کیا۔

(بقیہ حاشیہ گوشہ) اصل بات یہ ہے کہ ٹیپی مصر میں طرخ نام کی بہت سی بستیاں ہیں مثلاً طرخ دکھ، طرخ یغظہ، طرخ طنبش اور طرخ الملک۔

اسے اس کا موجودہ نام نہایت دسیس ہے جو طرخ مزید سے چندیں مشرق میں واقع ہے اور شاخ دیانا سے ہی مشرق ہی کی طرف لے صوبہ طیبہ کا پایہ تخت جس کا موجودہ نام انصا ہے۔
 مہ وہاں متکھ

بعض روایات کے مطابق قبرس کی واپسی اس نیت سے تھی کہ وہ پارسے مصر کو عربوں کے حوالے کر کے اُن کی خوشنودی سے اسکندریہ میں اپنے زائل شدہ سابق دینی تفرق کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا اگرچہ اُس نے اپنے اس ارادے کو انتہائی طور پر صیغہ راز میں رکھا تھا تاہم شہنشاہِ روم پر اُس کا انکشاف کرنے بعد اُسے بھی اپنا ہم نوا بنا چکا تھا۔ بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھا کہ وہ خود مغربیوں کا اس کے ساتھ اس بارے میں خفیہ مذاکرات بھی کر چکا تھا۔

شہنشاہِ روم | ہرقل اکتوبر ۱۹۱۳ء میں روم میں کا شہنشاہ بنا تھا۔

اور اب فردریک شاہ میں اُس کی موت نے اس کی شہنشاہی کا خاتمہ کر دیا۔

اس کے بعد اقدار اس کے دو بیٹوں قسطنطین اور ہرقل کی طرف منتقل کر دیا گیا اور ہرقل کی ماں مریتیا کو بھی حکومت میں تیسرا شریک بنا دیا گیا۔ لیکن مریتیا اپنے بیٹے ہرقل کے ساتھ قسطنطین کی شرکت کو پسند نہیں کرتی تھی۔

قسطنطین عمر میں بڑھا ہونے کے علاوہ ہرقل کی بہ نسبت عوام میں زیادہ مقبول تھا۔ نیز دربارِ شاہی کا سب سے بڑا مذہبی قائدہ بیرس بھی مریتیا اور اس کے بیٹے ہرقل کی بہ نسبت قسطنطین کی طرف زیادہ میلان رکھتا تھا اس لئے اُس کے ہاتھ پر اس نے حکومت کی بیعت کی۔

پوری سائنس نے دکھا ہے کہ مریتیا حکومت کے بارے میں بطریق بیرس کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتی تھی اس لئے ہرقل ہے کہ اس لالچ نے اُس کی رائے میں کچھ تبدیلی پیدا کر دی ہو۔

قسطنطین نے اقدار حاصل کرتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک طرف جلاوطن قبرس کو واپسی کا پیغام بھیجا اور دوسری طرف تھیوڈور کو بھی مصر کی موجودہ پوزیشن معلوم کرنے کے لئے بلا لیا۔

تھیوڈور نے بڑے زور سے یہ رائے دیا کہ رومیوں کو چاہیے کہ وہ عربوں کے ساتھ کسی صلح میں شریک نہ ہوں قسطنطین نے اس رائے پر عمل کرتے ہوئے آئندہ موسم گرما میں مصر کی طرف کثیر التعداد رومی افواج بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ اور نئی افواج جہازوں کی تیاری اور زنجوں کی آراستگی کے احکامات جاری کر دیئے۔

سے بعض روایات میں اس کا نام ہرقلیس اور ہرتوناس بھی آیا ہے۔ سے Bury
تے حاتمے جو قبرس کے واپس بلائے والی مریتیا کو قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قسطنطین کو حاصل مریتیا ہی نے
تیار کیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مریتیا کی طرف تھی رحمان رکھتا تھا۔

تھے تھیوڈور اسکندریہ میں آتا سینزس کو اپنا نائب مقرر کر کے چلا گیا تھا۔

لیکن اسی دوران میں بہت جلد اس کی موت کا پہلا نشانہ آگیا اور وہ اپنی ساری تیاریاں اپنے ساتھ ہی لے کر اس جہاں رخصت ہو گیا۔

مرتینا سے موقع کو غنیمت جانا اور اپنے بیٹے ہرقل کے ہاتھ پر حکومت کی بیعت یعنی شروع کر دی لیکن اسیان حکومت کی بڑی جماعت نے لاشش کر کے قسطنطین کے بیٹے کونستانس کو بھی اپنے باپ کی جگہ حکومت میں حصہ دار بنا دیا۔

ہرقل نے قیروس کو بھی اسکندریہ بلا کر شریک اقتدار کر لیا۔ اور اس کے ساتھ مل کر یہ بات طے کی کہ عربوں کے ساتھ صلح کر کے مصر کے طول و عرض سے جنگ و جدل کا سلسلہ ختم کرنا چاہیے۔ شاید اس کا یہ خیال ہو کہ صلح کے بعد بھی مصر پر ستور رومی اقتدار ہی کے ماتحت رہے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ پختہ ہو گیا اور اس کے حق میں مجلس صدرتین، مجلس علامتے دین اور خاص طور پر حکم مرتینا کی تائیدات بھی حاصل کر لی گئی تھیں۔

بابلیون کی طرف | محمد بن عاص اپنی فوج کو آرام دینے کے لئے نیل کی طغیان کا لہانہ قلعہ بابلیون میں گزار رہے تھے قیروس خود غنیمت تنہا صلح سامان کا بیجا مہلے کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ محمد بن عاص اس کا پرہیزگوارا نہیں مقدم کیا۔ جب اس نے صلح کی بات چیت شروع کرنی چاہی تو محمد بن عاص نے فرمایا: "آپ کی خود تشریف آوری قابل قدر ہے۔ قیروس نے جواب دیا: "اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سر زمین عطا فرمادی ہے اس لئے آپ کے بعد مدیوں سے جنگ کا سلسلہ کلیتہً ختم ہو جانا چاہیے۔"

صلح اس کے بعد صلح کی باقاعدہ بات چیت ہوتی رہی۔ اور بالآخر صلح ہی کی تشریح پر بات ختم اور فتوحات مصر کی تکمیل ہو گئی۔ شرانہ صلح و صلح ذیل میں۔

سنہ ۶۰۱ء روایت خاقانیوں کا مرض الموت حکومت ہننے کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ اور اس کی موت آخری وقت کو دنگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے ہوتی تھی جس کی وجہ سے اسے متواتر خون کی تھوڑی تھی۔

سنہ بعض کتابوں میں اس کا تعلق کونستانتینز میں آیا ہے۔

سنہ ۶۰۲ء ہنگامہ دہائی ہے کہ قیروس نے بلاشبہ بھولے جانے ہرقل کو جس کی ذاتی رائے عربوں کے ساتھ صلح کی نہیں تھی کوئی بڑی کوئی بے پرواہ دکھا کر ہی ہنگامہ آمادہ صلح کیا تھا۔ اور ایسی ہی چالاک سے اس نے بڑے شیرخ، بزدلی، عمار اور کھڑو مرتینا کی تائیدات بھی حاصل کی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قیروس ذاتی طور پر ہمیشہ ہی سے مصالحتانہ مزاج رکھتا اور مناقشات سے دور بھاگتا تھا۔

سنہ ایک روایت کے مطابق قیروس تنہا نہیں گیا تھا بلکہ اپنے ساتھ درباریوں کا ایک وفد لے گیا تھا۔

سنہ بعض روایات میں قیروس کے اٹھنا یہ ہیں کہ ہار سے اور تھکے سے دربار سے ہی کوئی مددات نہیں تھی (بقیہ حاشیہ کے صفحہ ۲۴۹)

- ۱- جو کوئی بھی اس صلح میں داخل ہوگا اسے جزیہ ادا کرنا پڑے گا۔
 - ۲- گیارہ جیتے کے لئے دونوں طرف سے جنگ کمیٹر بند رہے گی۔ اور یہ مدت ۸ ستمبر ۶۲۲ء کو ختم ہو جائے گی
 - ۳- عربی فوجیں اپنے موجودہ کیمپوں میں پڑی رہیں گی۔ اور جانبین میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوگا۔
 - ۴- اسکندریہ کی رومی افواج اپنا ساز و سامان لے کر بحری راستے سے روم کی طرف روانہ ہو جائیں گی
 - ۵- اس کے بعد پھر کبھی رومی فوجیں مصر کی واپسی کے ارادے سے مصر کا رخ نہ کریں گی۔
 - ۶- عیسائی گرجوں پر تہ مسلمان قبضہ کریں گے اور تہ ان کے مذہبی معاملات میں دخل ہوں گے۔
 - ۷- یہودیوں کو اسکندریہ میں رہنے کی اجازت ہوگی۔
 - ۸- معاہدہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے اور عملی جامہ پہنانے کی ضمانت ایک یرغمال کی صورت میں رومیوں کو ادا کرنی ہوگی
- طبری نے صلح کا متن مندرجہ ذیل الفاظ میں پیش کیا ہے۔
- ”عربوں کی طرف سے مصر والوں کو ان کی جان، مال، مذہب، عبادت گاہوں اور

(بقیہ ما شیء صغیر نہ شد) بلکہ شرائط صلح مختلف روایات میں مختلف آئی ہیں لیکن جتانے ان میں اہم شرائط برآستیا کیا ہے
 جزیہ کی مقدار دو یا تری کس قدر ملتی تھی اور ان سے تا کو وہ بڑھوں اور چھوٹے بچوں کو مستثنیٰ کر دیا گیا۔ اس
 شرح کے مطابق جزیہ کی کل مقدار ایک لاکھ بیس ہزار روپیا رہی تھی تا تاریخ ابو صالح ارضی صحت، مصر
 دانوں پر جزیہ کے علاوہ زمین اور جائیداد پر بھی مندرجہ ذیل محاصل عائد تھے۔ تین اُردب گندم۔ دو قسط
 شہد۔ دو قسط سرکہ۔ اور دو قسط نمک تو بن و بن غلدر دن کے مطابق عربوں نے جزیہ کی پہلی قسط کا قرضہ مطالبہ کیا تھا
 سے ابن اثیر نے انہا کی مدت کم بیان کی ہے۔ نیز اس کی وجہ یہ پیش کی ہے کہ اس عرصہ میں وہ حضرت صفحہ سے جنگی
 قیدیوں کے بارے میں راتے معلوم کرنا چاہتے تھے۔
 میں اگر کوئی رومی جنگی کے راستے جانا چاہے تو اس کے لئے یہ شرط لے پائی کہ وہ دورانِ سفر میں جتنی مدت سرزمین
 مصر میں رہے گا اسے مقررہ رقم مالہ ادا کرنی پڑے گی۔
 ایک روایت کے مطابق یرغمال ڈیرو سو فوجی اور ہک پاس غیر فوجی نو سو پستل تھا۔

سلیبوں کی امان دی جاتی ہے۔ اس میں نہ کوئی کمی کی جائے گی نہ زیادتی۔ نو بکے لوگ ان کے دوش بدوش نہیں رہ سکیں گے۔ مصرفے اس صلح پر متفق ہو جانے کے بعد فوراً ہزیمہ کی وادی میں شروع کر دیں گے جس کی زیادہ سے زیادہ مجموعی مقدار پچاس کروڑ دینار ہو سکتی ہے اس صلح میں اگر نہیوں اور زمینوں میں سے کوئی شریک ہونا چاہے گا تو وہ بھی جلد مشرط کا پابند ہوگا۔ اور جوان میں سے ہر ایک چھوڑ کر جانا چاہے گا تو اسے بھی امن کے ساتھ ملک سے رخصت کر دیا جائے گا مقرر کردہ جزیرہ تین مادی اقساط میں وصول کیا جائے گا۔ صلح کے اس مضمون پر اللہ تعالیٰ کی گواہی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی ضمانت اور امیر المومنین کی تصدیق ہے۔

طبری نے لکھا ہے کہ اس معاہدے کی کتابت دروان تے کی اور گواہ زبیر عبد اللہ اور محمد بن عمرو کو بنایا گیا۔

کیا مصر زور شمشیر فتح کیا گیا؟ | بیشتر روایات اس بات پر متفق ہیں کہ مصر کی مجموعی فتح حریا نہیں بلکہ صلحاً مکمل ہوئی۔ لیکن اس کے برخلاف بعض مورخین اس طرف بھی گئے ہیں کہ اسکندریہ کی فتح حریا ہوئی ہے چنانچہ ابن عبد الحکم اور بلاذری حوفل کی روایت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسکندریہ پر کامیاب حملہ کیا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اس فتح کا حسینہ محرم ۳۲ ہجری تھا۔ اسی ذیل میں وہ حضرت عمرؓ کے ایک خط کا بھی ذکر ہے جس میں انہوں نے عمرو بن عاص کو بدیں الفاظ متوجہ کیا تھا۔

”میرے اس خط کے پہنچنے ہی مسلمانوں کے سامنے ایک موثر تقریر کرو اور انہیں جہاد کا شوق دلاتے ہوئے ثابت قدمی اور اخلاص نیت کی تلقین کرو۔“

ان دونوں کا بیان یہ بھی ہے کہ اس خط کی تعمیل میں عمروؓ نے لوگوں کو جمع کیا اور خلیفۃ المسلمین کا خط انہیں سنایا جس پر سب کی رائے یہ پھری کہ اللہ ہ حملہ میں معاون اسکندریہ کا علمبردار حضرت عبد بن صامت کو بنایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسکندریہ کو فتح کر دیا۔ بلاذری مزید کہتا ہے کہ عمرو بن عاص نے قیرس کے پیغام صلح کو مسترد کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اشتعال میں آیا۔ اور مسلمانوں کو اپنی کثرتِ اذواج سے مرعوب کرنے کے لئے یہ ترکیب کی کہ اسکندریہ کی فصیل پر تلے کے تمام مردوزن کو لاکھ کھڑا کر دیا اور عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی پیٹھ باہر کی طرف کریں تاکہ پہنچانی نہ جا سکیں۔

۱۰ یعنی ایک ایک حصہ میں حصہ کی ایک ایک تہائی مقدار وصول کی جائے گی۔

عمرؓ نے اس ڈرامہ کا جواب قیرس کے پاس مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ بھیجا۔
 قیرس! تیرا یہ ظلم بوشعرا ہم نے ابھی طرح دیکھ لیا ہے کان کھل کر سن لے، ترجمانانہ
 اپنی کثرتِ تعداد پر گرد ہا ہے ہم اس سے زیادہ ناز اپنی قلتِ تعداد پر کرتے ہیں۔ اور
 اس قلتِ ہی کے ساتھ ہر جگہ کثرت پر غلبہ پاتے رہے ہیں۔ تمہارے ہتھل کے ساتھ
 ہماری ہی قلت نبرد آزما ہو چکی ہے اور اس کا جو حشر ہوا اس سے بھی تم لوگ بے خبر
 نہیں ہو۔"

عمرؓ کے دندان شکن جواب نے قیرس کا سارا زہر کا فوراً کر دیا۔ اور اس نے اپنی قوم سے مخاطب
 ہو کر کہا۔ بات بالکل سچی ہے جب ان لوگوں نے ہمارے بادشاہ کو اپنے دارالسلطنت قطنطیب کی طرف
 بھاگتے پر مجبور کر دیا تو اس کے بعد ہماری تو کیا ہستی ہو سکتی ہے؟
 اس بزدلی پر اس کی قوم اس سے برہم ہو گئی اور اسے بہت کچھ سخت سست کہا۔ ہوتے ہوتے
 رطانی کا آغاز ہو گیا۔ مسالوں کے محاصرے میں اور زیادہ شدت اختیار کی۔ یہاں تک کہ تین چھینے کی
 شدید جنگ کے بعد بزرگ شمشیر امکندریہ پر قبضہ کر لیا۔
 صلح کے بعد تمام مصر فتح ہو گیا ہے۔ مصر دسے عربوں کی اطاعت قبول کر چکے ہیں اور اب کسی طرف
 بھی مسالوں کے ساتھ مقابلہ کی تیاری نہیں ہے۔ مطلق ہر طرف سے صاف ہے۔
 اب اس کے بعد عربوں نے مصر میں رہ کر کیا کیا خدمت انجام دی؟
 اور رومیوں کا دنٹ کس کر ڈٹ بیٹھا؟

تاریخ کی زبانی اس کی تفصیلات بھی سن لیجئے۔
 خلیفہ المسلمین کو خوشخبری | عمرو بن العاص نے خلیفہ عمرؓ تکثر و فخر پنچنے نے کی خدمت
 معاویہ بن جندب کندی کے پیروں کی۔ معاویہ نے عرض کیا بہتر ہو کہ آپ اس اہم خبر کو اپنے ہی الفاظ

سے کندی نے مدت حصار تین ماہ بیان کی ہے۔ متریزی (جلد ۲ ص ۱۲۵) چار ماہ بتاتا ہے۔ اور اس کی تائید
 ابن عبدالحکم (ص ۴۲) اور سیوطی (جلد ۱ ص ۳۳) نے بھی کی ہے۔ بلاذری کی روایت بھی تین ماہ ہے۔
 (جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک چار ماہ کی روایت قابل تیسرے ہے۔
 بلاذری نے قاعدہ کا نام خدیج اور متریزی نے خدیج لکھا ہے۔ بعض افسانوں میں خدیج ہے۔ اور اسی
 کہ ہم نے اپنی تحریر میں اختیار کیا ہے۔

میں لکھوا کر مجھے دیدیں۔ اس پر عمرو نے جواب دیا کہ "تو یہ کسی کیا ضرورت ہے۔ کیا تم مردِ عربی نہیں ہو اور اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ جو کچھ تم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ اس کو اپنے الفاظ میں خلیفہ کے سامنے بیان کر دو۔"

معاویہ صحرا کی طویل مسافت کو مسرت کے ساتھ طے کرتے ہوئے مدینہ میں ظہر کے وقت داخل ہوئے اور حضرت عمرؓ کو ان مختصر الفاظ میں مزودہ فتح سنادیا "ابھی خبر ہے اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے اسکندریہ کو مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح کرا دیا ہے۔"

حضرت عمرؓ فرط مسرت میں مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور نمازِ شکر ادا کرنے کے بعد معاویہ کو واپس اپنے مکان پر لے آئے۔ اور پھر گھر آکر بھی دوبارہ نمازِ شکر ادا کی۔

ایک مورخ نے واقعہ کی تصویریں پیش کی ہے۔۔۔ معاویہ عین ظہر کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے اور مسجد کے دروازے پر اپنی ادٹھنی کو ابھی بٹھا ہی رہے تھے کہ حضرت عمرؓ کی خادمہ گھر سے نکلی اور

ایک اجنبی مسافر کو دیکھ کر اس کا نام اور کام دریافت کیا۔ معاویہ نے جواب دیا کہ "میں عمرو بن عاص کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ دوڑی ہوئی حضرت عمرؓ کے پاس پہنچی اور اٹھ پائوں لٹ کر معاویہ کو اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ حضرت عمرؓ نے خبر دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا: خبر بہت اچھی ہے اے امیر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے اسکندریہ کو مسلمانوں کے لئے فتح فرما دیا ہے۔"

حضرت عمرؓ فوراً مسجد میں تشریف لے گئے اور اذان دلا کر فتح کے شکر یہ میں نماز ادا فرمائی اور پھر واپس مکان پر تشریف لے آئے اور دوبارہ گھر میں بھی نمازِ شکر ادا کی۔ اس کے بعد کھانا کھلوا دیا۔ روٹی اور دغن زیتون پیش کیا گیا جسے انہوں نے ہمان کے سامنے رکھ دیا۔ معاویہ نے تو ارضا اس میں سے ٹھوٹا سا کھالیا، اس کے بعد کھجوریں لائی گئیں۔

بس یہی تھے وہ مکلف اور لذیذ کھانے جنہیں حضرت عمرؓ خود بھی استعمال فرماتے تھے اور عزیز جہانوں کے سامنے بھی پیش کرتے تھے۔ اس کے بعد معاویہ نے عرض کیا کہ میں تو مدینہ میں ظہر کے وقت آچکا تھا۔ اور میں نے اسی وقت یہ خبر آپ کو اس لئے نہیں پہنچائی کہ وہ قیلوہ کا وقت تھا۔ اور میرا خیال تھا کہ آپ استراحت فرما رہے ہوں گے۔ اس کے جواب میں حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

"تمہارا یہ مکان درست نہیں تھا۔ اس لئے کہ اگر میں دن میں سونا شروع کر دوں تو یقیناً

روحیت کو ضائع کر دوں گا۔ اور اگر رات میں سوئے لگوں تو خود میرا نفس ضائع

ہو جائے گا۔ اپنی بڑی بڑی دوزمہ داریوں کی موجودگی میں بھلا سوئے کا کیا کام

۲۔ اعلان صلح | دوسری طرف قیرس شرائط صلح لے کر تھوڑے درے سالوں کے پاس پہنچا۔ اور پھر اس کے بعد صلح نامے کو شہنشاہ برقلوناس کے پاس بغرن آخری منظوری بھیج دیا۔ شہر میں بھی اگستہ آگستہ صلح کی خبر گشت کرنے لگی۔ اور اس کے بعد قیرس نے ہمائیں سلطنت اور قائدین افواج کی ایک مجلس بلا کر ان سب کے سامنے صلح کا صاف صاف اعلان کر دیا۔

اس اعلان کا ابتدائی رد عمل تو یہ ہوا کہ سامعین قیرس کے خلاف غم و غصہ سے بھر گئے اور قریب تھا کہ اس پر حملہ آور بھی ہو جاتیں۔ لیکن قیرس نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے آخر کو ردائیں اور رانعات کی روشنی میں مجمع کو خاموش کر دیا۔ اس بات کے ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے یہ صلح خوب سوچ سمجھ کر کی ہے اور ایسی میں ہمارے لئے خیر و برکت ہے۔ پھر اس کی تقریر یہاں تک کامیاب ہوئی کہ وہی فوجی جو چند منٹ پہلے صلح کے خلاف غضبناک تھے اب دوسرے ہی لمحے میں سرگرمی کے ساتھ لوگوں سے جزیہ وصول کرتے دکھائی دینے لگے۔ یہاں تک کہ جزیہ کی مقررہ مقدار سے بھی زیادہ سونا جمع کر لیا۔

قیرس اس جمع شدہ مال کو ایک کشتی میں رکھ کر بذاتِ خود جنوبی دروازے سے نکل کر عمر دین کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے روانہ ہو گیا۔

۳۔ تعمیر قسطنطنیہ | عمر دین عاص نے بابلین اور پہاڑ کے درمیان والی نرم زمین میں بابلین کے قریب مسکانوں کے لئے ایک نیا شہر تعمیر کرنے کا ارادہ کر لیا۔

بروایت بلاذری شہر کا نقشہ حضرت زبیر نے تیار کیا۔ اور پھر اس میں اپنا گھر بنا کر وہ تاریخی سیرٹی محفوظ رکھی جس کی مدد سے انہوں نے قلعہ کی فصیل پر چڑھ کر بابلین کا دروازہ کھولا تھا۔

یا قوت کی روایت کے مطابق عمر دین نے شہر کا نقشہ بنانے اور زمینوں کی تقسیم کا کام چار آدمیوں کی ایک کمیٹی کے سپرد کیا تھا۔

بعض روایات کے مطابق یہ سارا کام مصر کے وائف کار قبیلوں نے انجام دیا تھا۔

۱۔ دیوان حاتم قیری (ص ۵۸)

۲۔ یہ سیرٹی ایک عرصہ تک محفوظ رہی۔ اور پھر آگ سے جل گئی۔

شہر بسا دیا گیا اور اس کا نام فسطاط یا فسطاط مصر رکھ دیا گیا۔

ابتداء میں اگرچہ اس کی آبادی مختصر تھی لیکن ایک سال کے بعد تیزی کے ساتھ ترقی کرنے لگی۔ اور پھر اس حد تک ترقی کی کہ خلیفۃ السلیمن حضرت عمرؓ نے اسکندریہ کے بجائے فسطاط ہی کو دار الخلافہ بنا دیا۔

بیشتر مکانات یک منزلہ اور کچی اینٹوں کے تھے لیکن جب ترقی ہوئی تو چار پانچ منزل تک پہنچ گئے۔ ہر ایستہ ضعیف خارجیہ حذافہ نے اپنے مکان میں ایک بالا خانہ بنوایا تھا۔ لیکن جب حضرت عمرؓ اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اسے منہدم کر دیا۔

عمر بن عاص نے خود اپنے لئے اسی مکان کو پسند فرمایا جس میں ان کا جھنڈا رکھا جاتا تھا۔ اور اسی کے اندر ایک مسجد بھی بنائی جس کا نام مسجد اہل الرایہ (یعنی جھنڈے والوں کی مسجد) مشہور ہو گیا۔ اس کا محل وقوع نیل کا کنارہ اور باغات دانگورستان کا عین وسط تھا۔ مسجد کا رقبہ ۵۰ × ۳۰ گز تھا چھت چنی تھی۔ صحن بالکل نہیں تھا۔ باہر کے کھلے میدان ہی کو صحن کا قائم مقام سمجھ لیا گیا تھا۔ چاروں طرف سڑک بنائی گئی تھی جس پر مسجد کے چھ دروازے کھلتے تھے۔ نمازی زیادہ ہوجاتے تو باہر کے کھلے میدان میں کھڑے ہوجاتے۔ مسجد میں ایک منبر بنا لیا گیا تھا۔ جس پر کھڑے ہو کر عمر بن العاص خطبہ دیتے تھے۔

۱۔ ایک قول کے مطابق فسطاط غیر عربی لفظ ہے۔ دوسرے قول کے مطابق فسطاط رومی لفظ (Fossatum) سے بنایا گیا ہے۔ جسے باہرین کے مدنی ستاروں کے کیپ کے لئے استعمال کرتے تھے۔ خطہ متقریزی (جدیدہ منٹ) میں لکھا ہے کہ فسطاط کے معنی شہر ہیں۔ یا زوت نے اس کے چھ لفظ لکھے ہیں: فسطاط - فسطاط - فسطاط - فسطاط - فسطاط اور فسطاط...۔ نیز یا زوت ہی کے بیان کے مطابق اس لفظ کا ذکر حدیث نبوی میں بھی اس طرح آیا ہے: - عَنِیْکُمْ الْاِجْتِمَاعُ سِبَاثُ سَیْدِ اللّٰہِ فَوْقَ الْفُسْطَاطِ - (یعنی اجتماعی زندگی اختیار کر اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ فسطاط پر ہے) جس کے معنی اس حدیث میں شہر کے ہیں جہاں لوگ اجتماعی زندگی گزارتے ہیں۔ ابن القتیہ کا قول ہے کہ شہر بصرہ کا نام فسطاط تھا۔

۲۔ فسطاط کی تاریخ تیسریں اختلاف ہے۔ بقول بلاذری اس کی تکمیل باہرین کا تغیر کے بعد ہوئی۔ لیکن اکثریت کی رائے اس کے ہر خلا فیہ ہے کہ وہ سقوط اسکندریہ کے بعد اُس وقت تکمیل ہوا جب حضرت عمرؓ نے اسکندریہ کے دار الخلافہ بنانے سے انکار کرتے ہوئے فسطاط کے دار الخلافہ بنانے کا حکم صادر فرمایا۔ اور اس بدلت کی اجازت دی کہ عمر بن عاص اگر چاہیں تو اس میں مستقل حکومت اختیار کر سکتے ہیں۔

۳۔ اس کے رادای یا قوت۔ ابراہیم اس اور سیوطی بحوالہ ابن عبدالحکم ہیں۔

برداشت ضعیف اس مسجد کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ جلیل القدر صحابہ نے حصہ لیا تھا۔ جن میں حضرت زبیر، حضرت مقداد بن الاسود اور حضرت عمار بن صامت بھی شامل تھے۔
عمرو بن عاص نے مسلمانوں کے لئے ایک قبرستان بھی تعمیر کیا جس میں چار صحابی بشمول عمرو بن عاص دفن کئے گئے۔

شہر میں متعدد حمام بھی بنائے گئے جن میں سے ایک کا نام حَمَّامَةُ الْفَأْسِ (یعنی چوبوں کا حمام) پڑ گیا۔ اور اس نام کی وجہ تسمیہ صرف یہ کہنی کہ یہ حمام رومی حماموں کے مقابلے میں نہایت چھوٹے اور حقیر تھے۔

۴۔ خلیج تواجان | عمرو بن عاص نے تواجان نامی ایک خلیج کھدوائی جو بابلین کے شمال میں دریائے نیل سے نکل کر شہر عین شمس کے پاس سے گزرتی ہوئی وادی طیلات کو عبور کر کے موضع قنطرہ تک پہنچتی تھی۔ اور وہاں جا کر قلازم کے قریب بحر احمر کے ساتھ مل جاتی تھی۔

۱۔ سبوتی نے ان کی تولا میں بتائی ہے اور دوسروں نے اسی
۲۔ علی پاشا مبارک اپنے خط میں لکھتا ہے کہ مغربی کی تورات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ خلیج اسی پرانی
خلیج کا حصہ تھی جو ببلینوں کے زمانے میں جہازدانی کے کام آتی تھی اور جو نیل اور بحر احمر کو باہم ملاتی تھی۔ مغربی
کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خلیج قاہرہ کے مغرب میں قاہرہ اور عس کے درمیان واقع ہے۔ اور اسلام کے ابتدائی
دور میں خلیج ہیرالمینین کے نام سے مشہور تھی؛ اور یہ وہی پرانی خلیج ہے جسے سب سے پہلے طولیس بن ملیح نے کھودا تھا
جو مصر کے اُن بادشاہوں میں سے ایک تھا جن کا پایہ تخت مشہر صنف ہوا کرتا تھا۔ پھر اس خلیج کو دوبارہ قیصر روم اندروانس
نے کھدوایا۔ جب ہیرودت مصر پہنچا تو اس نے وہاں کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نیل کو بحر احمر کے ساتھ
ملانے کی پہلی کوشش نجوس بھی اسی حکم سے کی تھی۔ لیکن وہ خود اپنے ہاتھوں سے اُسے پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔
پھر جب مصر میں اہل فارس داخل ہوئے تو دارا نے اس کی کھدائی شروع کرائی۔

برداشت ضعیف حضرت عمرؓ نے عمرو بن عاص سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر مصر کا دروازہ کھول دیا ہے
اور یہ ملک نہایت زرخیز اور کثیر الغنما ہے۔ میرے دل میں کبھی کبھی یہ خیال گشت لگایا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مصر کو فتح کر دے
تو اس کے ذریعہ مکہ اور مدینہ والوں کی تنگ حالی بھی دور ہو جائے۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے مصر کو مسلمانوں کے لئے
فتح فرما دیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ دریائے نیل سے بحر احمر تک ایک خلیج کھدوادی جائے جس کے ذریعہ وہاں سے
آسانی کے ساتھ حرمین تک غذا اور خوراک لائی جاسکے۔

برساتِ ضعیف عمروؓ نے بحیرہٴ قساح اور بحیرہٴ ایض کے درمیان خلیج کھودنے کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن خلیفہٴ عمرؓ نے اس منصوبے کو اس بنا پر مسترد کر دیا تھا کہ پھر اس کے ذریعے رومی آسانی کے ساتھ بحرِ اعمق کی طرف پیش قدمی کر سکیں گے۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ اس کی مدد سے حاجیوں کا راستہ مدکنے لگ جائیں۔

۵۔ نشیبی مصر | نشیبی مصر کے بعض شمالی علاقوں نے عربوں کی اطاعت سے روگردانی اختیار کی۔ اس لئے عمروؓ بن عاص نے کچھ فوج اُدھر معائنہ کی جو کریوں سے گزرتی ہوئی اُخنا پہنچی جہاں کے حاکم طمانسے بغاوت اختیار کر رکھی تھی۔ فوج نے دوبارہ اُس کی گردن جھکانی اور بہت سوں کو قید کر کے عمروؓ کے پاس روانہ کر دیا۔

عمروؓ اُخنا سے فراغت پا کر بیتِ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جہاں پہنچ کر انہیں حضرت عمرؓ کا جواب وصول ہوا۔ اس خط میں حضرت عمرؓ کی طرف سے صبحِ اسکنہ یہ کی تشریح درج تھی۔ عمروؓ نے اس خط کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سُنا دیا۔ جس سے متاثر ہو کر انہوں نے بغاوت ترک کر دی اور اطاعت قبول کر لی۔ بلکہ بہت سے ان میں سے مشرف بہ اسلام ہو گئے۔

عمروؓ نے علاؤرشید کے حاکم قرمان اور برلس کے حاکم حنا کے ساتھ بھی صلح کے بیان کئے۔ ختج برلس کے بعد ساحلِ سمندر پر بڑھتے بڑھتے عمروؓ بن عاصؓ ذمبابہ تک پہنچ گئے۔ اور اُسے فتح کرنے

۱۔ عمروؓ بن عاص نے طمانسے کے پاس تحریری پیغام بھیجا کہ ان شرائط پر قرس ہمارے ساتھ صلح کر چکا ہے۔ اور اس کی رُو سے جو مصر میں ہمارے علاقے داخل صلح ہے۔ اس لئے تم ہمارے مطیع بن کر رہو۔ تو اس نے تحریر کو مسترد کرتے ہوئے رُو در رُو بات چیت کی خواہش ظاہر کی۔ ملاقات طے پا گئی۔ دورانِ ملاقات میں اُس نے جزیرہ کی مقدار پوچھی تو عمروؓ نے تیور بدلتے ہوئے فریبی گرجا کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اگر تم اس گرجے کے ستون سے چھت تک بھی رُو در عطا کرو تو میں یہ بات پھر بھی نہ بتاؤں گا۔ تم تو ہمارا خزانہ ہو۔ اگر زیادہ دو گے تو تم ہی پر زیادہ خرچ کر دیا جائے گا اور کم دو گے تو یہ کمی بھی تمہاری طرف سے اپنے ہی لئے ہوگی۔

اس پر طمانسے نے اطاعت سے انکار کر دیا۔ جس کے بعد عمروؓ نے اُخنا کو بند و شمشیر فتح کر لیا۔

۲۔ یہ شہر رشید کے جنوب میں چند میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور بلاذری نے اس کا نام بہت لکھا ہے۔

۳۔ بعض روایتوں میں قرمانس آیا ہے۔

۴۔ یہ شہر دریائے نیل کی شاخِ بنیسی کے دہانے پر واقع ہے۔

کے بعد نیل کے جہد منافذ پر تاحدہ محمدؐ قابض ہو گئے۔

دمياط کے قریبی شہر نفیس کو بھی دمياط ہی کے ساتھ فتح کر لیا گیا تھا۔

۶. نفیس اور شطا | نفیس ایک مشہور و معروف، اچھا خاصا وسیع اور خوبصورت شہر تھا۔ باہیک اور نفیس کپڑا اس کی مخصوص صنعت تھی۔ تجارتی اہمیت بھی اس وجہ رکھتا تھا کہ صرف عراق ہی کے ساتھ اس کی درآمد و برآمد میں سے تیس ہزار دینار سالانہ تک پہنچ جاتی تھی۔ یہ شہر ایک کشادہ جزیرے پر واقع تھا۔ جس میں جنوب کی طرف سے بحر روم کی ایک نہر داخل ہوتی تھی۔ شہر کے گرد متعدد فصیلیں تھیں جن کے اندر انیس لڑادی دروازے بنے ہوئے تھے۔

شاہ روم نے درخواست کی کہ یہ شہر میرے لئے چھوڑ دیا جائے اور میں اس کے بدلے میں تو شہر تک دینے کے لئے تیار ہوں، لیکن عمروؓ نے اس کی درخواست مسترد کر دی۔

اس کا حاکم ابوطورؓ میں ہزار کا لشکر جوڑ لے کر مسلمانوں کے مقابل صف آرا ہو گیا۔ اس لشکر میں قبلی، اردمی اور عرب ہر قوم کے جنگجو بہادر شامل تھے۔ متعدد مقامات پر یہ لشکر مسلمانوں سے مستقام ہوئی اور میدان حرب و ضرب میں دل کھول کر اپنے حوصلے نکالے۔ لیکن آخری فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اس ٹٹسی قتل کو مسلمان بہادروں نے شرمناک ہزیمت دی اور شہر میں فائنمانہ داخل ہو کر اموالی غنیمت حاصل کئے۔

یہاں سے قرعنت پاکر عمرو بن عاص فرما کی طرف روانہ ہو گئے۔

بلواری یزید بن ابی حبیب بن جثینانی سے رداہیت کرتے ہیں کہ یزید نے خود فاطمین مصر کی

۱۔ شہر رشید نیل غری کے مدخل پر ادپر کی طرف واقع تھا۔ اور بلیب مجائے نیل پر اس کی شاخ رشید اور اسکندریہ کے درمیان واقع تھا اور برس نیل کی شاخ سبستی پر واقع تھا۔

۲۔ بقول یاقوت یہ شہر غزی کہتا ہے پر تھا اور اس کو خارجہ بن خذاف نے فتح کیا تھا۔ (جلد ۲، ص ۵۰)

۳۔ برداہیت ضمیمہ یہ نام یونانی لفظ نمبرس سے نکلا ہے۔ جس کے شروع میں قبلی زبان کی علامت تائینٹ لگاری

گئی ہے۔ THINNESS

۴۔ برداہیت سعودی یہاں خلیفہ کے لئے ایک خاص کپڑا تیار کیا گیا تھا جس کی قیمت ایک ہزار اشرفی تھی۔ اس کی بناوٹ میں سونے اور لٹان کے تار استعمال کیے گئے تھے۔

۵۔ بعض رعاتری میں ابو تور ملتا ہے۔

۶۔ بعض حوالہ جات میں اس تعداد کو غلط قرار دیتے ہوئے صرف دو ہزار فوج کا ذکر کیا گیا ہے۔

ایک جماعت سے منہا ہے کہ عمرو بن عاص نے فسطاط کو فتح کرنے کے بعد عبداللہ بن خذافہ سہمی کو عین شمس کی طرف بھیجا جنہوں نے اس علاقہ کو فسطاط ہی کی شرائط صلح کے مطابق صلح سے فتح کیا۔ خارجہ بن خذافہ عارضی کو مقامات فیوم، اشمونین، انجیم، بستروہات اور صجد کے دوسرے دیہات کی جانب لشکر لے کر بھیجا اور انہوں نے بھی اس سائے علاقے کو مستحضر کیا۔ حیر بن دہب حمی کو تنیس اور مباط، تونہ، دمیرہ، شطا، دقہلہ، بنا اور بوسیر کی طرف فوج کشی کی اور انہوں نے بھی ان سب کو صلح سے فتح کیا۔

عقوبہ بن عامر جہنی کو بقیہ شیبی علاقے سوچے اور انہیں وہ صلحا مستحضر کر آئے۔

اس طرح عمرو بن عاص نے فتوحات مصر کی تکمیل کی اور اس کی تمام زمین کو خراجی زمین بنا لیا۔ مقرزہ کی راوی ہے کہ تنیس اور مباط کے درمیان شطانامی ایک شہر ہے جس کے حاکم نے اسلام کا تحقیقی مطالعہ کیا اور پھر مسلمانوں کے پاس آکر اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد تنیس کی جنگ کے دوران ہی میں اہل بلس، دمیرہ، اشمون اور طناخ کا لشکر اپنے ہمراہ لے کر مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اور نہایت دلیری کے ساتھ رومیوں کے خلاف جنگ لڑی۔ یہاں تک کہ خود اپنے ہاتھ سے بارہ دشمنوں کو قتل کیا اور سات تک برابر تلوار چلاتا رہا۔ یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا اور اپنی ماری

۱۔ تونہ مصر کا ایک نواحی جزیرہ ہے (علی مبارک، خط تونہ فیقیہ میں)

۲۔ دمیرہ (بفتح اول) دسکرتانی، دیماط کا قریبی گاؤں ہے (یا قوت مجمل البلدان میں)

۳۔ دقہلہ بردایت یا قوت دیماط سے چار فرسخ اور دمیرہ سے چھ فرسخ کے فاصلہ پر ایک پردہ و نلق اور تمدن شہر ہے۔

علی مبارک نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ یہ شہر صوبہ دقہلہ کا پرانا شہر ہے جو فارسکور کے مرکز میں واقع ہے۔ اور

صوبہ کا نام بھی اسی کے نام پر رکھا گیا ہے۔

۴۔ فسطاط سے اٹھارہ میل کے فاصلہ پر ایک پرانا شہر ہے۔

۵۔ بوسیر (کسبر اعداد)۔ سمندر کے ساحل پر اس نام کے چار شہر اور فیوم اور جبزہ اور بہنسہ واقع ہیں۔

۶۔ فتوح البلدان ص ۱۲۱

۷۔ اس قصہ کو واقدی نے بھی فتوح مصر ص ۱۳ پر لکھا ہے۔

۸۔ اس حاکم کا نام شطابن الموک تھا جو مقوقس کا چچا تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق شہر کا نام بھی اسی کے نام پر رکھا

گیا تھا۔ واقدی شطاک دلدیت ہارک بیان کرتا ہے۔

زندگی کو پاک کر گیا۔ یہ سات شعبان ۱۱۰۰ھ ہجری کی درمیانی رات تھی (اناللہ وانا الیہ راجعون) مقرن بنی
اسی کے بقول اس کی قبر عرصہ دراز تک نیدلٹ گاؤ خلانق بنی رہی۔ دور دور سے لوگ سفر کر کے آتے اور
اس کی قبر پر دعائیں کر کے واپس جاتے تھے۔

۷۔ قبرس کی موت | قسطنطینیہ میں سیاسی خلفشار پیدا ہونے کی وجہ سے ملکہ مرتینا اور اس کے بیٹے کا
اقتدار ختم ہو کر روم کی شہنشاہی صرت کونستانس کی ذات پر منحصر ہو گئی تھی۔ ایسے سیاسی ماحول
میں قبرس کا اثر و نفوذ باقی رہنا مشکل تھا۔ اس لئے اس پر نہ صرف اپنے زوال اقتدار کا بلکہ جلا وطنی
اور قتل تک کا خوف طاری رہنے لگا۔ اس رنج و غم نے اس کی صحت کو بیان تک متحمل کر ڈالا کہ
بالآخر وہ ہلک بچش کا شکار ہو کر مورخہ ۱۱ مارچ ۱۱۰۲ء کو فوت ہو گیا۔

حنانہ قبرس کے الفاظ میں اس کی موت کی کہانی یہ ہے:۔ اس پر رنج و غم کا بہار ٹوٹ پڑا جس
کی وجہ سے وہ سخت پچش میں مبتلا ہو کر ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ وہ اسی رنج و غم میں خون کے
آنسو روتا تھا کہ مبادا وہ پہلے کی طرح اب دوبارہ پھر جلا وطن نہ کر دیا جائے اور یہ صدمہ اس کے
اعصاب پر کچھ اس طرح مستولی ہوا کہ اس کی روح اس سے چھٹکارا نہ پاسکی اور وہ اسی حالت میں فوت
ہو گیا۔

۸۔ بہلت کا خاتمہ | آج ستمبر ۱۱۰۲ء کی انیس تاریخ ہے۔ رومی جہازوں کا بیڑہ تھیوڈور کی نگرانی میں اپنے
نظر اٹھائے ہوئے ہے اور بادبان کھولے ہوئے روانگی کے لئے تیار کھڑا ہے۔ اس بیڑے میں تھیوڈور
اپنی ہزیمت خوردہ فوج کو سوار کر کے قبرص کی طرف کوچ کر جائے گا اور اسکندریہ کو خالی کر دے گا۔
کیوں؟۔ اس لئے کہ اس ماہ کی انیس تاریخ کو بہلت کی رہ میعاد ختم ہو جائے گی جس کا ذکر شرائط
صلح میں کیا جا چکا ہے۔

۱۹ جولائی ۱۱۰۲ء

۱۰۔ ایک قطعی روایت میں دعوت قبرس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ عمرو نے جب سکندریہ پر قبضہ کر لیا تو وہاں
کے حاکم کو اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں ایسا دہوکہ عمو سے قتل کر دیاں۔ وہ حاکم بدنگان طبیعت کا آدمی
تھا جو شہر کے دبی اور دہنوی دروزن شہروں کے ذمہ دار کی حیثیت رکھتا تھا۔ جب اس کے دماغ پر اس موہوم
بیگانی کا پورا غلبہ ہوا تو اس نے زمہ کی انگشتری اپنے منہ میں رکھ لی جس کے اثر سے وہ فوراً مر گیا۔

۱۱۔ دیوان ص ۵۸

۱۲۔ دیوان ص ۵۸۔ ۱۳۔ ایک روایت کے مطابق اس بیڑے میں نو کشتیاں تھیں

وہ دیکھو، اسکندریہ نے بھی اپنے دروازے کھول دیئے ہیں۔ کس کے لئے؟
 عمرو بن عاص اور اس کی افواج کا استقبال کرنے اور انہیں اپنے آغوش میں لینے کے لئے۔
 بس اب عمرو بن عاص کو بھی خلیفہ المسلمین حضرت عمرؓ کے پاس مزدوہ خادمانی بھیجنے کے
 لئے مزید انتظار کی حاجت نہیں رہی۔ انہوں نے ان الفاظ میں فتح کی خوش خبری حضرت امیر المؤمنین
 کو بھیجی۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم پر اس حد تک بلاد شہر کے دروازے کھول دیئے
 ہیں جس کی خانہ یہ ہے کہ اس میں چار ہزار عالیشان محلات و قصور ہیں۔ چار ہزار حمام اور
 اور طعام خانے ہیں۔ چار سو کھیل کے میدان ہیں۔ بارہ ہزار میوہ فروشوں میں اور چالیس ہزار
 یہودی ذمی آباد ہیں۔

۹۔ بنیامین کی دالیسی | حضرت عمرو بن عاص کو بطریق بنیامین کے ساتھ قبیلوں کی اعلیٰ و محبت
 کا اندازہ پڑا تو اس کی تلاش کے لئے یہ تدبیر کی کہ ملک میں قبیلوں کے متعلق امن عام کا اعلان
 کرایا اور اس اعلان میں بنیامین کے نام کا خصوصیت کے ساتھ اظہار کرتے ہوئے منادی کرا دی
 گئی کہ ہڑھے بطریق کو مع ان تمام قبیلوں کے امان دی جاتی ہے جو سرزمین مصر میں ردپوش ہیں یا
 اس سے باہر کسی دوسرے ملک میں جا چکے ہیں۔ انہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اور ان کو
 ہماری طرف سے کسی بد عہدی کا بھی اندیشہ نہ رکھنا چاہیے۔
 ایک روایت میں منادی کے یہ الفاظ لکھے ہیں۔

”قبیلی بطریق بنیامین جہاں کہیں بھی موجود ہو ہم اُسے حفاظت جان اور امان کا یقین
 دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس عہد پر گواہ ٹھہراتے ہیں۔ بطریق کو پورے امن و اطمینان کے
 ساتھ یہاں پہنچ کر اپنی قوم کی دینی رہنمائی کا منصب بہ ستور سابق حاصل کر لیا چاہیے۔
 یہ امان بنیامین تک پہنچی تو وہ صحرا سے اپنا پوشیدہ مقام چھوڑ کر اسکندریہ چلا گیا۔ اسکندریہ
 پہنچ کر جب لہ پور سے اطمینان کے ساتھ اپنے معتقدین میں قیام پذیر ہو گیا تو عمرؓ نے ایک دن اُسے

لے اصطرخی کی سالک الملک میں اس تعداد کو مبالغہ آمیز قرار دیا گیا ہے (جلد ۱۵)
 معریزی نے ہماموں کی تعداد بارہ ہزار بیان کی ہے اور لکھا ہے کہ سب سے چھوٹے ہمام میں ایک ہزار
 نشستیں بنی ہوئی تھیں۔

اپنے پاس بلایا اور پر سے اعزاز و تکریم کے ساتھ اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جتنے علاقے بھی فتح کیے ہیں ان میں آپ جیسا پیشوائے دین میری نظر سے کہیں نہیں گزرا۔
اس کے بعد غزوانے حکم صادر کیا کہ قبلی قوم کی دینی پیشوائی کا منصب باقاعدہ طور پر بنیامین کے سپرد کر دیا جائے۔

بنیامین اس عہد افزائی پر شادان و فرحان اور جذباتِ منونیت لئے ہوئے عمرو کے پاس سے روانہ ہو گیا اور اپنے تابعین کے حلقہ میں پہنچ کر مندرجہ ذیل الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لیا۔
مجھے اپنے شہر اسکندریہ کی طرف پھر ایک بار لڑا آنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمایا۔ اور اس حال میں فرمایا کہ اب یہاں خوف کے بعد امن کا اندر مصیبت کے بعد اطمینان کا دور دورہ ہے اور کافروں کے جوہر استبداد کا خاتمہ ہو چکا ہے۔
یہ احساسِ حریت قریب قریب سارے ہی قبیلوں میں پایا جاتا تھا۔ اور اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ سادیکس بھی مندرجہ ذیل الفاظ میں اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا۔
قبیلی قوم رومی استبداد سے آزاد ہو کر ساری خوش ہوئی جیسے بکری کا بچہ اس وقت خوش ہوتا ہے۔ جب اس کی رسی کھول دی جائے اور وہ اپنی مال کے تھنوں کی طرف دوڑھینے کے لئے جھپٹ پڑے۔

اس اعترافِ حقیقت سے مشہور منتصب نصیوسی بھی اپنے قلم کو روک نہ سکا۔
لکھتا ہے۔۔

عمرو نے گرجوں کی اٹلاک میں سے کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اور نہ ہی ان کا ایک تینکا غصب یا غنیمت میں حاصل کیا۔ بلکہ اس کے برعکس وہ اپنی زندگی کے آخری سال تک کنیسوں کی حمایت و حفاظت کرتا رہا۔
ذمہ معاملات کے علاوہ رعایا کی عام خوش حالی اور ملک کی سیاسی ترقی کے بارے میں بھی عمرو بن عاص وقتاً فوقتاً بنیامین سے صلاح و مشورہ لیتے اور اس کے مناسب مشوروں پر عمل کرتے رہے۔

مثلاً بنیامین کی ایک رائے یہ تھی کہ زمین کے غلہ کا خرچ اس وقت وصول کیا جائے جب کسان

اور باغبان پیداوار تیار کر کے فراغت پا چکے ہیں۔ چنانچہ عمرو نے اس رائے کو قبول کیا اور جلد تحصیلداران کے نام ضروری احکام جاری کر دیئے۔

اسی طرح اندازِ مصر کی کھدائی، صفائی، اُن کے پلوں کی تعمیر و مرمت، تالیوں کی سالانہ دیکھ بھال، ممال کو رشوت ستانی سے محفوظ رکھنے کے لئے اُن کی تنخواہوں کی وقت پر ادائیگی اور مناصب پر رحم دل لوگوں کا تقرر ان سب اصلاحات میں بنیامین کے مشورتل کو عمرؓ نے کھلے دل کے ساتھ قبول کیا اور مستعدی کے ساتھ انہیں نافذ کیا۔

۱۔ شہری آزادیوں | عمرو بن عاص نے مذہبی اور فکری آزادی مکمل طور پر دے رکھی تھی۔ احد اسی آزادی نظر کا یہ نتیجہ تھا کہ روم اور مصر کے بہت سے فلسفی اپنی اپنی مذہبی درسگاہیں قائم کر کے اپنے اپنے مذاہب کی تعلیم دینے لگے۔ اور جب انہوں نے اپنے آزادانہ مطالعہ اور تحقیق کے ذریعہ مسیحیت میں الجھاؤ اور متبعین نصرانیت میں یاہمی ٹکراؤ دیکھا تو اس آزادی فکر کی برکت سے وہ کسی ایسے مذہب کو تلاش کرنے لگے جو مذکورہ بالا نقائص سے پاک ہو چنانچہ اس قسم کے حقیقت جو اور غیر متعصب عقائد کی نظر تحقیق و تدقیق نے اسلام کو مطلوبہ معیار پر پایا تو ان کی اکثریت بطیب خاطر اسلام میں داخل ہو گئی گو یا انہیں اسلام کی خوبیوں نے ابتدائی طور پر اپنی طرف کھینچا۔ نہ کہ مسیحیت کے نقائص نے سبھی طور پر اسلام کی طرف دھکیلا۔ جیسا کہ مسلمانوں نے اپنی مذہب پر ذیل تحریر سے غلط تاثر دینا چاہتا ہے۔

یہ کہنا قرین انصاف نہیں ہے کہ قطعیوں میں سے ہر وہ شخص جو اسلام میں داخل ہوا، طلبِ دنیا ہی کے لئے داخل ہوا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان داخل ہونے والوں میں دونوں طرح کے آدمی تھے۔ کچھ تو بلاشبہ اسی لالچ سے مسلمان ہوئے کہ وہ تاجین کے برابر کے بھائی بن جائیں۔ جس کے بعد ان کا جذبہ بھی معاف ہو جائے گا اور باقی تمام حقوق میں بھی اُن کی حیثیت مساویانہ ہوگی۔ لیکن اصل ناگوار حقیقت یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں کی اکثریت اُن عقائد اور اہل الرائے پر مشتمل نظر آتی ہے جنہوں نے مسیحیت کے نقائص و معائب کو دیکھ کر اُسے ناپسند کیا تھا۔ اور اس کراہت کی پوری ذمہ داری خود مسیحیوں ہی پر عائد ہوتی ہے، جن کے اعمال سراسر اُن کی تعلیمات کے منافی تھے۔ غضبِ خدا کہ مسیحیت نے جس نوعیتِ الہی اور شفقتِ خلاق کی تلقین سب سے زیادہ کی تھی، مسیحیوں نے سب سے زیادہ خلافتِ درزی اُسی کی کی اور طرفہ یہ کہ

خود اپنے ہی دینی اور سیاسی بھائیوں کے مقابل میں کی۔

اس کا قد قتی نتیجہ یہ ہی ہونا تھا کہ جب مصر کے ارباب عقل و شعور کے سامنے اسلام اپنا پیغام امن لے کر آیا تو انہوں نے سیحوں کی بدکرداریوں سے پناہ مانگتے ہوئے اسلام کے داعی عافیت میں پناہ لی۔

۱۱۔ ملکیت زمین میں مساوات | چونکہ مسلمان ہمیشہ جہاد کے لئے دور دراز علاقوں میں جاتے رہتے تھے۔ اور اسلام کے مفروضہ وسیع علاقوں میں جگہ جگہ دفاعی ضروریات پیش آتی رہتی تھیں۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے اپنے دو خلافت میں مسلمانوں کے لئے زمین کی ملکیت کا دروازہ بند ہی رکھا۔ اور اس کے بجائے ان کے ذاتی اور عائلی اخراجات کے لئے تسلی بخش وظائف مقرر کیئے۔ چنانچہ ابن عبدالحکم لکھتا ہے کہ:-

”حضرت عمرؓ نے ایک شخص ابن مستور کے سوا کسی مسلمان کو بھی مصر کی زمین کا کوئی ٹکڑا عطا نہیں کیا اور اُس کو بھی اس لئے دے دیا تھا کہ وہ غلام تھا جس کے کافر آقا نے اُس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اُسے اپا بیچ کر دیا تھا اور اب نہ وہ کمانے ہی کے قابل تھا اور نہ ہی جنگ میں جاسکتا تھا۔ اور اسے آزاد بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا۔“

اس کے بعد جب مسلمان مصر میں پوری طرح مطمئن ہو گئے اور کسی طرف سے کسی قسم کے سیاسی خطرے کا اندیشہ نہ رہا تو پھر انہیں بھی زمینیں حاصل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ عام اہل مصر سے زیادہ زمین نہیں لے سکتے۔ اور جو بھی زمین حاصل کریں گے اُس پر عوام کی طرح وہ بھی محصول ادا کریں گے۔

اس طرح گویا عمرؓ بن عباس نے فاتح مسلمانوں اور مصر کی عام رعایا کے درمیان مساوات کا ایک عدیم المثال نمونہ پیش کیا۔

۱۲۔ فوجی مصارف | فوج کے مصارف تین ذریعوں سے پورے کیئے جاتے تھے۔

- ۱۔ حمزیہ سے جو رقم وصول ہوتی تھی اُس میں سے فوجیوں کے لئے وظائف مقرر تھے۔
- ۲۔ جس علاقہ میں فوج بھیجی جاتی تھی اُس علاقہ سے اُس کی سرروزہ جہانداری کا خرچ وصول کیا جاتا تھا۔
- ۳۔ ہر بستی میں کچھ زمین شخصی ملکیت سے مستثنیٰ اور مفاد عامہ کے لئے محفوظ کر لی گئی تھی جس سے مختلف قسم کے مفاد وابستہ تھے۔ اور اس بارے میں عمرؓ بن عباس کی طرف سے فوج کے لئے

مندرجہ ذیل ہدایات تھیں:-

نہر ماعی پر اپنی رعیت اور ہر نگران پر اپنے حلقہ نگرانی کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سبزہ زاروں کی شکل میں تم پر اپنی برکات نازل کی ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ ان سے پورا پورا فائدہ اٹھاؤ۔ ان کی پیداوار، ان کے مویشیوں کا دودھ، ان کے بڑے قالوں اور شکاروں کو اپنی خوراک بناؤ۔ اور اپنے گھوڑوں کو بھی ان چراگاہوں میں چرا کر فربہ اور طاقتور کر لو اور ان کی نگہداشت میں کسی طرح کی کوتاہی اور کمی نہ رکھو۔ اس لئے کہ یہی گھوڑے دشمن کے مقابلہ میں تمہاری سپر ہیں۔ اور انہی کی بدولت تم میدانِ جہاد میں غنیمت حاصل کرتے ہو۔ یقین جانو کہ میری نگاہ میں گھوڑوں کو بھی اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی اہمیت خود ان کے سواروں کو ہے۔ یاد رکھو جس مجاہد کے گھوڑے کو میں نے بغیر کسی بیادری کے تحیف و لاغر دیکھ لیا اُس کے وظیفہ میں سے اتنی ہی رقم کاٹ لوں گا۔

اس بات کو بھی نہ بھولنا کہ تم ہر چہار طرف سے دشمنوں کے زرعے میں ہو اور وہ تمہاری غفلت کے واقع کو نہایت غرور اور احتیاط سے دیکھ رہے ہیں۔ اُن کے دل اسس سرزمین سے اٹکے ہوئے ہیں جو اپنی زرخیزی، کثرتِ پیداوار اور دیگر بے شمار برکات سے مالا مال اور ہر لمحہ ترقی پذیر ہے۔ اس لئے یقین رکھو کہ تم قیامت تک کے لئے رات دن جہاد کے میدان میں دست بہ تیغ اور پا پر رکاب ہو۔

۱۳۱- نظامِ محاصل | عمرو بن عاص نے محاصل کا ایسا عمدہ اور جدید نظام جاری کیا جس سے قبلی ہیبت خورش ہوئے۔ اس انتظام میں بطریقِ نبیائین کے مشوروں سے بھی مدد لی گئی تھی۔

سابقہ رومی نظام کے مقابلہ میں جدید اسلامی نظام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں خراج کی مقدار کو فصل کے حالات، پانی کی مقدار اور پیداوار کی کمی بیشی کا تابع کر دیا گیا تھا۔ ورنہ اس سے پہلے ان لوگوں کو ہر حال میں مقررہ مقدار ادا کرنی پڑتی تھی خواہ موسمی حالات کیسے ہی مخالف کیوں نہ ہوں۔ پیداوار کے اندازے کی یہ صورت کی گئی تھی کہ ہر پرگنہ اور گاؤں کے سردار اپنے اپنے علاقہ کے نمائندہ بن کر ہر سال تشخیص کنندہ کمیٹی کی صورت میں ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے اور ان میں سے ہر ایک ایسا نذاری کے ساتھ اپنے علاقہ کے موسمی حالات کو سامنے رکھ کر اُس سال کا خراج متعین کرتا تھا۔ اور اس طریقہ میں اگر کبھی کمی کا امکان تھا تو دوسرے وقت اضافہ کا بھی پورا امکان موجود تھا۔ اور جب کبھی خراج اپنی مقررہ مقدار سے زیادہ ہو جاتا تھا تو اُس کی مقدار نائد کو بھی اسی علاقہ کے عام مفاد پر

خروج کر دیا جاتا تھا۔

عمرو بن عاص اہل مصر سے جتنا خراج وصول کرتے تھے وہ اُن محاصل سے بہت کم تھا جو رومیوں نے تم قسطنطنیہ کے بھاری ٹیکسوں کی صورت میں اُن پر عائد کر رکھے تھے۔

اسکندریہ والے اسکندریہ کی تعمیر کے بعد ہی سے شاہی معافی کے ماتحت ٹیکس اور منساقاتی زمین کے خراج سے مستثنیٰ رہتے چلے آئے تھے اور اس طرح رومی اور یہودی دونوں قوموں نے اہل مصر کے مقابلہ میں اپنے لئے خصوصی امتیازات قائم کر رکھے تھے۔ عمرو نے اپنے دور میں ان شاہی امتیازات کو نیکس ختم کرتے ہوئے نظام محاصل کو اسکندریہ والوں پر عائد کیا۔ جس سے مصر والے بچید خوش ہوئے۔ اور اُن کی فحشاءے قلوب سے احصائے کسری کی ساری گھٹائیں دور ہو کر اُن پر حریت اور مساوات کے چاند سورج ضیا بار ہو گئے۔

ہر شہر میں عمرو نے معتدبہ زمین مفاد عامہ کے لئے بھی مخصوص کر دی جس کی ساری آمدنی کنسیوں، حاملوں اور سرکاروں وغیرہ پر خرچ کی جاتی تھی۔

محاصل مصر کی مجموعی آمدنی کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے

بلاذری کے نزدیک اُس کی مقدار ایک کروڑ دینار بنتی ہے

مقریزی ایک کروڑ میں لاکھ بیان کرتا ہے۔

اس اختلاف روایت کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے وصولی کا اصل ضابطہ وہی دو دینارنی کس تھا جس

کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔

خراج کی اس نلیل وصولی کے باوجود بھی عمرو اس بات کے زیادہ حریص تھے کہ اہل مصر کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھیں۔ اور اس مقدار میں بھی مولیٰ مولیٰ سبائل سے کمی کر دیا کریں۔ اور اس طرح جزیرہ و خراج کی جو رقم بھی وصولی ہوتی اُسے بھی زیادہ سے زیادہ اُنہی کے قری اور ملکی مفاد میں خرچ کر دیں۔ مثلاً اُن کے لئے نہریں کھودا دیں، پل اور پلپلیاں بنوا دیں اور اُن کی معافی اور حفاظت کی خاص احتیاط کی۔ اس کے علاوہ جس علاقہ کے بارے میں بھی معلوم ہو جاتا کہ اُس کی پیداوار پر کسی مرضی یا سماوی آفت

سے اہل اسکندریہ کو خود اسکندریہ اعظم نے خراج کی معافی دے رکھی تھی۔ جسے بطا سرتے بھی بحال رکھا۔ اور اب رومیوں

نے بھی دعوت اپنی ذات کے لئے بلکہ اپنی نسلوں تک کے لئے اس حق کو محفوظ رکھا تھا اور اہل اسکندریہ خراج اور جزیرہ

کی طرح سرکاری بیچارے بھی مستثنیٰ تھے۔

سے ناگوار اثر پڑا ہے تو اس کا خراج معاف فرادیتے۔

ایک کمزور روایت میں ہے کہ خلیفہ عمرؓ کو جزیرہ عرب کے سیاسی استحکام کے لئے کثیر رقم کی ضرورت تھی۔ اس لئے وہ عمرو بن عاص سے اس بات کا برابر اصرار کرتے رہتے تھے کہ وہ مصر کا سارا خراج مرکزی بیت المال کے لئے روانہ کیا کریں۔ لیکن عمرو بن عاص کی مصر فراندی اس فرمان کے راستہ میں برابر حائل رہی۔ یہاں تک کہ خلیفہ کو مجبور ہو کر مداخلت میں اپنا لب و لہجہ بدلنا پڑا۔ جس کا اندازہ اُن کے مندرجہ ذیل خط سے ہوتا ہے۔

”افسوس ہے کہ میں تمہیں خراج روکنے کے بارے میں اتنے خطوط لکھ چکا ہوں۔ لیکن تم ان کا معقول جواب نہیں دیتے۔ حالانکہ تمہیں میری طبیعت کا پورا پورا اندازہ ہے، کہ میں تمہارے صبح اور عمدہ طریقہ عمل ہی سے خوش ہو سکتا ہوں لاگ لپیٹ کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں مصر اس لئے بھیجا تھا کہ اُسے تمہاری ذات اور تمہاری قوم کے لئے لقمہ ترناؤں بلکہ اس لئے بھیجا تھا کہ تم اپنے حسن تدبیر و سیاست سے اُس کے خراج میں خاطر خواہ اضافہ کرو گے۔“

مختصر بات یہ ہے کہ جس وقت تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے تو فوراً خراج کی رقم مدینہ روانہ کر دو۔ اس لئے کہ وہ مسلمانوں کا حق ہے۔۔۔۔۔۔“

اس کے جواب میں عمرو نے لکھا۔

”خدا کی قسم آپ کے پیش کردہ مضامین سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ زمینداروں نے مجھ سے غلہ تیار ہونے تک مہلت مانگ رکھی ہے۔ اور ان کے ساتھ اتنی سختی مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی اصلی ضروریات فروخت کر کے خراج ادا کریں۔“

اس روایت سے اس بات کا پورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ عمروؓ اہل مصر کی ترقی کو ہر چیز سے زیادہ مقدم اور ضروری سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنی اس مصر فراندی کی بدولت اپنے خلیفہ ملک کو ناراض کر لیا تھا۔

۱۴۔ عروسِ نخل کی کہانی | قبلی ہینڈ بوند میں اہل مصر کا ایک وفد عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کہنے لگا کہ ”ہمارے دریلئے نخل کی ایک قدیم عادت یہ ہے کہ یہ اس وقت تک طینیانی میں نہیں آتا جب تک کہ اس کی سالانہ بھینٹ ادا نہ کر دی جائے۔“

عمرؓ نے دریافت کیا وہ صہیف کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جب اس صہیف کی بارہویا تاریخ گزر جاتی ہے تو ہم کسی کناری لڑکی کو اس کے والدین سے منہ مانگی تمیت پر خرید کر پھر اُسے بہتر سے بہتر تہیتی لباس اور زیورات پہنا کر دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ جس کے بعد وہ اپنی روانی بکھڑکتا ہے! عمرو نے فرمایا اسلام سے پہلے جو کچھ ہو چکا، ہو چکا لیکن اب اسلامی دور میں اتنا بڑا ظلم نہیں ہو سکتا!

بات ختم ہو گئی۔ بوڈنہ کا سارا مہینہ گزر گیا مگر دریائے نیل بیدار نہ ہوا۔ اس کے بعد کا مہینہ ایسا بھی خشکی ہی میں گزر گیا۔ اور پھر قیسرے پینے میں بھی نیل سوتا ہی رہا۔ اب تو اہل مصر کو قحط سالی کا پورا یقین ہو گیا۔ اور اکثر و بیشتر افراد نے تو مصر کو چھوڑ کر چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ عمروؓ بھی متفکر ہو گئے۔ اور تمام صورت حال حضرت عمروؓ کے پاس لکھ کر بھیج دی۔ حضرت عمروؓ نے جواب میں لکھا کہ:-
تم اس ظالمانہ رسم کے ختم کرنے میں حق بجانب ہو۔ اپنے موقف پر ڈٹے رہو۔ اور میں اپنے خط کے ساتھ جو پڑنہ بھیج رہا ہوں اُسے فوراً دریا کے اندر ڈال دینا۔ پرنہ سے پر جو عبادت لکھی تھی وہ یہ تھی:-

اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ اما بعد اے نیل اگر تو اپنے اختیار سے بہا کرتا تھا تو بیٹک سویا پٹا رہ۔ اور اگر اللہ واحد و قہار کے حکم سے بہتا تھا تو ہم اللہ واحد و قہار سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو رواں کر دے!

عمرؓ نے عاصؓ نے لوگوں کو خلیفہ کے خط اور پڑنہ کی اطلاع دے کر اُس پڑنہ کو عیاشیوں کی عید سے ایک دن پہلے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ کل تک تو لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ مصر سے نکل جانے کے لئے یوریا بستر باندھے بیٹھے تھے۔ لیکن آج عید کی صبح کو جو بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نیل ٹھاٹھیں مار رہا ہے اور ایک ہی رات میں ۱۶ ماٹھ طغیانی لا چکا ہے۔
عرو میں نیل کی کہانی مسلمان مورخین نے اکثر کتابوں میں نقل کی ہے۔ ہم نے اسے نجوم نامیہ سے لیا ہے۔

شکر اس کہانی کی تاریخی اصلیت کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن مسیحی دور میں اس پر عمل کیئے جانے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور کہتا ہے کہ:-

مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ قصہ تاریخوں میں مذکور ہے۔ لیکن میں اس بات کو سفید چھوٹ سمجھتا ہوں کہ مسیحیوں نے اپنے دور اقتدار میں اس فعلِ شنیع پر عمل درآمد بھی

کیا ہوگا۔ جبکہ یہ ان کے فریب اور دیانت کے سراسر خلاف اور متناقض تھا۔
عروس نیل کا افسانہ دراصل قصہ افریقیہ کی نقل و نقل ہے۔ افریقیہ کی کہانی سورخ پلدارک نے
اس طرح بیان کی ہے کہ مہر کا ایک قدیم بادشاہ اچیتوس جب مختلف ملکی مصائب و آفات میں
گھر گیا تو اس نے اپنے پروردگار سے التجا کی کہ وہ انہامی طریقہ سے ان مصائب کا علاج اُسے بتائے
چنانچہ اس پر یہ بات منکشف ہوئی کہ وہ اپنی بیٹی کو دریائے نیل کی سہینٹ چڑھا دے، چنانچہ اُس نے
اس پر عمل کیا۔ بیٹی کو غرق کر دینے کے بعد اُسے اپنے ظلم پر سخت ندامت ہوئی اور اُس نے
جوش انتقام میں خود کو بھی نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا اور ہلاک ہو گیا۔

۱۵۔ اسکندریہ کا کتب خانہ | اسکندریہ میں ایک عظیم الشان کتب خانہ بھی تھا۔ یہ کتب خانہ دنیا کے عظیم الشان
کتب خانوں میں سے ایک تھا جس میں علوم و فنون کی بہترین کتابیں جمع کی گئی تھیں۔ اس کو بطریقہ
شاہی محلات کے متصل عجائب خانہ کی عمارت کے کئی عالیشان کمروں میں قائم کیا تھا اور ہمارے لاکھ
کے قریب کتابیں اس میں جمع تھیں۔

یہی وہ کتب خانہ تھا جس کے جلا دینے کا حکم لایا گیا اور عرصہ دراز تک عمر و اور عمرہ کے ذمہ لگایا جاتا
رہا۔ یہاں تک کہ دیگر علوم و فنون کی ترقی کے ساتھ علم نقد و تبصرہ نے بھی ترقی کی اور جب علاقے
تاریخ نے اس الزام کو تنقید و تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا تو اس کا دروغ کھل کر سامنے آ گیا۔

کتنی حیرت کی بات ہے کہ فتوحات مصر کے بعد پوری تاریخ صدیوں تک یہ قصہ کسی تاریخ میں
دکھائی نہیں دیتا۔ حالانکہ اُس دور کا قلم نژادی ان مہر خین کے ہاتھ میں تھا جنہوں نے مسلمانوں
کو مطعون کرنے اور سہمی کا بھلا اور رائی کا پہاڑ بنانے میں کوئی دقیقہ فرودگذاشت نہیں کیا۔

اس قصہ احوال کو سب سے پہلے ابوالفرج بن عسیری نے مختصر تاریخ الدولی میں درج کیا۔ پھر اُس
سے ابوالحسن الغضالی نے اپنی تاریخ الحکماء میں نقل کیا۔ یہی پھر کیا تھا۔ ان کے بعد آنے والے تمام مورخین ان
ہی کی سکھی پر کھی مارتے چلے گئے۔

۱۶۔ ڈاکٹر حسن الہامی کہتا ہے کہ واقعہ حرق کو عمر بن العاص کی طرف سب سے پہلے سورخ عبداللطیف

لہجادی بہ متونی ۱۲۲۶ء نے اپنی کتاب الاقادة والاعتبار میں بیان کیا۔

(تاریخ عمر بن العاص ص ۱۳۴)

۱۷۔ یہ دواں مورخ تیرھویں صدی سے تعلق رکھتے ہیں۔

یہ قدرِ مؤرخین کی زبان سے اس طرح بیان کیا جاتا ہے :-

اسکندریہ کا رہنے والا حنا احمدی ایک قبیلی پادری تھا جسے بد عقیدگی کے الزام میں پادریوں کی مجلس کے معادل کر دیا تھا۔ یہ شخص انقلابِ اسکندریہ کے بعد عمرؓ سے ملا اور اپنی ذکاوت و ذہانت اور علم و فضل کی بنا پر ان کا تعریف حاصل کر لیا۔ جب اُس نے عمرؓ کے دل میں رنج و نفوذ حاصل کر لیا تو ایک دن موقع پا کر کہنے لگا :-

حنا جریدی! عمرؓ! آپ نے تمہارا اسکندریہ دیکھ لیا ہے اور اس کے عجائبات پر بھی حیرت لگا دی ہے۔ لیکن آج میں آپ سے ایک ایسی چیز مانگتا چاہتا ہوں جو آپ کے لئے تو کچھ مفید نہیں ہے۔

لیکن میرے لئے بڑے کام کی ہے۔

عمر بن عباس! وہ کیا چیز ہے؟

حنا جریدی: میرا اشارہ رومی کتب خانہ کی حکمت آمیز کتابوں کی طرف ہے۔

عمر بن عباس! یہ تو ایک اہم معاملہ ہے۔ اور غلطی عمرؓ کی اجازت کے بغیر ہی خود اس بارے میں کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ چنانچہ عمرؓ نے خلیفہؓ کو سلا ماقہ لکھ بھیجا جس کا جواب وہاں سے یہ آیا کہ تم نے جو کتابوں کا ذکر کیا ہے تو اس بارے میں یہ ہے کہ اگر ان کتابوں کے مضامین کتاب اللہ کے موافق ہیں تو ہمیں کتاب اللہ کی موجودگی میں ان کی کوئی حاجت نہیں۔ اور اگر وہ کتاب اللہ کے خلاف ہیں تو ہمیں ان سے کوئی بھدردی نہیں، اس لئے انہیں آگ کے حوالے کر دو!

مؤرخین نے اس واقعہ پر مزید اس بات کا اضافہ کیا کہ عمرؓ نے اس حکم کے بعد کتابوں کو اسکندریہ کے حماروں پر تقسیم کر دیا۔ جنہیں وہ چھو بیٹھے تک برابر جھکتے رہے۔ اب ہم تاریخ کے ہسپتال میں واقعات کی میز پر تنقید کے نشتر سے اس پتلے کا پرسٹ مارٹم کرتے ہیں۔

۱۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کہانی کا راوی حنا جریدی مسلمانوں کے داخلہ مصر کے وقت سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ اس لئے کہ تاریخ سے اُس کے دورِ حیات کا تہہ ۵۲۶ء

سے بعض مسلمان مؤرخوں نے اس کا نام بھی لکھا ہے۔ اور بعض نے یحنا غری۔

میں چلتا ہے۔ جو انقلاب مصر سے ایک سو پندرہ برس پہلے کا زمانہ ہے۔

۱۲۔ دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ مورخین کا اتفاق ہے کہ بطالہس کا کتبخانہ شہداء میں اُس وقت نذر آتش ہو چکا تھا۔ جب قیصر اسکندریہ پہنچ کر اس کی بندگاہ پر ہی محصور کر دیا گیا تھا۔ جس کے بعد اس نے اپنے بھری بیڑے کو خود اپنے ہی ہاتھ سے آگ لگا دی تھی۔ اور اس آگ کی لپٹوں نے کتبخانہ کو جلا دیا تھا۔

امیازوس نامی مورخ جس کی تائید ایک دوسرے مورخ سیڈوس نے کی ہے۔ لکھتا ہے کہ اسکندریہ کا کتبخانہ جو سات سو کتابوں پر مشتمل تھا اور جسے بطالہس نے بڑی کا دغوں سے جمع کیا تھا، اسکندریہ کے حملے کے وقت نذر آتش ہو گیا تھا۔

مورخ اور سیڈوس لکھتا ہے کہ دوران جنگ میں قیصر نے شاہی بیڑے کو جلا دینے کا حکم دیا۔ اور یہ بیڑا چونکہ سمندر کے کنارے پر تھا اس لئے اس کی آگ شہر کے ایک حصے تک پہنچی۔ اور انہوں نے چار لاکھ کتابوں کے اس کتبخانہ کو خاکستر بنا دیا جو اس کے بالکل قریب ہی تھا۔ مورخ دیو کا سیڈوس لکھتا ہے کہ "..... آگ بندگاہ سے تجاوز کر کے علامات تک پہنچی۔ اور اُس نے گنیم کے ذخیروں اور کتابوں کی لائبریری کو بھی بھسم کر دیا؟

۱۳۔ یہ بات بھی باریہ ثروت تک پہنچ چکی ہے کہ کتبخانہ اسکندریہ کے ایک دفعہ جلنے کے بعد دوبارہ پھر جو جکتے قائم کیے گئے تھے وہ بھی مسلمانوں کے داخلہ مصر سے پہلے ہی تون ہو چکے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسکندریہ میں دو کتبخانے تھے۔ ایک بردیون کا۔ جو ۳۶۲ء میں زمانہ جالیناس تلعف کیا جا چکا تھا۔ دوسرا سراپوم کا جو ۳۹۱ء میں تیوفیلوس کے حملے کے وقت تلعف ہو چکا تھا۔ اور اس طرح ان دونوں کتبخانوں کا نام و نشان فتح مصر سے دو سو پچاس سال پہلے ہی مٹ گیا تھا۔

مگر کتا ہے کہ تم نے حالات سابقہ سے اس بات کا مشاہدہ کر لیا ہو گا کہ ۳۶۶ء کے زہری مناقشات میں پرستانان قیصر کس بُری طرح لُوٹے اور باد کیے گئے۔ اور گمان غالب یہی ہے کہ وہاں کا کتبخانہ بھی ان ہی مناقشات کی بھینٹ چڑھ گیا..... اور وہ بھی دعویدار ان سحیت ہی تھے جن کا ٹولہ تیوفیلوس کی سرکردگی میں مقدس عبادتگاہ معبد سراپوم پر اُسے اپنے ہی ہاتھوں سے سدا کرنے کے لیے پل پڑا تھا۔ ان حادثات کا سال ۳۹۱ء تھا۔ اور واقعات کی صداقت میں دو آدمیوں کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ کتبخانہ اُن ہی

کرد میں تھا جو اس مُعبَد کے متصل تھے اور یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ وہ مُعبَد کُل کا کُل برباد کر دیا گیا تھا۔ جس سے لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ مُعبَد کے ساتھ کتبخانہ بھی برباد کر دیا گیا تھا۔

۴۔ پانچویں صدی اچھی صدی ابد کچھ ساتویں صدی کے ابتدائی دور کے تاریخ نگار دونوں باتوں میں خاموش ہیں۔ یعنی نہ وہ کتبخانہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ اس کے جھلانے جانے کا۔

۵۔ اگر یہ بات فرض بھی کر لی جائے کہ صلح اسکندریہ کے وقت کوئی کتبخانہ وہاں موجود تھا تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ کتبخانہ روم کی طرف گیا، جیسے کی اس مُہلت میں منتقل بھی کیا جاسکا تھا جو اتفاقاً صلح اور نفاذ صلح کے درمیان رومیوں کو دی گئی تھی۔ خاص طور پر جبکہ صلح نامہ کے متن میں واضح طور پر رومیوں کو اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ اپنے ساتھ جو کچھ بھی لے جانا چاہیں لے جاسکتے ہیں۔

۶۔ اگر مسلمانوں کے دُخول اسکندریہ کے وقت کتبخانہ موجود ہوتا تو یقیناً مُردہ اس کی پوری پوری حفاظت کرتے۔ اس لئے کہ آزادی فکراً اسلام کا جو ہر حیات ہے۔ اور اسی جو ہر حیات کی حفاظت اسلام کے دورِ اوّل میں سب سے زیادہ کی جاتی رہی ہے۔

۷۔ اصلاحی تعلیمات میں اس بات پر پورا زور دیا گیا ہے کہ یہودیوں اور نصاریوں کے مذہب اور مذہبی کتابوں سے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ ان تعلیمات کی موجودگی میں کتبخانہ کا جھلایا جانا مسلمانوں کے لئے قطعاً ناممکن ہو جاتا ہے۔

۸۔ باقی رہا ابوالفرج کا یہ قول کہ کتابیں چار ہزار حماہوں میں تقسیم کی گئیں جنہیں وہ چھ مہینے تک پھونکتے رہے، اس قول میں واقفیت سے زیادہ افسانویت نظر آرہی ہے۔ اور عقل سلیم اسے قبول کرنے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہے۔

۹۔ نیز ابوالفرج کی یہ روایت جس کے بلکے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بغدادی سے نقل کی گئی ہے پوری چھ صدیوں کے بعد ظہور پذیر ہوئی ہے۔ اور اتنی لمبی مدت تک کسی نسخہ پر اس کا انکشاف نہیں ہوا۔

مورخ اور تاجموس جس کا خصوصی موضوع ہی فتح اسکندریہ تھا، اس کہانی سے لاعلم رہا۔ اور اسی طرح طبری، یعقوبی، کندی، ابن عبدالحکم اور بلاذری میں سے بھی کسی کے رسائل علم اس تک نہ پہنچ سکے۔

۱۰۔ سب سے آخری اور فیصلہ کن بات یہ ہے کہ حنا نقیوسی جس نے عربوں کے دُخول مصر کو اپنا موضوع تحریر بنایا اور جو مسلمانوں کے خلاف صفحہ اوّل کا علمی حملہ آور ہے اُس تک نے

کتبخانہ اسکندریہ کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے

سلاج ماخوذہ

لیک مصر اپنے تمام شمال اور جنوب ایشیائی اور دیاتوں، قلعوں اور خندقوں کے ساتھ عرب فرما کر والی نہیں آچکا ہے۔ عربوں نے اس میں ہر طرح کی شہری آنا دیوں کا اعلان کر دیا ہے، عرب اور باشندگان مصر کے درمیان تعاون و اعتماد کے خوشگوار رابطے پیدا ہو چکے ہیں۔ اس فضا کے پیدا کرنے میں سب سے بڑا دخل سرکھری محاصل کو ہے جن کی وصولی کو عمرؤ نے اٹا ہی ہلکا آسان اور سہل بنا دیا ہے جتنا کہ اُسے رومیوں نے بھاری دشوار اور سخت بنا دیا تھا۔ سیاسی مہربان جو فتح و شکست کو اسباب و عوامل کی روشنی میں دیکھنے کے عادی ہیں، مصری فتوحات کے اسباب و عوامل کا مندرجہ ذیل جائزہ پیش کرتے ہیں۔

فتوحات مصر کے اسباب اہم عوامل

۱۔ نظم و ضبط | فوجی طاقت خواہ کتنی ہی تلیل التعداد ہو، اپنے ذاتی منصبی ادا کرنے کے لئے نظم و نسق کے جن مختلف اداروں اور تنظیمات کی محتاج ہوتی ہے۔ عمرؤ بن العاص نے اُن کے اہتمام میں حتی المقدور پوری توجہ سے کام لیا۔

اسلامی افواج قلعہ بابلون کو فتح کرنے کے بعد جب شمالی جانب اسکندریہ کی طرف مدائن ہوئیں تو عمرؤ نے قبلی انجینئروں کو نظم حکومت میں داخل کر کے اُن کی صلاحیتوں اور فنون سے قدم قدم پر کام لیا۔ اور شاہ دارا ہوں اور یوں کی تعمیر خاص طور پر اُن ہی سے کرائی۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ عمرؤ کی دُور بین نگاہ اس بات کا شعور رکھتی تھی کہ اگر یوں اور سرساکوں وغیرہ

۱۔ اردو میں سب سے پہلے سر سید احمد خاں مرحوم نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور ایک مضمون اس فضا کے فرضی ہونے کے بیان میں اپنے اخبار علیحدہ سائنٹفک سوسائٹی میں لکھا اس کے بعد ایک نہایت معتاد، عالمانہ اور فاضلانہ مقالہ اس حقہ کے لغو اور غلط ہونے کے متعلق شمس العلاء مولانا شبلی نعمانی نے کتب خانہ اسکندریہ کے مضمون سے تحریر فرمایا جو کتابی شکل میں چھپ گیا۔ اور مولانا کے مجدد مضامین "مقالات شبلی" میں بھی شامل ہے۔

(معاہدہ بلاتی پی)

کے پُر مشقت کاموں میں عرب فوج کو کھجا دیا گیا تو ان کے وہ اندرونی قومی مضعل ہو جائیں گے جن سے انہیں دشمن کے مقابلہ میں کام لینا ہے۔ اس لئے انہوں نے ہر مرحلہ پر ایک بالغ نظر جو نیل کی طرح اس بات کا خصوصیت کے ساتھ لحاظ رکھا کہ جب بھی فوج کو دشمن سے لڑائیں اس حالت میں لڑائیں کہ وہ حتی الامکان تازہ دم اور محفوظ القوی ہو۔ تنگی ماندہ اور مضعل نہ ہو۔

سڑکوں کی درستی اور پلوں کی تعمیر میں بھی یہی مصلحت کارفرما تھی کہ فوجوں کو جگہ جگہ نامہوار راستوں اور حائل ندی نالوں کو عبور کرنے میں اپنے وقت اور اپنی قوتوں کو ضائع نہ کرنا پڑے۔
 عمرو کی دوسری حملہ فراسات یہ تھی کہ انہوں نے قبلی شرفاء اور سرداروں کو حسن سلوک کے ذریعہ اپنا گرویدہ بنا کر ان کی ایک جماعت کو سفر میں اپنے ساتھ لے لیا۔ تاکہ وہ ان کے ذریعہ ان اہل ملک سے گفت و شنید اور تبادلہ خیالات کر سکیں جو عربی زبان سے اسی طرح ناواقف تھے جس طرح عرب ان کی زبان سے نا آشنا تھے۔

یہ بھی عمرو کی دانائی ہی تھی کہ جب انہوں نے اسکندریہ کے مضافاتی علاقے کو خالی پایا تو متروک مکانات کے ملبہ سے دریائے نیل کے پل کی تعمیر کا حکم دے دیا جسے وہ فوجی اور ملکی ضروریات کے لیے قلعہ بابلون کے قریب تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ اور جس کے لیے ان کے پاس مسابن تعمیر کا کچھ نقدان تھا۔ اگر عمرو اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاتے تو پل کی تعمیر نہایت دشوار اور موخر ہو جاتی۔
 فوجی نظم و ضبط کے سلسلہ میں سب سے زیادہ اہم شعبہ فوجی مواصلات یعنی فوج اور قائد کے درمیان ربط و اتصال کا شعبہ ہے۔ اسی کے ذریعہ سہ سالار کے احکام فوجیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اسی کی مدد سے فوج کے پیش آمدہ حالات سے سپہ سالار کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ عمرو بن عاص نے اس اہم شعبہ کو کسی وقت بھی نظر انداز نہیں کیا۔

جس میدان میں اس رابطہ کی بھری اہمیت ظاہر ہوئی وہ کوم شریک کا میدان تھا۔ جہاں رومیوں نے اپنی کثرت تعداد کی بنا پر عربوں کو چاروں طرف سے محاصرہ میں لے لیا تھا۔ اور اپنے چوڑی حملوں سے انہیں ہراساں کر دیا تھا۔ شریک نے سنگین صورت حال کا اندازہ لگانے کے بعد مالک کو ایک صہار قنار گھوڑے پر سوار کر کے حکم دیا تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے رومی حصار کو توڑ کر عمرو تک پہنچ جائے اور صورت حال سے آگاہ کرے۔ جس کے بعد عمرو نے تیز رفتار ملک بھیج کر رومی حصار کو توڑ دیا تھا۔ اور جنوبی عربوں کا رابطہ اپنے قائد کے ساتھ دوبارہ قائم ہوا۔ تو ان کے حوصلے بکرم بلند ہو گئے۔ اور شکست قریب کو فتح مہین کی صورت میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

یہ بھی فوجی مواصلات ہی کی برکت تھی کہ جب اسکندریہ کا محاصرہ طویل ہو گیا اور مسلمانوں میں کچھ مایوسی کے آثار پیدا ہو چلے تو فرما خلیفہ عمرؓ کے احکامات اُن کے پاس پہنچ گئے، جن سے ان کے اندر ایک نیا دہلا اور جوش پیدا ہو گیا اور نازہ دم حملہ سے انہوں نے اسکندریہ کو فتح کر لیا۔ غرض یہ کہ مواصلات ایک ایسا اہم شعبہ ہے جس پر فوج کی کامیابی تمام تر موقوف ہے اور عمرؓ نے جتنی فتوحات بھی کیں اُن میں اس عامل موثر کی کار فرمائی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔

مستقل کیمپ یا چھاؤنی بھی فوج کی اولین ضروریات میں سے ہے، عمرؓ نے اس کے اہتمام میں بھی زیادہ دیر نہیں لگائی، جونہی وہ اسکندریہ سے فارغ ہوئے بلاتا خیر منطا کی چھاؤنی بسا میں مصروف ہو گئے۔

آپ نے فوج کی رسد اور خوراک کے شعبہ کو تعین ذرائع سے مکمل کیا۔ (۱) جزیہ میں فوج کا حصہ سفر کر دیا (۲) جہاں کہیں فوج اپنا کیمپ ڈالے وہاں کے باشندوں پر اُس کی قین دن کی خاک ہانک کر دی۔ (۳) ادا آگے چل کر فوجیوں کو زمین خریدنے کی بھی اجازت دے دی۔ بشرطیکہ وہ اُس کا مقررہ بلایا ادا کرتے رہیں۔

عربوں کا سب سے بڑا فوجی سہیارا اُن کے گھوڑے ہی تھے، اس لئے عمرؓ نے ان کی غور و پرداخت کو پوری اہمیت دی، اور اُن کا اس بارے میں اس مضمون کا حکم آپ گذشتہ ادراک میں پڑھ چکے ہیں کہ گھوڑوں کی نگہداشت میں کسی طرح کمی نہ کی جائے، اور اگر میں نے بیماری کے بغیر کسی گھوڑے کو نجیب و لاغر پایا تو اُس کے سوار کا وظیفہ اسی مقدار سے کم کر دیا جائے گا۔

۲۔ قائم کی شخصیت میدان جنگ میں | فوج کے سپہ سالار کے لئے یہ بات اشد ضروری ہے کہ وہ میدان جنگ میں اپنی فوج کے درمیان موجودہ ایک ایک سپاہی کے ساتھ مربوط اور میدان کے ہر نشیب و فراز سے باخبر رہے اور اس سے دو اہم نائد سے وصل ہوتے ہیں۔

۱۔ پہلا نائد تو یہی ہے جسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ قائم اپنی آنکھوں سے حالات کا صحیح مشاہدہ کر کے میدان کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو بروقت پورا کر سکتا ہے۔

۲۔ دوسرا نائد یہ ہے کہ اپنے سپہ سالار کو اپنے شانہ بشانہ دیکھ کر فوج کے حوصلے بلند اور جذبات ڈھال ہوتے ہیں۔ وہ اُس کے جوش و خروش کو خود اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اس جیسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں۔ اُس کی ڈور و صوب کی نقل اتار تے ہیں اور اس کی مجموعی صفات بہت و شجاعت دلیری دعوات اور شوق جہاد کو نورہ تقلید بنا کر دیکھے ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔

تسخیر بالیون اور سقوط سکندریہ کے درمیانی وقفہ کی لڑائیوں میں عمرو بن عامر خود میدان میں مجاہدین کے دوش ہر دوش ہو کر جنگ کرتے تو یقیناً میدان کا رخ کچھ دوسرا ہی ہو جاتا۔
حقیقت تو یہ ہے کہ کثرت تعداد کے باوجود رومیوں کی پہلے درپے شکست کے اسباب میں سے ایک قومی سبب یہ بھی تھا کہ ان کے سپہ سالار یا دوسرے سے میدان میں آتے ہی نہیں بچتے یا پھر آتے بھی تھے تو نیم دل اور بزدلی کے احساسات لینے ہوئے آتے تھے۔ جن کا عکس غیر شعوری طور سے فوج پر بھی پڑتا تھا۔ اور وہ ان سے پہلے ہمت ہار بیٹھتے تھے اس کیفیت کا شاندار مظاہرہ تیسوس کی مہم میں دیکھا جا چکا ہے۔ جب رومی قائد و منقذ نما مسلمانوں کی صورت دیکھتے ہی ایسا رعب ہوا کہ بدحواسی کے عالم میں فوج اور بیڑے کو چھوڑ چھاڑ اسکندریہ کی طرف بھاگ نکلا۔ اور پھر اُس کے بعد اُس کی فوج کا جو حشر ہونا چاہیے تھا وہ بھی آپ گلاشتہ اذواق میں پڑھ چکے ہیں۔

کوئی شریک کی جنگ میں بھی اگر ٹائو فوج شریک موقع پر موجود نہ ہوتے تو مالک کو برکت عمرو کے پاس امداد طلبی کے لئے نہ بھیج سکتے اور ایک لمحہ کی تاخیر سے فتح کا امکان شکست میں تبدیل ہو کر رہ جاتا۔ نیز یہ کہ اگر شریک اپنی فوج کے ساتھ خود شریک جنگ نہ ہوتے تو مسلمانوں کی مصلحتی سبب جہت بھی وہی تھی مگر تندر بلکہ اس طرح ڈٹ کر کبھی نہ کر سکتی۔

قلوہ کرپن کی جنگ میں غول محاصرہ کی اندر دگی کو جوش اور دلہلہ میں جس چیز نے تبدیل کیا وہ بھی یہی تھی کہ عمرو نے نماز غوث ادا کر کے پہلے خود اپنے اندر آہنی عزم اور استہشیں حوصلہ پیدا کیا اور پھر ان کے کرنٹ نے ایک ایک فوجی کے دل کو گرا دیا۔ جس کے بعد انہوں نے ایک آخری حملہ کر کے کرپن کی مہم کو سر کر ہی لیا۔

اس عسکری داز کی اہمیت کو صرف عمرو ہی نہیں جانتے تھے بلکہ ہر مسلمان کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ ہمارے درمیان عمرو کی شخصیت کا وجود ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کا ثبوت یہی اُس وقت ملتا ہے جب اسکندریہ کے حملہ میں عمرو اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ شہر کے اندر محصور ہو گئے تھے۔ اور پھر رومیوں کے ساتھ طے کردہ شرائط کے مطابق ایک رومی بارہ انفرادی مقابلہ کے لیے مبارز طلب ہوا تو مسلمانوں نے یہ کہہ کر عمرو کو اس کے مقابلہ پر جانے سے روکا تھا کہ مسلمانوں کا نظر و نطق اور ان کے دل تمہاری ذات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالو۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی وابستگی عمرو کی شخصیت کے ساتھ کس درجہ تھی۔

اسی طرح اسکندریہ میں جب رومی سالار کو عمرو کی باتوں سے اُس کے سردار ہونے کا شبہ ہوا تھا اور قریب تھا کہ وہ اُن کو قتل کر دے تو اُس کے غلام نے اُن کے چہرے پر طمانچہ رسید کر کے اُن کی جان بچالی تھی اور ثابت کر دیا تھا کہ مسلمان عمرو بن عاص کی شخصیت کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور قابلِ حفاظت سمجھتے ہیں۔

اس کے مقابلہ میں رومیوں کا معاملہ عکس تھا۔ جب اُن کا شہنشاہ زندہ تھا تو وہ خود اُس کے مقابلہ میں بھی سرکشی کرتے دہتے تھے۔ پھر جب وہ مر گیا تو اس کے درہنڈوں کے درمیان سیاسی رقابت شروع ہو گئی اور جب اسی کشاکش میں ہر مجلسِ تخت نشین ہو گیا تو پھر بھی فوج میں شورش اُٹھی اور اُس نے کوشاں کو بجز شریک تاج کرایا۔

مزید برآں رومی افواج کا سالار اعظم تھیوڈور نبات خود ایک کمزور طبیعت کا شخص تھا۔ یہاں تک کہ اُس کی اس کمزوری کا علم خود اس کی فوجوں کو بھی ہو گیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جب سپہ سالار کمزور ہوتا ہے تو فوج میں اس سے پہلے کمزوری اور نزولی آجاتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ فتح و نصرت کے عوامل میں سے ایک بہت بڑا عامل یہ ہے کہ فوج کی قیادت مضبوط اور فولادی شخصیت کے ہاتھ میں ہوتا کہ وہ اُس سے بہتر سے بہتر کام لے سکے۔

۳۔ حملہ | ہالیون اور سکندریہ کے درمیان جتنے مقابلے پیش آئے اُن کے حالات صاف بتا رہے ہیں کہ ہر مقام پر عمرو بن عاص نے حملہ آور کی پوزیشن اختیار کی اور رومیوں نے مدافعت کی۔ کہیں کہیں اگر رومیوں کی طرف سے حملہ ہوا بھی تو وہ ضمنی اور مقامی حیثیت کا تھا اور صرف اس لئے کیا گیا تھا کہ حاصرے کی شدت میں کچھ کمی ہو جائے۔

عمرو نے شعوری طور پر ایسا کیا تھا۔ اس لیے کہ وہ اس فوجی لاز سے بخوبی واقف تھے کہ فتح و نصرت کا دار مدار منطقی عمل کا ہے جس سے اسرا ثباتی عمل پر ہے۔ حملہ آور کا حوصلہ نفسیاتی طور پر بلند ہوتا ہے اور اس کے مقابلہ میں حملہ زدہ کا حوصلہ لپٹ اور قدرتی طور پر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ عمرو اسی لیے دشمن کو پیش قدمی کا موقع بہت کم دیتے تھے اور اُس کے میدان میں نکلنے سے پہلے ہی اُس پر جا پڑتے تھے۔

یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ حملہ آور اپنے ہر حملہ میں فوری طور پر کامیاب بھی ضرور ہو جائے۔ اگر ظاہری کامیابی حاصل نہ بھی ہو تب بھی اُس کے بہت سے دوسرے معنوی فوائد اور نفسیاتی اثرات ایسے ہوتے ہیں جو دیر میں ظاہر ہوتے ہیں اور دُور رس نتائج پیدا کرتے ہیں۔ ایسے حملوں سے دشمن کے جانی اور مالی نقصان کے علاوہ بڑا نائدہ یہ ہے کہ دشمن حملہ آور کی شجاعت و شہامت اور قوتِ المادی سے

مغرب ہو کر دوسرے مقامات پر اُس کا راستہ روکنے کی جرات کم ہی کرتا ہے۔ اور ایسا وقت مناسب موقع پر اہلِ صلح بھی ہو جاتا ہے۔

نیشیہ مصر کے علاقوں میں عمروؤ کے بیشتر حملے اسی قسم کے تھے۔ جاگڑ بڑ بنا ہر ان معنی میں ناکام رہے کہ وہ قلعوں کے دروازے توڑ کے زور سے فدی طور پر نہ کھلوا سکے۔ لیکن اُس اعتبار سے ضرور کامیاب رہے کہ رومیوں کو مسلمانوں کی طاقت کا صحیح اندازہ ہو گیا اور وہ ہر حملہ میں بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانے کے بعد آخر کار صلح پر آمادہ ہو کر سوجھ بوجھ کر زیادا کرنے لگے۔

۴۔ فوج کا بچاؤ | عمرو بن عاص اپنی فوج کی سلامتی اور اُس کے مفاد کے تحفظ کا ہر وقت خیال رکھتے تھے یہی وجہ تھی اسکندریہ کی طرف کوچ کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی فوج کا ایک دستہ خاندان بن صفا کی سرکردگی میں بابلون پر متعین کر دیا۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی فوج عقب سے محفوظ ہو جائے۔ اور ایسا نہ ہو کہ ہم اسکندریہ کی طرف روانہ ہو جائیں تو ہمارے پیچھے بابلون پر دوبارہ دشمن قبضہ کر کے ہمارے لیے نیا خطرہ کھڑا کر دے۔

اسکندریہ کی طرف مارچ کرنے کے لئے نیل کے مغربی ساحل کو بھی اسی بنا پر منتخب کیا گیا کہ یہ نہروں اور نالوں سے محفوظ تھا۔ بخلاف مشرقی ساحل کے جس میں جگہ جگہ نہریں اور نالے تھے جن کو عبور کرنے میں فوج کو تکلیف اٹھانی پڑتی اور اُن کے گھوڑوں کو بھی دشواری کا سامنا ہوتا جو اُن کی سب سے زیادہ محبوب سواہی اور سب سے زیادہ کارگر سامان جنگ تھا۔

ماستہ میں جب انہوں نے شہر نقیوس کے قلعہ اور اس کی فوجی اہمیت کو دیکھا تو اُسے بھی اپنے عقب میں آزاد چھوڑ کر آگے بڑھنا مناسب نہ سمجھا اور اُسے بھی اسی فوجی مصلحت کے پیش نظر تسخیر کیا کہ اسکندریہ کی جنگ میں اُس کی طرف سے کوئی اندیشہ مسلمانوں کے دل میں باقی نہ رہ جائے۔ محاصرہ اسکندریہ کی طوالت کا اندازہ کرنے کے بعد جب عمرو بن عاص نے فوج کے ایک حصہ کے ساتھ نیشیہ مصر کا رخ کیا تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آخری اور فیصلہ کن حملے کا وقت آنے سے پہلے ہی نیشیہ علاقوں کی طرف سے بھی اطمینان کر لیا جائے تاکہ اسکندریہ پر بھرپور حملہ کے وقت فوج اُس طرف سے مطمئن رہے۔

۵۔ اخلاقی طاقت | عمرو بن عاص کی فوج اسلام کی سر بلندی کے لیے جنگ کر رہی تھی۔ اُن میں سے ہر ایک موت کا شائق اور ایک دوسرے سے بڑھ کر شہادت کا طلبکار تھا۔ اس لیے کہ ان سب کو یقین تھا کہ شہادت ہی ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ یقینی طور پر جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ جس فوج کا شعور اتنا بلند اور مقصد اس قدر مخلصانہ ہو جس کے دل سے موت کا خوف

کلیتہً خُند ہو چکا ہو اور جس کا ایک ایک فرد قتل ہو جائے کو سادستِ ابدی تصور کرتا ہو تو پھر وہ میلانِ جنگ میں پہاڑ کی چٹان ثابت نہ ہوں گے تو اور کون ہو گا۔

ایسی فوج تھی جس کو لے کر عمرؤبن عاص اس وقت کی سب سے بڑی متمدن اور شریک اکثر الفوج اور کثیر الاسلحہ حکومت سے جا کر لائے اور قدم قدم پر فتوحات حاصل کرتے چلے گئے۔ یہیں تک کہ اس کا کلیتہً استیصال کر دیا۔

مسلمانوں کی اس اخلاقی اور ایمانی طاقت کا اعتراف خود وہ بھی کو بھی تھا۔ جس کا ذکر وہ اپنی مجلسوں میں بھی کرتے تھے۔ مسلمانوں کی اسی طاقت نے اُن کے عام و خواص پر اس درجہ تسلط پایا تھا کہ وہ اپنی کثرتِ تعداد کے باوجود مسلمانوں سے ہر وقت خوفزدہ رہتے تھے۔

محاصرہ اسکندریہ کے دوران جب مقوقس نے قلعہ کے تمام مردان کو فیصل کے ادھر کھڑ کر کے اپنی کثرتِ تعداد کا مظاہرہ کیا تھا تو اس کے جواب میں عمروؓ کے یہ الفاظ بولے گئے کہ

ہم نے اب تک جتنی فتوحات کی ہیں وہ قلت ہی کی طاقت سے کی ہیں۔ اور

تمہارے ہر قتل کا جو عبرتناک انجام ہو چکا ہے وہ بھی اسی اقلیت کے ہاتھوں ہوا تھا۔

عمروؓ کے اس بہادرانہ جواب ہی نے قبریں کا پتہ پائی کیا تھا۔ جس کے بعد اُسے صلح کے سرا اور

کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔

اس کے برخلاف رومی محاذ میں اخلاق اور کردار کی طاقت کا بہت زیادہ فقدان تھا۔ وہ سبھا حوصلہ عراق اور شام کی شکستوں اور خود ہر قتل کے تسلطِ ظہیر کی طرف زبردستی ختم کر دیا تھا۔ اور اُن کے تحت الشعور میں یہ احساس کتری پرست ہو گیا تھا کہ خواہ ہم عربوں کے مقابل میں مقدار کے لحاظ سے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں لیکن ان کا مقابلہ کسی حالت میں بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ تقریباً ہی اسی قسم کے مواد پر مشتمل تھی جس کے ذریعہ قبریں نے اسکندریہ میں اعلانِ صلح کے وقت اپنے فوجی انصران کو صلح پر آمادہ کیا تھا۔

۶- تدبیر علی (پالیٹکس)

قائد کے لئے دیگر صفات کے ساتھ تدبیر اور فراست کی بھی اشد ضرورت ہے۔ اس لئے کہ بہت سے وہ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو حیرت انگیز تدبیر ہی سے سلجھ سکتے ہیں اور طاقت کے استعمال کی ذمہ داری نہیں آتی۔ اور خود طاقت استعمال کرتے وقت بھی طاقت سے زیادہ تدبیر کی کارفرمائی ہوتی ہے۔ اور اُس وقت تک کسی جنگ کا نکتہ بتایا ہی نہیں جب تک قائد اپنے دشمن کے مزاج اور رجحان، طاقت اور

گردی احاطات اور ماحول کے تقاضوں، اُن کی دل انگیزی اور جذبات وغیرہ کا گہرا مطالعہ نہ کر لے اور پھر اس مطالعہ کی روشنی میں سوچ سمجھ کر ایسا جامع نقشہ نہ بنائے جو قبل جنگ، دوران جنگ اور پھر بعد جنگ کے تقاضوں پر حاوی ہو۔

عمرو بن عاص کو اس صفت کا بھی فخر حصہ ملا تھا۔ وہ ایک اچھے مدبر اور پالیٹیشن قرار کیے جاتے تھے اور مصر کے غزوات و فتوحات اس کی روشن شہادت ہیں۔

یہ عمرؤ کی فراست، تدبیر اور بالغ نظری ہی تھی جس کی بدولت انہوں نے مصر کے خواص کو بہت جلد مانوس کر کے اپنے گرد جمع کر لیا اور اُن سے بڑے بڑے کام لینے، اور اُن کے عوام کو بھی ملکی اصلاحات کے ذریعے ایسا خوش کیا کہ وہ اسلامی نظام عدول مساوات کے ترانے گانے لگے اور بہت جلد ان کے دلوں سے ان مظالم و مصائب کے احساسات کو محو کر دیا۔ جو رومی دور میں اُن کے صبر و برداشت کا پیمانہ لہریں کر چکے تھے۔

مصر کے قبلی اسلام کی اعتقادی اعلیٰ اور سیاسی برکات کے چرچے تو بہت پہلے سے سُن رہے تھے اور وہ وہاں کے مایوس کن برتاؤ سے تنگ، اگر نجات دہندہ کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے لیکن اسلام کی برکات کا معنی مشاہدہ اور عملی تجربہ انہیں عمرؤ کی فتوحات کے بعد تھا۔ جب انہوں نے وہاں کے سیاہ جھکوٹے کی روشنی کے دور میں تبدیل کر دیا اور غلامی کی بجائے مساوات، انظلم کی جگہ عدل و انصاف اور خود غرضی کی جگہ ایثار و قربانی کی فرمانروائی قائم کر دکھائی۔

عمرؤ نے فاتح اور مفتوح کے امتیاز کو ختم کر کے زمین کے خراج میں مسلمانوں کو بھی اہل مہر کے برابر کیا۔ اہل مہر کو عقیدہ، فسلو اور مذہب کی بھی مکمل آزادی عطا کی۔ عمرؤ نے جب دیکھا کہ مصر والوں کے دل اپنے سب سے بڑے مذہبی پیشوا انبیاء میں کی گم شدگی کی وجہ سے شکستہ ہیں تو انہوں نے اعلانِ غزو کے ذریعہ اُس کو تکانش کیا اور پھر اپنے حسن سلوک کے نتیجہ میں اُن کی زبان سے مندرجہ ذیل اعلان کرایا جو اہل مصر کے لیے شاہی فرمان تھا۔

”میں دوبارہ اپنے وطن میں داخل ہو رہا ہوں۔ اور اس حال میں ہو رہا ہوں جبکہ یہاں

خون کے بواہن کا سہل ہے اور مصیبت کے بعد راحت کا قدر دور ہے اور اللہ تعالیٰ

نے کفار کے جبر و تسلط سے ہم سب کو آزاد کر دیا ہے۔“

اہل مصر کو جس چیز نے زیادہ مطمئن کیا وہ محاصل کا جدید نظام تھا جس میں اُن کے حالات اور گنجائش کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا تھا۔

رعایا پروری اور ایثار و قربانی کی ایک بہترین مثال یہ پیش کی گئی کہ اگر کبھی خراج پیداوار کے اضافہ کی بنا پر مقررہ مقدار سے زیادہ وصول ہوتا تھا تو اُسے اسی علاقہ کی بہبود پر خرچ کر دیا جاتا تھا۔ عمرؓ نے کنیوں اور عبادت گاہوں کو کبھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ ہر شہر میں کچھ زمین مفاہد عامہ کے لیے مخصوص کر دی گئی جس سے فوج اور رعایا دونوں کے معالجہ و ابستہ تھے۔

عمرؓ نے یہ نہیں کیا کہ افسرانِ علاقہ کو ہٹا کر اُن کی جگہ عربوں کو مقرر کر دیا ہو۔ بلکہ سابق خطیوں ہی کو ان کے استخانات پر مقرر رکھا۔

عمرؓ قابلِ ذکر ملکی اصلاحات میں بنیامین کا مشورہ حاصل کرتے رہے۔ اور ان کا یہ طریقہ عملین تقاضائے اخلاص تھا۔ اس لئے کہ وہ مصر کی حقیقی خدمت کرنا چاہتے تھے اور کسی ملک کی حقیقی ضروریات کو وہی لوگ صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں جو اس ملک کے باشندے ہوں۔

سیاست، تدریج اور پالیسی کے یہی مذکورہ بالا عوامل تھے جنہیں عمرؓ نے مصر میں اختیار کیا۔ اور یہ انہی عوامل کی برکت تھی کہ مصر کی سر زمین پر اسلامی حکومت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مضبوط اور مستحکم ہو گئی۔

اسکندریہ کی بازیابی

رومی مصر سے فتنے کو تو نکل گئے تھے لیکن اُن کے دل بدستور اُس میں اٹکے ہوئے تھے۔ وہ ہمارے اپنی گردنیں لمبی کر کے اُس کی طرف حسرت کی نظر دل سے دیکھ رہے تھے۔ مصر اُن کے لیے مرنے کی چڑیا تھا اور انہیں اُس کے نکل جانے کا صدور منام اور غلطیوں کے نکل جانے سے بھی بہت زیادہ تھا۔ اس لیے وہ اس کی بازیابی کے لیے مناسب موقع کی تاک میں تھے اور یہ موقع انہیں جلد ہی مل گیا۔

خلیفۃ المسلمین حضرت عمرؓ شہید کر دیے گئے۔ اُن کے بعد حضرت عثمانؓ نے خلافت پر حکم ہو کر ۱۶ صفر ۳۵ھ مطابق ۱۰ نومبر ۶۵۵ء کو حضرت مغیرہؓ بن شعبہ کے بحری فلامہ لڑاؤ کے باعث سے شہید ہو گئے۔ یہ شخص فارس کا رہنے والا تھا اور جنگِ نادر میں گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا تھا۔ حضور نے حضرت غلامیؓ کی مشابہت اور زہر کو نکلی ہے جو غلط ہے، مگر احمادی ہے۔

۱۱۰۰ سے جامع القرآن حضرت عثمانؓ بن عفانؓ کی عمر ۳۵ھ (مطابق ۱۰ نومبر ۶۵۵ء) کو خلیفہ ہوئے اور حضرت عمرؓ بن العاصؓ کی معزولی ۱۱۰۰ قبل طبری ۳۵ھ میں ابو بکر بن ابی اسیر ۳۵ھ میں واقع ہوئی۔ معرکہ نامہ مہرہ ڈاکٹر احسن ابراہیم حسن کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت عمرؓ بن العاصؓ کی معزولی اسکندریہ پر رومیوں کے حملے کے بعد ۳۵ھ کے آغاز یا ۳۶ھ کے آغاز میں ہوئی (عمر بن العاصؓ کو لڑنے ڈاکٹر احسن ابراہیم حسن) (عمر احمادی ہے)

عمرو بن عاص کو قیادت مصر سے سزا دل کر دیا۔ اور اُن کی جگہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو والی مصر بنایا۔ عمرو بن عاص نے مصر چھوڑ کر حبشہ عرب میں قیام اختیار کر لیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے۔

اسکندریہ سے رومیوں کو دعوت | ادھر برقاہت ابن الاثیر اسکندریہ میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے جو مسلمانوں کے نظام سے متاثر اور رومی نظام کی واپسی کے آرزو مند تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرتے اور تمام حالات سے رومیوں کو باخبر کرتے رہے بالخصوص عمرو بن عاص کی معرفتی کے بعد تو انہوں نے شاہ روم کو صفات الفاظ میں مطلع کر دیا کہ اس وقت عمرو کی عدم موجودگی بہت عمدہ موقع ہے کہ اسکندریہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا جائے۔

ان لوگوں کے مسلمانوں سے ناخوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جدید والی مصر عبداللہ کی توجہ تمام تر جہتوں پر کی تھی بڑھانے اور نئے نئے ٹیکس عائد کرنے کی طرف تھی جسے وہ لوگ برداشت نہ کر سکے اور حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشیں کرنے لگے۔

شاہ روم کی رائے | شاہ روم کو مصر کا ہاتھ سے جاتے رہنے لاپتہ زبردست تعلق تھا اور اُس کے زخم ہزیمت سے بھی ابھی تک تازہ اور گرم خون جاری تھا۔ اہل اسکندریہ کے دعوت نامے کو دیکھ کر اُس نے ایک بار پھر اپنی بے عزتی کا بھر پورا انتقام لینے اور مصر کی اس سرزمین کو جس کی آمدنی اُس کے خزانہ عامرد کی سب سے بڑی کفیل تھی۔ عربوں کے پنجے سے داگدار کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔

۱۰۰ | یا قوت نے عبداللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قریش کے سب سے زیادہ معقول اور شریف آدمی تھے لیکن طبری کی رائے اس کے خلاف یہ ہے کہ حضرت عثمان کے گورنروں میں عبداللہ دلی مصر سب سے بُرا آدمی تھا (ج ۳ ص ۵۵۴) ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین حیات میں ہی عبداللہ مرتد ہو کر مشرکین میں جا ملا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اس کا خون بدو کر دیا تھا۔ لیکن طبری حضرت عثمان نے اُس کے لئے امان حاصل کر لی۔ جس کے بعد وہ دوبارہ داخل اسلام ہو گیا۔

۱۰۱ | بقول طبری عمرو اس دوران میں مکہ میں مقیم رہے۔ — بقول ابوالحسان حضرت عثمان نے عمرو کو اس لئے معزول کیا تھا کہ وہ ذیل سے جنگ کرنے کے لئے نارغ ہو جائیں۔ (ص ۳۰) لیکن یہ روایت مشکوک ہے۔

شاہ نے ایک لمحہ ضائع کئے بغیر اسکندریہ پر فوج کشی کے لئے بحری فوج کا ایک عظیم الشان دستہ تیار کرنے کا حکم دے دیا اور اس بات کی محنت تاکید کر دی کہ اس تیاری کو تمام تر صیغہ راز میں رکھا جائے اور کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔

بحر یہ تیار ہو گیا۔ شاہ کے حکم سے حملہ کی تیاریات بہادر منوبل کے سپرد کی گئی۔ ننگر کاٹ کر دیکھنے گئے اور بحریہ اپنی سیلابی موجوں اور ضرباتی عزائم کے ساتھ اسکندریہ کی طرف روانہ ہو گیا۔

عظیم الشان بحریہ جو بحری جہازوں کا بیڑہ ہے بحری کے عالم میں عربوں کے سر پر جا پڑا اور ساحل اسکندریہ پر ننگر انداز ہو گیا۔

اسکندریہ کی عرب فوج صرف ایک ہزار ہے۔ لیکن اس قلت کے باوجود دفاع پر ڈٹ گئی ہے۔ لڑتے جاتے ہیں اور شہادت کا جام نوش کرتے جاتے ہیں۔ سب نے اپنی محبوب منزل پالی ہے۔ کسی کی قسمت میں بچنا تھا تو بچ بھی نکلا ہے۔ اسکندریہ کے دروازے ایک بار پھر رومیوں کے لیے کھل گئے ہیں اور انہوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا ہے۔

اسکندریہ پر قبضہ جمانے کے بعد غارتگران روم کا سیلاب اپنی تعداد میں اہل اسکندریہ کا مزید اضافہ کر کے اسلامی دارالخلافت منطاط کی طرف روانہ ہو گیا ہے اور راستہ میں جس بستی سے گزرتا ہے وہیں لوٹ مار کا بازار گرم کرتا جاتا ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق ان درمیانی بستیوں سے بھی آٹھ لاکھ رومیوں کی فوجی تعداد میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔

مسلمان اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اس سیلاب کے آگے بند باندھ سکیں۔ اس لیے کہ جدید حالی مصر عبداللہ نے قلعوں کی مرمت، شہروں کی حفاظت اور سیاسی استحکام کی طرف سرے سے کوئی توجہ ہی نہیں کی تھی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ضرورت کے وقت سب کے سب کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور رومیوں کی پیش قدمی کو کسی مرحلہ پر بھی نہ روک سکے۔

عربوں کا جس کی بجالی رومی پیش قدمی نے اطلاع خلیفہ عثمانی کو پہنچی تو وہ مصدقہ طور سے پریشان ہو گئے۔ اور ایسے سپہ سالار کی جستجو کرنے لگے جو اس نازک مرحلہ پر کام آسکے۔ بلاخر ان کی نظر امحکم نے

پلے۔ اسی وقت وہی سنہ کے بادشاہ تھے۔ اس لیے انہیں بحری جگہ میں مہارت تارہ حاصل تھی۔

عرب مرضی کا اس بہت پر اتفاق ہے کہ اسکندریہ پر رومیوں کا دوبارہ قبضہ ۶۵۰ء بحری صلاحیت (۶۵۰ء) میں ہوا۔

یہی نیکو کیا کہ عمر بن خطاب کے عروسی ہونے میں یہ حوصلہ نہیں چھوڑتا کہ وہ حضرت یہ کہ روٹیوں کے بیابان کو مزید پیش قدمی سے روک دے۔ بلکہ انہیں شکست دے کر پہنچا بھی کرے۔ عمرؓ ہی ایک ایسی آزمودہ شخصیت ہے جس کے ساتھ پنجہ آزمائی کر کے روٹی اُس کی شدت و صولت کا اندازہ کر چکے ہیں۔ اور وہ خود بھی روٹیوں کے مزاج اور اُن کی کمزوریوں سے ایک حد تک واقف ہو چکا ہے۔ اس وقت روٹیوں کے مقابلہ کے لئے زور بازو کے ساتھ ساتھ تدبیر و حکمت کی بھی اشد ضرورت ہے۔ اور عمرؓ ان دونوں صفات کا جامع ہے۔ وہ صرف میدانِ سیف ہی میں حرب و ضرب اور تلوار کا دشمن نہیں بلکہ بساطِ تدبیر و سیاست کا بھی ماہر و شاطر ہے۔ جیسی بھرپور جنگ لڑتا ہے ویسا ہی جامع نقشہ جنگ بھی بناتا ہے۔

حضرت عثمانؓ نے ایک لمحہ میں یہ سب کچھ سوچ لیا اور دوسرے ہی لمحے حکم صادر فرمایا کہ عمرؓ و ابن عباسؓ فوراً روانہ ہو جائیں اور مصر پہنچ کر افواجِ اسلامی کی قیادت سنبھال لیں۔
عمرؓ و ابن عباسؓ ہو گئے۔ مصر پہنچ کر قیادت سنبھال لی۔ اہل کشتی کر کے اسلامی پرچم کے نیچے بندر ہزار مجاہدین کا جم غفیر ترتیب دے لیا۔

سالارِ باطنی و خارجی بنانے والے اس کے کہ دشمن کو تازہ ملک پہنچے یا وہ مزید اہل مصر کو اپنے ساتھ لاکھ فوجی قواد پڑھائے۔ ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھ کر اُس کی پیش قدمی کو روک دیں۔ لیکن عمرؓ کی رائے اس کے خلاف تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں دشمنوں کا اسی جگہ انتظار کرنا چاہئے اور انہیں اس بات کی کھلی چھٹی دے دیں چاہئے کہ وہ جن جن علاقوں سے آئیں اُن میں خوب لڑ مار کرتے ہوئے آئیں غالباً عمرؓ کے پیش نظر یہ مصیبت تھی کہ روٹی جہاں کہیں بھی ہوں گے اور عینی بڑی قواد بھی ان کے پاس ہوگی ہم پر حال انہیں شکست دیں گے۔ اس لئے انہیں اپنے ظلم و ستم کے ذریعہ اہل مصر کی رائے کو اچھی طرح اپنے خلاف کر لینے اور تاکہ ان کی آئندہ شکست سے مصر والوں کی رائے عام ہائے حق میں پہلے سے بھی زیادہ سازگوار اور بخیر ہر جائے۔ تبادلہ خیالات کے بعد آخری فیصلہ پیش قدمی کا ہی ٹھہرا۔

اسلامی افواج نے روٹی افواج کو نقیوس میں جا لیا۔ دونوں سیلاب ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ جم کر مقابلہ ہوا۔ جنگ میں بھی جنگ ہوئی۔ اور اُس دریا میں بھی جو شہر کے قریب

سے جہازِ باطنی مدیوں کی فوج سالاروں سے اب بھی قواد ہی کی وجہ سے (مصر) اور اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ سالاروں کی فوج ایک ہزار باطنی تھی لیکن یاصلیٰ عدلیٰ قرین مسلم ہوئی ہے۔

سے گزرتا تھا۔

رومی پوسے جوش و خروش کے ساتھ اس عزم کو لیے ہوئے جنگ کر رہے تھے کہ مصر ہمارا ہے، ہمیں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا، غاصبوں سے چھڑانا اور انہیں مار مار کر چیرہ عرب کی طرف بھگا دینا ہے۔

مسلمان اس حوصلہ سے لڑ رہے تھے کہ مصر جب ایک دفعہ اسلامی مملکت میں داخل ہو چکا ہے تو اب یہ ہمارے نزدیک جو چیز عرب ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور اسلامی مملکت کے کسی حصے کو کسی قیمت پر بھی ہم کافروں کے حوالے نہیں کر سکتے۔

جانبین سے تیروں کی بارش اور تلواروں کی یورش ہو رہی تھی اور لڑائی پر مار ڈور پکڑ چکی تھی کہ اسی دوران میں عمرو کے گھوڑے کو صدمہ پہنچا اور وہ اس کی پیٹھ سے اتر کر پامیادہ ہو گئے۔ اسی حالت میں فرج کی کان بھی کر رہے تھے اور دشمن پر تلوار بھی چلاتے جاتے تھے۔

رومیوں نے بھی اس جنگ میں بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ میدان کے بعض گوشوں میں عربوں کو پسپا بھی کر دیا۔

اجتماعی مقابلے کے ساتھ ساتھ انفرادی مقابلے بھی ہوئے۔ ایک موقع پر ایک رومی بہادر میدان میں نکل کر مبارز طلب ہوا اور لٹکا مارا کہ کسی عرب میں اگر حوصلہ ہے تو نکل کر آئے اور میرے ساتھ دو دو ہاتھ کرے۔ اس کے مقابلے کے لئے قبیلہ زبید کا ایک بہادر حوصلہ نکلا۔ دونوں کے درمیان پہلے تو کافی دیر تک نیزہ بازی ہوتی رہی۔ اس کے بعد دونوں نے تلواریں سونت لیں۔ طرفین کی ذہنیں اپنے اپنے بہادروں کو داد شجاعت دیتی اور بے چینی کے ساتھ اُس کے غلبہ کا انتظار کرتی رہیں۔ رومی نے حوصلہ پر ایک بھر پور ہاتھ مارا جس نے انہیں کاری زخم پہنچایا۔ لیکن اسی حالت میں اُس کے حملہ کا جواب دیتے ہوئے حوصلہ نے رومی پر بھی ایسی ضرب لگائی۔ جس سے اُس کا کام تمام ہو گیا۔ اور اس کے چند دن بعد خود حوصلہ بھی زخموں کی تاب نہ آ کر جاں بحق ہو گئے تھے۔

بقرہ مقریزی یہ جنگ خشکی اور تری معلق میں لڑی گئی۔ "بقول یا قوت" عمرو اور رومیوں کے مابین جنگ فیرس

میں ہوئی ۲ جلد ۴ ص ۱۸۱

بقرہ مقریزی حوصلہ نے میاں سے خیر نکالا اور رومی کی گردن میں پرست کر دیا۔ پھر اس پر چھپٹ کر اس کا سارو سلاح اُتار دیا۔

عمرو نے حوصلہ کی نعش کو منظرِ صحنہ کر مقامِ معلوم کے قریب دفن کر دیا۔

اس انفرادی حملہ کے بعد پھر دوبارہ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اور اب کی بار تو مسلمان ایسی بے جگری اور بے خوفی کے ساتھ حملہ آور ہوئے کہ بالآخر دشمن پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ رومی پاپا ہوئے اور اسکندریہ کی طرف راہ فرار اختیار کر لی۔ مسلمانوں نے بھی اسکندریہ تک ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔

عمر بن العاص دوبارہ اسکندریہ میں | رومی فوج نے اسکندریہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر لیے اور محاصرہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔

عمروؓ کے سامنے ایک بار پھر وہی محاصرہ کی ساری مشکلات آکھڑی ہوئیں۔ سب سے بڑا مانع شہر کی مضبوط فصیل تھی۔ جس کو دیکھ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں اس بات کی حسرت کر کے رہ جاتے تھے کہ اے کاش میں اس فصیل کو اپنے ساری قبضہ کے وقت سمارا دیتا۔ اور اب تو انہوں نے قسم کھالی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ اس پر قبضہ سے دیا تو اس فصیل کو ضرور منہدم کرادوں گا۔

ایک روایت کے مطابق اسکندریہ کے ایک شخص ابن ہمارہ نے عمروؓ کے سامنے اس خدمت کی پیش کش کی کہ اگر آپ میرے اہل و عیال اور مال و املاک کی سلامتی کا وعدہ فرمائیں تو میں آپ کے لیے اسکندریہ کا دروازہ کھول دوں۔ عمروؓ نے امان دے دی اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ مسلمان اندر داخل ہو گئے۔ رومی بھی مقابلہ پر ڈٹ گئے۔ جنگ ہوتی رہی اور مسلمان بڑھتے بڑھتے شہر کے درمیان تک پہنچ گئے۔ عمروؓ نے رومیوں کو ہاتھ کھڑے کرنے کا حکم دیا اور پھر تلوار کے گھٹاٹا ہانا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ان کے سردار منوبل کو بھی قتل کیا۔ پھر اس کے بعد شہر میں آگ لگا دینے اور فصیلوں کو سمار کر دینے اور عورتوں اور بچوں کو مال نئے بنا لینے کا حکم دے دیا۔

نبیامین کا معاملہ | بطریق نبیامین کو عمر بن العاص کا عدل و انصاف بھی یاد تھا۔ اور وہ اس احسان کو بھی فراموش نہیں کر سکتا تھا جو عمروؓ نے روپوشی سے نکال کر اسکندریہ بلا لینے کی صورت میں اُس پر کیا تھا۔ اس لیے وہ اپنی قبلی جماعت کے ساتھ عمروؓ کی عدم موجودگی اور رومیوں کی عہد شکنی کے زمانہ میں اسکندریہ کے رومیوں سے کنارہ کش اور عربوں کے ساتھ ہی اپنی اخلاقی ہمدردی کا اظہار کرتا رہا۔ اس لیے عمروؓ نے اب پھر اُسے اس کے سابق دینی منصب پر فائز کر دیا۔

۱۔ اس مقام پر عمروؓ نے ایک مسجد تعمیر کرائی جس کا نام مسجد الرحمة رکھا گیا۔

۲۔ ایک روایت کے مطابق اس آگ میں شرقی باک کے دروازے کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ مشور کی کنیسیہ دھس خاکستر ہو گیا۔

۳۔ ایک روایت کے مطابق نبیامین اسکندریہ سے بھاگ گیا تھا۔

(۵)

فتوحات بلاد افریقایہ و بلاد النوبہ

- فتح برتہ
- فتح ملائیس
- فتح شمالی افریقہ
- فتح طانہ نوبہ

(۱)

فتح برتہ

جنگ کی تیاری اسکندریہ فتح کرنے اور رومیوں سے مصر کو خالی کرا لینے کے بعد سیاسی حالات کا طبعی تقاضا تھا کہ عمرو بن العاص علاقہ برتہ کی جانب پیش قدمی فرماتے۔ ویسے عمرو بن العاص کا شوق جہاد بھی اسی کا متقاضی تھا کہ وہ مسلل ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ اور برابر فتوحات کرتے چلے جائیں۔ وہ اسی فلسطین سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ فوراً مصر کی تیاری میں لگ گئے اور اب مصر سے فراغت پائی ہے تو برتہ کی تیاری ہے۔ اس سے فارغ ہو کر انہیں طرابلس کا رخ کرنا ہوا۔ اور جب وہ اُس سے بھی فارغ ہو جائیں گے۔ تو پھر غلیطہ سے آتی افریقیہ کے لئے اجازت طلب فرمائیں گے۔ جیسا کہ آپ آئندہ صفحات میں پڑھ لیں گے۔

عمرو کی طرح ان کی افواج بھی جہاد کی طرف پوری رغبت رکھتی تھیں۔ اسکندریہ کے فتح ہو جانے کے بعد بظاہر فتوحات اور حصول غنائم کا سلسلہ منقطع ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اور یہ تعطل کی حالت ان

سے ابن عبدالحکم اور ہاروی کے نزدیک افریقیہ کا اطلاق ان تمام علاقوں پر ہوتا ہے جو برعظم افریقیہ کے شمال میں واقع ہیں اور نژی مصر کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت صورت حال یہ تھی کہ برتہ اور طرابلس کو افریقیہ اور مصر دونوں سے جدا ایک مستقل صوبہ قرار دے دیا گیا تھا۔

غینیقیوں نے آفری A P H R A کا لفظ ان لوگوں کے لئے استعمال کیا ہے جو شہر لاقہ T I G A کے مضافات میں رہتے تھے۔ انہی سے یہ لوگ انہوں نے اس لفظ کو لے کر ایک کے ان اہلی باشندوں پر لانا شروع کر دیا جو مصر کے مغرب میں حدود مصر سے لے کر حبش تک بے ہونے تھے اور اسی وجہ سے اس سرزمین کو آفری کا یعنی ملک آفری نام دے دیا گیا۔ یہ لوگ افریہ کے لفظ کو اس نام علاقہ کے لئے استعمال کرتا ہے جو مغرب کی طرف سے لے کر طرابلس تک چلا گیا ہے۔ بکری نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ لفظ اصل میں افریقیہ ہے جس کے معنی آسمان والے کے ہیں۔

بعض لوگوں نے اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ اسے افریقیہ بنابرہ بن ریش نے اس وقت آباد کیا اور آتی آئندہ مصر پر

کے تھے ہر گویا پندیرہ نہ تھی۔ اس لئے وہ سرزمین مصر کے قرب و جوار اور صحرائی علاقوں میں جا کر چھوٹی چھوٹی فتوحات اور مالِ غنیمت حاصل کرتے رہے۔ برقر اور افریقہ کی اطلاعات عمرو بن العاص کو اس فتح مصر کے دوران ہی ہیں آ رہی تھیں جن سے وہ اس بات کا اندازہ لگا رہے تھے کہ یہ علاقے بھی رومیوں ہی کی نوابیت میں اور ان کی پوزیشن و مل نہایت مضبوط ہے۔ اور یہ بھی معلوم تھا کہ ان علاقوں کے بعد ابطال مصر کے ساتھ بہت ہی قریبی ہیں۔ حتیٰ کہ وہاں کے بہت سے قبائل مصر کے قبائل پر مشتمل ہیں۔

مصر و برقعہ کو لانے والے راستے پختہ اور بے خطر تھے۔ اس لئے عمرو نے اسکندریہ کے بعد فیصلہ کر لیا کہ برقعہ کی طرف پیش قدمی میں زیادہ دیر لگا تا مگر مناسب نہیں ہے۔

عمرو اس بات کا یقین کامل رکھتے تھے کہ مصر کی فتح، برقعہ کی فتح کے بغیر تکمیل نہیں ہو سکتی جیسے کہ ابن عدلی کی مندرجہ ذیل روایت سے واضح ہوتا ہے۔

”عمرو نے فتوحات مصر ہی کے دوران میں فتح برقعہ کی داغ بیل بھی اسی طرح ڈال دی تھی کہ عقبہ بن نافع کو کچھ مسلمانوں کی معیت میں جاسوسی کی خاطر برقعہ کی طرف روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ وہاں کے حالات کی صحیح معلومات حاصل کر کے آئیں۔“

اسی ابن عدلی کا یہ قول یہی ہے کہ۔

”عمرو بن العاص نے عقبہ بن نافع فدوی کو کہہ دیا اور برقعہ کی طرف روانہ کیا جس نے ان دونوں کو فتح کیا۔ اور عمرو بتا کہ خود برقعہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور اس کے باشندوں سے صلح کا معاہدہ کیا۔“

ابن ابی دنیا نے بھی مندرجہ ذیل روایت میں ابن عدلی کی تاہید کی ہے۔ اور جاسوسی کی ہمہ کی بجانب ایک ضمنی سا اشارہ بھی کیا ہے۔

(بقیہ سانشیہ صفحہ گذشتہ) تعجب و تعجب کی طرف فتوحات کرنا جو ابرہہ کے ملازمین مقام نجد تک پہنچ گیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام ازرق بن ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے جو حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی قطریہ کے شکم سے پیدا ہوئے تھے۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس ملک کے باشندے چونکہ فاروق بن مصریم کی اولاد سے تھے۔ اس لئے وہ خود افریقہ کے نام سے مشہور ہو گئے تھے اور انہی کی طرف نسبت کر کے ان کے ملک کو افریقیا کہا جاتا تھا

جب عمرو بن العاص مصر اور اسکندریہ کو فتح کر چکے۔ تو انہوں نے عقبہ بن نافع کو
 برفہ زدیہ اور ان کے مرثا فانی علاقوں کی طرف روانہ کر دیا۔ جس کے نتیجہ میں وہ علاقہ اسلام
 کی حفاظت میں آ گیا۔ اس کے بعد عمرو بن العاص طرابلس کی طرف بڑھ گئے۔
 پیش قدمی | عمرو بن العاص اسکندریہ سے فارغ ہو گئے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ مصر کی فتوحات
 پورے طور پر تکمیل پا چکی ہیں۔ اور عقبہ بن نافع کے خطوط بھی برفہ زدیہ کے تفصیلی حالات لئے ہوئے ان کے پاس
 پہنچ گئے ہیں جن کا انہوں نے غائر نظر سے مطالعہ کر لیا ہے۔ حالات سازگار نظر آ رہے ہیں۔ اس لئے اس
 عمرو کو برفہ زدیہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دینی چاہیے۔

سہ ہجرت بن ہدایت بن تیمتر شمی ہجرت سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کا مسئلہ نسب ان کی طرف سے
 عمرو بن العاص کے ساتھ مل جاتا ہے۔

اسد الغابہ ج ۲ ص ۱۸۱ میں ابن الاثیر نے لکھا ہے کہ عقبہ عمرو کے خال زاد بھائی تھے۔ اور اسی قبائلی کا وہ
 سے عمرو بن ہجرت سے کرتے اور انہیں مختلف مواقع پر ترجیحات عطا فرما کر ایک تاریخی شخصیت بنانے جارہے تھے۔ چنانچہ
 انہیں فزان کی ایک نہایت کاہلیاب ہم پر روانہ کرنے کے بعد انہیں برفہ زدیہ کا حاکم بھی بنا دیا تھا۔ جس پر وہ ششہ میں برفہ زدیہ
 بن سعد کا تقرری تک برقرار رہا ہے۔ اور گمان غالب یہی ہے کہ بعد ازاں بن سعد نے بھی انہیں ان کے منصب پر برفہ زدیہ رکھا تھا۔
 اس لئے کہ تاریخ میں اس بات کی طرف کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا کہ عقبہ کو بعد ازاں کسی نئے حادثہ سے دوچار کیا جو بعد ازاں
 گمان غالب یہ بھی ہے کہ عقبہ ششہ میں معزول ہوئے۔ اور وہاں رہ کر ان سیاسی الجھنوں کا مطالعہ کرتے رہے۔ جو
 اسلامی حکومت اس وقت گذر رہی تھی۔ اور جن کے نتیجہ میں خلافت کا منصب حضرت امیر معاویہ کے حصہ میں آچکا تھا۔ اور جس کے
 بعد عمرو بن العاص نے دورانِ عمر پہنچ کر ششہ میں عقبہ کو افریقیہ پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت
 معاویہ نے انہیں ششہ میں اس علاقہ کا گورنر بنا دیا تھا۔ یہ ساریا بیان کنڈوی کی کتاب القضاة والولایات میں مذکور ہے۔
 سہ ابن ابی دینار کی روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابی عمرو عمر سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے عقبہ کو برفہ زدیہ کی
 طرف روانہ کر دیا تھا اور عقبہ نے اسے فتح کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد عمرو خود روانہ ہوئے اور طرابلس کو فتح کیا۔ لیکن یہ ایک ایسی
 روایت ہے جس کی تائید نہ حوالہ جات سے ہوتی ہے اور نہ ہی واقعات اس کے حق میں ہیں۔ قرین قیاس جو بات ہے وہ یہ ہے
 کہ عمرو نے عقبہ کے ساتھ ایک جا سوسی دستہ روانہ کیا تھا کہ اس سے فرار ہونے تک وہاں کے حالات کا علم پہنچانے میں اس کے
 جب وہ مصر سے فارغ ہو گئے تو پھر انہوں نے ثبات خودمختار اور طرابلس دونوں کو فتح کیا اور ہمارے پاس اس قیاس کی دلیل بھی ہے
 اور وہ یہ ہے کہ عمرو نے اس وقت ایک ایسی جا سوسی ہم علاقہ برفہ زدیہ کی طرف بھی روانہ کی تھی۔

جیسے کہ تم اس سے پہلے بھی لکھ چکے ہیں، اسلامی فتوحات سے پہلے برقعہ پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ اور مصر کی فتوحات ان کے کالوں میں برابر پہنچ رہی تھیں۔ جن سے انہوں نے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ کہ مسلمانوں نے رومیوں کے مقابلہ میں ہر جگہ نہایت شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور انہیں مصر سے نکالنے کے بعد جو حکومت قائم کی ہے۔ وہ سراسر عدل و مساوات اور نہایت ہی اور شخصی آناؤی کی حکومت ہے۔

ان خبروں نے اہل برقعہ کے دلوں کو ایک طرف مسلمانوں کے مقابلہ میں مرعوب کر دیا اور دوسری طرف ان کے اندر اس بات کا بھی لالچ پیدا کر دیا۔ کہ ہم کو بھی مصر والوں کی طرح دعویٰ تسلط سے جھٹکارا پاکر مسلم کے فائدے سے نفع یاب ہو جانا چاہیے۔

برقعہ کب فتح ہوا | فتح برقعہ کی تاریخ متعین کرنے میں کچھ زیادہ اختلاف نہیں ہے۔

بلادی کے نزدیک اس کی تکمیل ۶۳۷ء میں ہوئی ہے۔

اسی کی تائید ابو الحسن اور بکری نے بھی کی ہے۔

لیکن ابن عبد الحكم ۶۳۷ء بتاتا ہے اور ابن الاثیر اور کول نے بھی اسی کے قول کو نقل کیا ہے۔

یعقوبی کے نزدیک فتح برقعہ کا سال ۶۳۷ء ہے اور ابن خلدون اور ڈی سلین نے اسی کو قبول کیا ہے۔

لیکن حالات کا جائزہ یہ ہے۔ کہ عمرو نے فتح اسکندریہ سے اواخر ستمبر ۶۳۷ء میں فراغت پائی ہے جس کی تاریخ پٹر کے مندرجہ ذیل قول کی روشنی سے معلوم ہوتی ہے۔

” اسی مہینہ کی ۲۰ تاریخ کو نیو دور کا بحری بیڑہ اپنے سنگ کاٹ رہا اور

بادبان کھول رہا تھا۔ تاکہ نہایت خوردہ رومیوں کو لے کر قبرص کی طرف روانہ ہو جائے۔“

اور یہ بات معلوم ہی ہے کہ عمرو نے برقعہ کی جنگ اسکندریہ کے فوراً ہی بعد شروع کر دی تھی۔ جب

ہم ستمبر ۶۳۷ء کو اسلامی بیڑے سے مطابقت دیتے ہیں۔ تو وہ ذوالحجہ ۶۳۷ء تک نکلتا ہے۔ اس کے بعد

۱۰ فتح ابلدان ص ۲۴۴

۱۱ ابن خلدون ص ۲۱۰

۱۲ ابن عبد الحكم (فتوح مصر والمغرب والاندلس) ص ۱۱۰

ابن الاثیر (کمال فی تاریخ) ج ۳ ص ۱۱۰

کول (شمال افریقیا قبل الفزوال عربی) ص ۱۰۰ CAUDEA

۱۳ ابن یعقوب بن جعفر (تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۲۴۴) DE SLANE P. 422

اگر ہم اس سنہ کے باقی مہینوں کو پیش قدمی کی تیاری میں شمار کر لیں۔ تو واضح طور پر برقعہ کی جنگ کا سال
سنہ ۶۳۷ ہی برآمد ہوتا ہے :-
اہل برقعہ | اہل برقعہ بربر تھے۔
ابن خلدون کہتا ہے کہ :-

بربر سے مراد مغرب کے وہ قدیم باشندے ہیں جن کا رنگ گندمی تھا۔ اور جو رہتی
کثرت آبادی کی بنا پر میداؤں اور پہاڑوں، ٹیلوں اور وادیوں، جنگلوں اور شہروں میں پھیلے
ہوئے تھے۔ مٹی، پتھر اور لکڑی وغیرہ کے مکانات بناتے تھے۔ بھیڑ بگڑی اور گائے بیل پالنا
ان کا ذریعہ معاش تھا۔ سواری کے لئے گھوڑے استعمال کرتے تھے۔ اور جو ان میں سے خوشحال
تھے وہ اونٹ پالتے تھے۔ غرض اگر معاملات میں وہ اہل عرب کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔
مگر وہ اہل عرب سے زیادہ لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی اور چرنے چگنے والے مویشی پالنا تھا۔ اور
اہل ثروت کا ذریعہ آمدنی اونٹوں کی نسل کشی وغیرہ تھا۔

بربر کا لفظ پارزاناؤں میں استعمال کیا گیا ہے۔ جو مگر زمانے میں اس کا اطلاق ان قبائل کے مجموعہ پر
ہوتا تھا۔ جن کی زبانیں اور لہجے باہم مختلف ہوں۔ ہیروڈوٹس کے زمانے میں اس کا اطلاق ان قوموں پر کیا
جاتا تھا۔ جو یونانیوں کی زبان اور ان کی تہذیب سے نا آشنا ہوں۔ بلقوس کے زمانے میں باشندگان
روما کے علاوہ باقی سب روہیل پر اس کا اطلاق ہوتا تھا۔ اور عربوں نے افریقیا کے ساحلی باشندوں پر
اس لئے اس کا اطلاق کیا کہ ان کی زبان ان کے لئے نا قابل فہم تھی۔

بربر افریقہ میں کب داخل ہوئے۔ اس بارے میں ابن خلدون کی رائے یہ ہے کہ :-
”ان کی ابتداء کسی کو علم ہے اور نہ ہی تاریخ یہ بتاتی ہے۔ کہ افریقہ میں ان سے
پہلے کون لوگ آباد تھے؟“
مورخ تونسہ کے نزدیک :-

”سب سے پہلے بربروں کا اکتشاف کرنے والے قرطانی دور کے قدیم مصری تھے۔ جو
انہیں لیبیو رہائندگان لیبیا کہہ کر پکارتے تھے؟“
اس سے پتہ چلا کہ لیبیوں سے مراد یہی بربر ہیں۔ جبکہ دیگر مؤرخین کی روایات اس کے برخلاف یہ

ملہ یہ بات پیش نظر رہے کہ عرب لفظ بربر کو ایسی آوازوں کے لئے استعمال کرتے تھے جو گڑبڑ، مضبوط اور غیر نرم ہوں

پتہ دیتی ہیں۔ کہ بربروں کا دور شمال افریقیا کے لیبیوں سے بہت پہلے کا دور تھا۔
ابن خلدون کہتا ہے کہ :-

یہ حقیقت ناقابل انکار ہے۔ کہ بربر کے مورث اعلیٰ کا نام مازینغ تھا
اور یہ لوگ کنعا بن حام بن نوح کی اولاد سے ہیں۔
ابن حزم نے جہرۃ الانساب میں لکھا ہے کہ :-

بربر کے بعض قبائل نے یمنی اور حمیری ہونے کا دلوکا بھی کیا ہے۔ اور
بعض نے اپنا نسب بر بن قیس میلان کے ساتھ ملایا ہے۔
لیکن ابن خلدون اس کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ :-

یہ بات بالکل لغو ہے۔ اس لئے کہ علمائے انساب نے قیس ابن میلان
کے کسی ایسے بیٹے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ جس کا نام بر ہو۔ اور حمیر کے لئے بربروں
کے علاوہ کی طرف جانے کا بھی کوئی سراغ یعنی مؤرخین کی دروغ بیانی کے سوا
کسی اور مستند تاریخ میں نہیں ملتا۔

اسلام سے قبل بربروں کا مذہب جو سیت تھا۔ لیکن وہ خارجی اثرات اور یہودی
عملہ آدموں کے ماتحت اپنے مذہب کو بدلتے بھی رہتے تھے۔ چنانچہ مشہور لکھنگ
بیزٹیوں نے ان کے مذہب کو مسیحیت میں تبدیل کر دیا تھا۔

اسلام سے قبل بربر افریقیا اور مغرب میں بڑی کثرت اور قوت کے حامل تھے اور سیاسی
طور پر فرنگیوں کے اطاعت گزار تھے۔ اور جب بھی انہیں لگ اور اعداد کی ضرورت پڑتی۔ تو
وہ ان کی پوری مدد کرتے تھے۔ جب مسلمان افریقیا میں داخل ہوئے۔ تو انہوں نے ان کے
مقابلہ میں جر جیر کی مدد کی۔ پھر جب جر جیر قتل ہو گیا تو ان کا شیرازہ منتشر ہو کر ان کی حکومت
متعدد ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ موسیٰ بن نصیر کے دور سے پہلے ان کا قبول اسلام ثابت نہیں ہے۔

ابن خلدون کہتا ہے کہ یہ قوم قرنی کے نام سے بھی مشہور تھی۔ اور عوام اس کو ان کے اس شہر کی طرف
نسبت کر کے افرنسیس بھی کہتے تھے۔ جو ان کے علاوہ کا ام البلاد تھا۔ اور جو جزیرہ اندلس اور قسطنطنیہ
تنگ نائے زمین کے درمیان واقع تھا۔

ابن خلدون

پیش قدمی | عمروؓ آج اسی سرزمین کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اور پہلا شہر جو ان کے سامنے آئے گا۔ وہ الطائیس ہوگا جس کے معنی عربی میں پانچ شہروں کا مجموعہ میں لفظ طیس جن پانچ شہروں کے مجموعہ کا نام ہے۔ وہ یہ ہیں :- طوشیلا۔ سیرین۔ برینق۔ رولونیا۔ بارش۔ یہ سب پہلے شہر ہیں۔ جنہیں یونانیوں نے مختلف زمانوں میں آباد کیا۔ اور فتح اسلامی سے پہلے یہ سب موجود تھے۔ قدیم تاریخ میں ان شہروں کا مقام بہت بلند تھا۔

عمروؓ نے ان سب کی مضبوط فصیلوں کو منہدم کرنے کا حکم دے دیا۔ تاکہ باشندگان شہر کسی وقت ان کی آڑ اور حفاظت کے بل بوتے پر اطاعت سے معذرت اور بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ شہریناہوں کو منہدم کرنا بیرونی حملہ آوروں کا ایک قدیم اور ضروری حربہ تھا۔ جیسا کہ اس کے برعکس دفاع کنندگان ان کی تعمیر کو ایک اہم ذریعہ حفاظت سمجھتے تھے۔

بزنطیوں نے عمروؓ کی فوج کو کوئی قابل ذکر مقابلہ پیش نہیں آیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ باشندگان ملک پہلے ہی سے اس بات کے لئے تیار بیٹھے تھے۔ کہ کب مسلمان ہمارے ملک کی طرف آئیں۔ اور ہم اسلام کے پرچم کے ماتحت آجائیں۔ اور ان فوائد و تمنائات سے بہرہ مند ہوں جن کی امید وہ اسلام کے نظریہ عدل و مساوات سے وابستہ رکھتے تھے۔

چنانچہ انہوں نے صلح کا مطالبہ کیا اور تیرہ ہزار فرونی دینار سالانہ پر معاہدہ صلح طے پا گیا جسے وہ کسی وصول کنندہ کا اخطار کیے بغیر ہی اسلامی حکومت کو بھیج دیا کرتے تھے۔ صلح کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو بھی ان کے جزیرہ میں فروخت کر دیا کریں گے۔

۱۰ رومی لفظ ہے

۱۱ بعد کے زمانہ میں اس کو اسی قول کہا جانے لگا۔ جسے عرب طوک کہتے تھے۔

۱۲ اس کا ایک قرون نام محمد بن بھی ہے۔ اور آج کل اسے قرظ کہا جاتا ہے۔

۱۳ اب اس کے کھنڈرات پر ہی قازی تعمیر کیا گیا ہے۔

۱۴ اس کا موجودہ نام سورہ ہے۔

۱۵ کچھ عرصہ بعد اس کا نام ابطلوینا میں ہو گیا تھا۔ اور آج کل اسے مزج کہا جاتا ہے۔

۱۶ اس عمارت سے پتہ چلتا ہے۔ کہ عمروؓ نے یہ شرط تعداد لڑائی کے دشمن ہونے کی صورت میں لگائی ہوگی۔ کیونکہ یہ

دعا اہل عرب کے ہاں بالکل سنی تھی۔ اور کسی بھی عربی فاتح نے مسلمانوں کی اولاد کو خریدنے کی شرط کسی صلح میں نہیں

دہائی اگلے صفحہ پر

شلیبی کا بیان ہے کہ ۱۔

”برقہ کے ربوں نے عربوں کی اطاعت کرنے میں نہ صرف یہ کہ بہت جلد بازی سے کام لیا بلکہ انہوں نے عربوں کو اسی وقت اپنی طرف سے دخول اسلام کی پیش کش بھیج دی تھی جب وہ مصر میں فتوحات کر رہے تھے۔ اور اس پیش کش کو عمرو نے زحمان کی مدد سے سمجھا تھا۔ اور عمرو نے پیش کش لانے والی سنارت کو جوں کا توں خلیفہ عمرؓ کے پاس روانہ کر دیا تھا۔ جس کا انہوں نے کھلے دل سے استقبال کیا تھا۔ اور اس استقبال کی ایک وجہ یہ تھی۔ کہ حاضرین میں سے کسی شخص نے اس بات کا انکشاف کیا تھا۔ کہ یہ برابر برہنہ عیس کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر جب حضرت عمرؓ نے ان لوگوں کی تہذیب و تمدن اور بود و باش کی تفصیلات معلوم کیں۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات کی قوموں کو فتح کرنے کی پیش گوئی فرما چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے اللہ جلے کا شکر ادا کیا۔ اور ان کے وفد کو تحفہ تحائف سے کرخصت کرنے کے ساتھ حضورؐ انساں کو اس بات کا حکم بھیجا۔ کہ وہ ان لوگوں کو اسلامی افواج کی صف اول میں جگہ دیں“

بعض روایات میں تو اس سے بھی زیادہ تفصیل مذکور ہے۔ پھر حال ان روایات سے ابن عبدالحکم کی اس بات کی پوری پوری تائید ہوتی ہے۔ کہ برقہ کے برابر اپنا عائد شدہ خراج نہایت خوش دلی کے ساتھ وقت مقررہ پر ان خود روانہ کر دیتے تھے۔ اور کسی محصل کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ بلندی اس پر مزید اضافہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ :-

”اہل برقہ اپنا خراج دلی مصر کو خود بخود ارسال کر دیتے تھے۔ اور ایسی خوشدلی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ کہ انہیں کسی قسم کی یاد دہانی کی بھی ضرورت پیش نہیں

(حاشیہ قیام صفحہ گذشتہ) لکھی تھی ہو سکتا ہے کہ عربوں نے جو یہ کی اور ان کی تائید اور تفسیر دہانی کی تاثر اپنی طوط سے اس مجالہ امیر صفات کا ذکر کر دیا ہو۔

۱۔ کتاب الجہن فی انساں لسان بروافہ محمد شلیبی مغربی تالیف ۲۳ صفحہ ۲۳۰ (مکتبہ دارالکتب)

۲۔ فتح مصر مغربہ والاناس ۱۴۰

۳۔ برہان محمد بن سعد بن ابوقاقدی عن مسلم بن سعید بن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی فروہ .

آتی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی۔ کہ یہ لوگ مغرب میں سب سے زیادہ خوش مال تھے۔
 اور انہیں کبھی کسی مصیبت کا بھی سامنا کرنا نہیں پڑا تھا۔
 شاید عربوں کی اس مبالغہ آفاقیت و تسخیرِ ادا سے ہزیہ اور اولاد کی فروخت تک کی پیش
 کا اصلی باعث یہ ہو۔ کہ عربوں نے محاصرہ اسکندریہ کے دوران میں جو چھوٹی چھوٹی مہمات قرب و جوار
 میں بھیجی تھیں۔ ان کی شجاعت و مرواگی کی خبروں سے بالخصوص عقبہ کی ہم سے ان کے دل پہلے
 ہی نرم اور مائل بہ اطاعت ہو چکے تھے۔
 یہ وہی کامیاب ہے کہ :-
 ”عمر نے بڑھ کی ہنرمندی میں صوف گھوڑ سوار فرج ہی رعانہ کی تھی۔“

فتح طرابلس (۱۶)

عمومی حالات | بڑھ کی تسخیر کے بعد عمر نے علاقہ مغرب کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ جس کے لئے ان کے
 سامنے دو راستے تھے۔

- ۱۔ ساحل کارستانہ جس پر طرابلس وغیرہ ساحلی شہر واقع تھے۔
- ۲۔ اندرونی صحرائی راستہ جسے اختیار کرنے کے بعد وہ اندرونی صحرائی بستوں اور ڈیرہ

سے فتح المبلدان ۲۲ء

۱۔ عربوں کے ان اولاد کی فروخت داخل روم تھی۔ ویل نے اس کی مثال میں اہل کورسیکا کو پیش
 کیا ہے۔ جو بیزنطی حکومت کے ٹیکسوں کی ادائیگی کے لئے اپنی اولاد کو بیچ دیا کرتے تھے۔ ذیل کی
 روایت کے الفاظ یہ ہیں :-

”تھیمسٹول وار نہایت سختی کے ساتھ حکومت کے بوجھل و اجہات وصول کرتے تھے۔ یہاں تک کہ
 کورسیکا کے ٹیکس گزار اپنی اولاد تک کو غلاموں کی صورت میں فروخت کرنے کے لئے مجبور ہو جاتے
 تھے، اور مغرب، اٹلی اور اسی زمانہ میں فروخت کر کے عربوں کے علاقہ کی فروخت پناہ گزین
 ہو جاتے تھے۔“

DIHN - L. AFRIQUE BYZANTINE. P. 565

سے حسن الحاضر ص ۵۷

پر قبضہ کر سکتے تھے، جہاں قبائل لواتہ، نفوسہ اور ہوارہ رہائش رکھتے تھے۔

عمرؓ اس بات کی اہمیت کو سمجھتے تھے، کہ اگر ساحلی علاقوں کو مسلمانوں نے رو میوں سے داغ دیا کر لیا، تو ملک کے اندرونی مرکز پر ستور مسلمانوں کے لئے درد سر بنے رہیں گے۔ اور موقع پا کر مسلمانوں کے خلاف وہ حملہ آور ہونے سے بھی دریغ نہ کریں گے۔ اور عین ممکن ہے کہ ادھر ہم ساحلی علاقوں میں معروف جہاد ہوں اور ادھر ان کی طرف سے خطرات پیش آجائیں۔

اس لئے عمرؓ نے بیک وقت دونوں جانب پیش قدمی کو ضروری قرار دیتے ہوئے اپنے لئے مددِ جبہ ذیل نقشہ جنگ تیار کیا۔

- ۱۔ عمرؓ بذاتِ خود طرابلس روانہ ہو جائیں اور
 - ۲۔ فوج کا کچھ حصہ اندرونی علاقہ کی طرف روانہ کریں۔
- پروفیسر روٹ کا بیان ہے کہ :-

”عمرؓ ایک ہوشمند اور ذریک قائد تھے۔ اس لئے انہوں نے ضروری سمجھا کہ جس وقت وہ مغربی سمت مصروف جہاد ہوں۔ اشد ضروری ہے کہ فزان پر بھی نگرانی روانہ کر دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے عقبہ بن نافع کو اس طرف روانہ کر دیا جو اندرونی علاقوں کو تیز رفتاری کے ساتھ مسخر کرتے ہوئے زویرہ (زویاتہ) السودان تک پہنچ گئے۔ اور انہیں کوئی اہم معرکہ پیش نہیں آیا۔“

ابن عبدالحکم نے کہا ہے کہ :-

لواتہ، فتح اسلامی کے وقت ہمہ کاسب سے زیادہ مشہور قبیلہ تھا۔ جس کا سلسلہ نسب بو اصفہ بن لو اکبر سے ملتا تھا۔ چونکہ بر کسی نطن میں عوم پیدا کرنے کے لئے آخر میں اٹت اور تا زیادہ کیا کرتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے لواتہ بنایا۔ پھر عربوں نے اپنی طرف سے اس کے آخر میں ”ہ“ کا اضافہ کر کے لواتہ کر لیا۔

لواتہ نفوسہ طرابلس کا مشہور قبیلہ ہے۔ جس کی نسبت نفوس بن زعلیک بن ادینس کی طرف سے بنو زعلیہ بنو کھورہ اور ما طوسہ اسی کی شاخیں ہیں۔

لواتہ ROTH کتاب عقبہ بن نافع سے

لواتہ فتوح مصر والمغرب دالاندلس

عمرو بن العاص نے عقبہ بن نافع کو روانہ کیا۔ اور وہ زویلیہ تک پہنچ گئے۔ اور اس طرح گویا زویلیہ اور برفہ کا درمیانی علاقہ سب مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔
اس روایت کے ناقل ابوالحسن ابن خلدون اور مالکی ہیں۔ لیکن ابن عساکر کی روایت ان کے خلاف ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ عقبہ نزان کو فتح کرنے کے لئے برفہ کے بجائے مسر سے روانہ ہوئے تھے۔ اس روایت کا متن یہ ہے :-

”عمرو نے مسر کو فتح میں نفع کیا اور عقبہ بن نافع کو زویلیہ اور برفہ (براقہ) کی طرف روانہ کر دیا۔ جنہوں نے ان دونوں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد عمرو بن العاص خود برفہ کی طرف روانہ ہوئے اور اس کے باشندوں سے صلح کی۔“

زویلیہ نزان کا ایک قدیم شہر تھا۔ جس کا فاصلہ طرابلس کی جنوب مشرقی سمت میں تقریباً ۷۰۰ کیلومیٹر تھا۔ فتح اسلامی کے وقت نزان کا پایہ تخت یہی شہر تھا۔ جس کا اسلامی نام فتح کے بعد بلد الاشرف رکھ دیا گیا تھا۔

عمرو نے برفہ سے نراخت کے بعد اور طرابلس کی طرف پیش قدمی سے پہلے عقبہ کو زویلیہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ عقبہ اپنی فوج کے ساتھ جنوب مغربی سمت قدم زن ہوئے۔ یہاں تک کہ زویلیہ پہنچ گئے۔ اور اسے فتح میں نفع کر لیا۔ اور باشندوں پر تین صد علاقوں کا جزیہ مقرر کر دیا۔

عمرو بن العاص نے خلیفہ عمرؓ کو لکھ دیا تھا۔ کہ زویلیہ اور برفہ کے درمیان کا تمام علاقہ مسطح و زراعت دار ہو گیا ہے۔ جو ان میں سے مسلمان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حدقہ ادا کر دی ہے اور جو ذمی ہیں۔ انہوں نے جزیہ قبول کر لیا ہے۔ اور میں نے محصلین کو حکم دے دیا ہے۔ کہ وہ

سلطہ اس کا لحاظ رکھ کر ذاکہ کے زہر اور حوت ذاکہ کے زہر کے ساتھ ڈیولہ ہے۔ اور بعض مورخین اسے زویلیہ و برفہ کے قریب تعمیر کیا تھا۔

۱۔ بیان المغرب ج ۱ ص ۱۷۱

۲۔ ایک قول کے مطابق اس کا نام زویلیہ خطاب بھی ہے۔ اس لئے کہ نزعاً خطاب نے اس میں رہائش اختیار کر کے اپنی حکومت قائم کی تھی۔

۳۔ مسالک الممالک میں لکھا ہے کہ یہ نہ تو جزیہ تھا نہ خراج۔

باللہ مسلمانوں سے صدقہ وصول کر کے غریبوں تک پہنچائیں۔ اور ذمیل سے جو جزیہ وصول ہوا سے معرکے بیت المال میں پہنچا دیا جائے۔ نیز یہ کہ مسلمانوں کی زمین سے عشر یا نصف عشر وصول کیا جائے۔ اور معاہدین سے مطابق صلح وصول کیا جائے:

فتح سمرت | شہر سمرت اسی نام کی ایک بلج پر واقع ہے۔ جو ہمدان کے جنوب میں تقریباً چار کیلومیٹر کے فاصلہ پر اور طرابلس کے جنوب مشرق میں ۵۵ کیلومیٹر پر واقع ہے۔ یہ شہر چھار طرف مٹی کی ایک فصیل سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے باشندوں کی بولی بھی عجیب تھی۔ جو نہ تو عربی ہی تھی اور نہ قبطی اور نہ بربری اور عجمی۔ لیکن ہے کہ وہ سوڈانی زبان ہو جو سوڈانی رواج کی وجہ سے ان لوگوں میں ساریت کر گئی ہو۔

طرابلس ہاتے ہوئے عمرو اس شہر سے گذرے تھے۔ راستہ میں اسے بھی لگتے ہاتھ فتح کرتے چلے گئے۔ یہ تفصیل کسی مورخ نے بیان نہیں کی۔ کہ وہ علماً فتح ہوا تھا یا غزوہ۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ آسانی سے فتح ہو گیا ہو گا۔ اور اسی بنا پر اس کی تفصیل میں بڑا ناغیر ضروری سمجھا گیا۔ **فتح لبدہ** | لبدہ شمالی افریقیا کے بڑے شہروں میں سے تھا۔ اور یہ طرابلس کے مشرق میں تقریباً نوے کیلومیٹر کے فاصلہ پر واقع تھا۔ جسے فنیقیوں نے افریقیا پر تسلط جمانے وقت مسیح قبل مسیح میں آباد کیا تھا۔ اور وہ قرطاجینوں کے درمیان لیبی کے نام سے مشہور تھا۔ جسے بعد میں یونانیوں نے لیبشش کے لفظ سے تبدیل کر لیا تھا۔ پھر وہ لیبشش سے لیبشش ہوا۔ بعد ازاں اس کے آخر میں مائیکا لفظ بڑھا کر لیبشش مائیکا پکارا جانے لگا جس کے معنی لبدہ کبیر یا لبدہ عظیمہ کے ہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ لبدہ نام میں بھی ایک شہر لیبشش نام کا موجود تھا۔ اس لیے انہوں نے مائیکا لفظ بڑھا کر اس کے ساتھ مشابہت کو دور کر دیا۔

عمرو کا طرابلس کے راستہ میں اس پر گذر ہوا تو انہوں نے اس شہر کو غیر آباد پایا۔ وہ پرانے محلات و حصوں کے کھنڈرات پر مشتمل تھا۔ جس میں کچھ بچے کچھے مخلوط النسل باشندے سر چھپائے

۱۰ جو کھینتی بارش کے ذریعہ سیراب ہوتی تھی۔ اس کی زکوٰۃ عشر یعنی پید اوارہ کا دسواں حصہ تھی۔ اور جو آلات آب پاشی کے ذریعہ مخصص و مشقت سے سیراب کی جاتی تھی۔ اس کی زکوٰۃ نصف عشر یعنی بیسواں حصہ وصول کی جاتی تھی۔
۱۱ باشندے رومیوں اور بربروں سے مخلوط تھے۔

پہلے تھے۔ اس لئے عمر نے اسے نہ جانے جوئے کوئی اہمیت دی اور نہ وہ اس لمحے وقت پر
شہر طرابلس اطرابلس کی تاریخ تعمیر اگرچہ متعین نہیں ہے۔ لیکن واضح احوال کی روشنی میں اتنا
منور معلوم ہے۔ کہ یہ شہر فنیقی دور کا ہے۔ اور یہ بھی ثابت شدہ ہے۔ کہ وہ صبرتہ اور لیوہ
کے بعد آباد ہوا ہے۔ اور اہمیت میں ان سے کم درجہ کا تھا۔ شہر کے گروٹینیقوں نے اس میں
کوئی فیصل بھی تعمیر نہیں کی تھی۔

پھر جب رومی شمال افریقیا میں وارد ہوئے تو رقیسہ وقت اس راہ میں نے اس کے مشرق
مغرب اور جنوب کو فیصل سے محصور کر دیا۔

فتح اسلامی کے وقت یہ علاقہ قسطنطنیہ کی رومی شہنشاہی کے ماتحت تھا۔ جنہوں نے
برقہ اور طرابلس کو اکٹھا کر کے مصر کے ماتحت ایک صوبہ بنا دیا تھا۔ اور اس کے باشندوں کی
اکثریت بھی رومیوں پر مشتمل تھی۔ اور یہ صوبہ مملکت رومیہ کے دوسرے حصوں کے ساتھ ہر
طرح مربوط تھا۔ اور اس کے تاجر بحرا بیض کی تمام ساحلی منڈیوں پر اپنے تجارتی جہاز لے جاتے تھے۔
تو ان کی روایات اس بات پر متفق ہیں کہ طرابلس جو بجز رومس ثانی کے زیر فرمان تھا۔
ابن عبد الحکم کہتا ہے کہ:-

اس علاقہ کا حکمران جو چیز نام کا ایک شخص تھا۔ جسے ہرقل شہنشاہ روم نے
اپنا نائب بنا کر یہاں بھیج رکھا تھا۔ لیکن اس نے خود مختاری کا دعویٰ کر کے
سرکاری سکتے پر اپنی تصویر کندہ کرالی تھی۔ اس کی حدود سلطنت طرابلس سے لے کر

شمالی جانب فیصل کی تکمیل سلطنت میں ہرقل بن عبد اللہ نے کی
رومی سلطنت انتظامی لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم تھی۔ مغربی حصے کا دار الحکومت روم تھا اور مشرقی
حصہ کا دار الحکومت بیزنٹینہ تھا۔

Gregorius کے ہرقل کا حقیقی بھائی سکوسے افریقیا میں اس کا دست و بازو تھا۔ ہرقل کی موت کے
بعد جب اس کا بیٹا ہیریولیس بائیس ہوا تو اس نے بھی اُسے افریقیا کی حکومت پر برقرار رکھا۔ پھر اس کا بائیسینی
علی انتریبیس ہیریولیس بیفیناس بن جوہوریوس اور جوہوریوس بن یقیناس کی طرف منتقل ہوتی رہی۔ آہستہ آہستہ
جوہوریوس کو جریر تک کہا جاتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی جوہوریہ کو ہرقل قسطنطنیہ کے نکاح میں دے دیا تھا جس
کے بعد ملک میں اس کی قوت و شوکت بہت بڑھ گئی (DIEHL, p. 515)

تک نہیں لے

مقریزی کہتا ہے کہ:-

”اس ملائکہ کے بادشاہ کا نام جو حیر تھا۔ اور اس کی سلطنت کی حدود طرابلس سے طبرجہ تک وسعت رکھتی تھیں۔“

محاصرہ طرابلس | عمروؓ کی قیادت میں عرب طرابلس تک پہنچ گئے، اب شہر کی مضبوط فصیلیں اور اس کے مستحکم قلعے اُن کے سامنے جہاد طلبی کر رہے تھے۔ لیکن اُس کے باشندوں نے اُن کے پیچھے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا۔ عمروؓ نے شہر کے محاصرے کا حکم دے دیا۔

جرجیر نے اُس کے جواب میں کوئی قابل ذکر مدافعتا اقدام کیا یا نہیں۔ اس کے ذکر سے مؤرخین خاموش ہیں۔ اور نہ ہی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ قلعہ میں روزیموں کی کوئی خاص حفاظتی توجہ تھی یا نہیں۔

عربوں نے محاصرہ نہ کر لیا۔ لیکن شہر کی فصیل اتنی مضبوط تھی۔ کہ انہیں نہ اُس کے اوپر چڑھنے کی کوئی سبیل دکھائی دیتی تھی اور نہ دروازوں کے ذریعہ داخل ہونے کی۔ ابن ہبدا الملک مادی ہے کہ:-

”عمروؓ بن الحجاج ۲۲ھ میں طرابلس پہنچے۔ اور اُس قلعہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ جو مشرقی جانب ایک اونچے ٹیلے پر واقع تھا۔ ابلیان المغرب میں لکھا ہے کہ:-

”طرابلس کے باشندوں نے اہل لغوسہ سے اعاد طلب کی تھی۔“

۱۸ قزح مصر المغرب والاندلس ۱۸۳

۱۹ تہایت الادب ۶۳

۲۰ اس سے مراد شیخ عبد اللہ شطاب کا لقب ہے۔

۲۱ ابن العزازی المرآشی

۲۲ کسی ایک مورخ نے بھی یہ بات نہیں لکھی۔ کہ قیص سے باہر بھی مسلمانوں کو کچھ قسم کی مزاحمت پیش آئی تھی۔ اور یہ بات اس امداد طلبی کی روایت میں شک پیدا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رہا تھے اگلے صفحہ پر

غزوة تکبیر بلند کیا۔ نعروں کی آوازیں باہر کے مسلمانوں نے سنیں تو وہ دوڑ کر ان سے جا ملے اور نہایت مستعدی کے ساتھ رومیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جس کی تاب وہ زیادہ دیر نہ لاسکے آخر تو زردہ ہو کر راہ فرار اختیار کی اور گرتے پڑتے اس سمت بھاگ نکلے۔ جہاں انہوں نے پہلے ہی سے فراہی جہاز تیار کر رکھے تھے

شہر پر مسلمانوں کا پوری طرح قبضہ ہو گیا۔ بڑی مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا جسے عمروؓ نے فروخت کر کے قیمت مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی۔

ابن عبد الحكم کی روایت ابن عبد الحكم تسخیر طرابلس کی حکایت ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

عمروؓ کی فوج میں سے جو مدینہ کا ایک شخص سات آدمیوں کی معیت میں ایک دن شکار کے لئے نکلا۔ چلتے چلتے وہ لوگ مغرب کی جانب اپنے کیمپ سے بہت دور نکل گئے۔ گرمی کی شدت ناقابل برداشت ہو گئی۔ تو وہ لوٹ گئے۔ جب وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے دریا کے کنارے پہنچے۔ تو انہیں نظر آیا کہ یہ دریا تو شہر سے بالکل ملحق ہے۔ اور اس طرف شہر کی فصیل بھی کچھ کٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ جو کشتیاں پانی میں پڑی ہوئی ہیں۔ ان کے ٹکڑے بھی مکانات کے دروازوں کے ساتھ ہی بندھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مدینہ نے اور زیادہ غور سے دیکھا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اس طرف دریا کا پانی بھی کم گہرا ہے۔ نگاہ تفتیش نے اور گہرا جائزہ لیا۔ تو اندازہ ہوا کہ جس حصہ میں پانی کم ہے۔ وہاں ایک راستہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا۔ ساتوں نے دریا میں گھوڑے ڈال دیئے اور کنیرہ کے قریب سے شہر میں داخل ہو گئے۔ اور تکبیروں کا غلغلہ بلند کر دیا۔ عمروؓ

ابن الاثیر کی روایت یہ ہے۔ عمروؓ اور اس کے ساتھیوں نے غور کر کے دیکھا تو شہر کے اندر ساتھیوں کی چمک اور شور کی آواز سنائی دی اور اس نے فوراً اپنی فوج کو اندر داخل ہو جانے کا حکم دے دیا۔ (ج ۳ صفحہ ۱۷۷) عمروؓ نے لکھا ہے۔۔۔۔۔ عمروؓ وہی اعاصی چلتے رہے۔ یہاں تک کہ شامہ میں طرابلس پہنچ کر پٹا ڈال دیا۔ جہاں انہیں مقابلہ پیش آیا اور بالآخر انہوں نے جو دشمن اسے فتح کر لیا۔ مغلہ مال غنیمت کے انہیں کسی بڑے تاجر کے زیتوں سے لے کرے ہوئے اور مال لگے جنہیں انہوں نے فروخت کر کے ان کی قیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔

نے جب اپنے آرمیوں کو شہر کے اندر دیکھا۔ تو پھر باقی فوج کے باہر رہنے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں کے پاؤں اکٹرا گئے۔ اور انہیں تیار کشتیوں میں بیٹھ کر راہِ ذرا اختیار کینے بغیر کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔

فصیل طرابلس کا انہدام | مندرجہ بالا روایات سے معلوم ہو گیا کہ رومیوں کی طرف سے شہر کے اندر اور باہر کسی جگہ بھی کوئی مقابلہ پیش نہیں آیا۔ بلکہ ان پر پہلے ہی سبوں کی دہشت طاری ہو چکی تھی۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے ان کے مقابلہ کے لئے تیار نہیں تھے اور ان کا حال بھی ضعف و انحطاط میں اہل برقع سے کچھ کم نہ تھا۔ اور ہینزلیوں کی ظالمانہ حکومت اور تشددانہ وصولیات نے انہیں جسمانی، روحانی اور مالی اغلاس میں عبرتناک حد تک مبتلا کر دیا تھا۔ شہر پر قبضہ ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے باقی رعایا کو امن و امان دے دیا۔ ان کے مال و مالک

پر انہیں بحال کر دیا اور نہ ہی اور شہری آزادیوں کا اعلان عام کر دیا۔

ایک روایت کے مطابق مسلمانوں نے شہر میں ایک مسجد بھی تعمیر کی۔

یہاں سے فارغ ہو کر جب ٹرٹونے اپنی اوزار کے ساتھ مغرب کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ تو

مندرجہ ذیل مصلح کی بنا پر ضروری سمجھا کہ شہر کی تمام فصیل کو منہدم کرادیں۔

۱۔ رومی دوبارہ قلعہ بند ہو کر مسلمانوں کے لئے درد سزا بننے پائیں۔

۲۔ مسلمان رومیوں اور ان کے مددگاروں کی بہ نسبت نہایت قلیل تعداد تھے۔

۳۔ مسلمان اس علاقہ میں نو وارد تھے۔ اس لئے وہ دشمن کی طرف سے بہت زیادہ محتاط

رہتے تھے۔

۴۔ مسلمانوں کا مرکزی دار الخلافہ جہاں سے انہیں امداد پہنچ سکتی تھی بہت دور ہو چکا تھا

۱۰۰ فتوح مصر و المغرب بالاندرس ۱۰۰

۱۰۱ اساتذہ پیش نظر ہے کہ اس فصیل میں ابن عبد البرک منسوب ہے۔ حدیث اختلاف کے ساتھ اصل و اصل کو ابن خلدون الطبری، ہافری وغیرہ کے علاوہ بعض بیرونی مؤرخین تک نے پیش کیا ہے۔ مثلاً فرزل نے اپنی کتاب "البیرو" FARNEL - LES BERTERBS میں اور کول نے اپنی کتاب

شمالی افریقیا میں CAUDEL - L'AFRIQUE DUNDORD

۱۰۲ یعنی مرتبہ منورہ

۵۔ اگر اتفاقاً مسلمانوں کو اس سوراخ کا پتہ نہ چلتا جس سے وہ داخل شہر ہو سکتے تھے۔ تو یہ فیصلیں خدا جانے کتنے طویل عرصہ تک ان کا وقت ضائع کرتیں۔

سوراخ شمالی افریقیا

فتح صیراتہ | طرابلس کے مغرب میں ۶۰ کیلو میٹر کے فاصلہ پر ایک پرانا شہر صیراتہ تھا جسے فنیقیوں نے نویں صدی قبل مسیح میں آباد کیا تھا۔ اور یہ شہر شمالی افریقیا میں سب سے بڑا تھا اور آبادی تمدن اور تجارتی حیثیت میں طرابلس سے بھی بڑھا ہوا تھا۔ اس لئے کہ اس کی بندرگاہ بھی سمورہ تھی۔ اور اسے اندرون ملک کے ساتھ بہت سے تجارتی راستوں کے ذریعے مربوط کر دیا گیا تھا۔

اہل صیراتہ کو مسلمانوں کی آمد کا یقین اسی کا وقت ہو گیا تھا جب وہ طرابلس کا محاصرہ کر رہے تھے۔ اس لئے انہوں نے پہلے ہی سے تلمبہ بند ہونے کی تیاری مکمل کر لی تھی لیکن جب ان تک طرابلس کے محاصرہ کی ناکامی اور غیر معمولی تاخیر کی خبریں پہنچیں۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ جب مسلمان طرابلس کی فتح سے عاجز رہ گئے ہیں۔ تو یقیناً وہ صیراتہ کو بھی کبھی فتح نہ کر سکیں گے۔ اس لئے کہ صیراتہ طرابلس کے مقابلہ میں کہیں زیادہ مستحکم ہے۔ اور یہاں کے باشندے بھی وہاں کے مقابلہ میں کثیر التعداد ہیں۔ یہ سوچ کر وہ لوگ مٹلٹھن ہو گئے۔ اور تمام تحفظات ختم کر کے اپنی لوزنہ کی زندگی کے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔

ادھر عمرو بن عبد الحمید اچانک طرابلس پر قابض ہو گئے۔ تو فوراً اپنی فوج کو صیراتہ کی طرف روانہ کر دیا اور قائدین کو سختی کے ساتھ ہدایت کر دی۔ کہ وہ درمیان میں رے کے بنیر راولی رات صیراتہ پہنچ جائیں۔

سوار فوج عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں صیراتہ پہنچ گئی۔ ادھر صبح صادق طلوع ہو رہی تھی

۱۔ بعض حوالہ جات میں سیرت آیا ہے۔ اور یہ نام لاطینی نام SABRATA سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن مؤرخین جنرا لہ صیراتہ ہی لکھتے ہیں۔

۲۔ اس کا تجارتی حیثیت فتح امبالی کے بعد ختم نہیں ہوئی۔ بلکہ اور زیادہ ترقی پا گئی۔ عربوں نے اس کا نام ہوق قدیہ یعنی پرانی منڈی رکھ دیا۔ یہاں تک کہ عبدالرحمان بن عیب نے اس منڈی کو سلسلہ میں اس کے محلے طرابلس کی طرف منتقل کر دیا۔

اور ادھر عمار بن ابی اریحہ سے ملے۔ شہر ان کے سامنے تھا۔ قبیل کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اور اہل شہر عادت کے مطابق اپنے مال مویشی لے کر باہر نکل رہے تھے۔ اس سے زیادہ سہری موقح اور کیا ہو سکتا تھا۔ چھاپہ نہایت کامیاب رہا اور مسلمان فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اور نہ روایت یحسانی، "بائندگان شہر میں سے کوئی شخص بھی عمار کے ہاتھ سے نہ بچ سکا۔ سوائے ان لوگوں نے جو سمندر کے راتنے صلیب کی طرف بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔"

اس شہر کی قبیل کو بھی مسلمانوں نے منہدم کیا اور یہ شمار مال غنیمت پر قابض ہوئے۔ اور اس کے بعد عمرو بن العاص کے پاس فتح کی خوشخبری بھیج دی۔ جس پر وہ آکر اپنی فوج کے ساتھ مل گئے۔

ابن عبدالحکم کی روایت یہ ہے کہ:-

"صہرا تو لے پہلے ہی سے قلعہ بند ہو چکے تھے۔ لیکن جب انہیں طرابلس کے محاصرہ کی ناکامی کا علم ہوا تو پھر وہ مطمئن ہو گئے۔ ادھر عمرو بن العاص جب طرابلس میں کامیاب ہو گئے۔ تو انہوں نے کثیر تعداد سواروں کو راتوں رات صبراً پہنچ جانے کا حکم دے دیا۔ یہ فوج صبح کو عین اس وقت پہنچی۔ جبکہ اہل شہر قطعاً بے خبر تھے۔ اور اپنے مویشیوں کو شہر تپاہ کے دروازوں سے چرنے چلنے کے لئے باہر لے جا رہے تھے۔ مسلمان انہی دروازوں سے اندر داخل ہو گئے۔ اور پھر ان کے ہاتھ سے کوئی بھی نہ بچ سکا۔ اور اس طرح عمرو شہر کی ہر چیز پر دروہت قابض اور متصرف ہو گئے۔"

ابن عبدالحکم کی یہ روایت حروف بحرف یحسانی کی روایت سے مطابقت رکھتی ہے۔ جو کتاب ہے کہ:-

"صبراً کو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے افریقہ میں داخل ہونے ہوتے ہی طرابلس کے بعد فتح کیا۔ ان کی فوجیں علی الصبح اس حال میں پہنچ گئیں کہ اہل شہر اپنے مویشی دروازوں سے نکال رہے تھے۔ فوج کی قیادت اس

وقت عبد اللہ بن زبیر کے ہاتھ میں تھی۔ یہ فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اور پھر ان کے ہاتھوں سے کوئی بھی نہ بچ سکا۔ سوائے چند اشخاص کے جو اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر صقلیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور شہر کی ہر شے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان کے بعد انہوں نے عمرو کی طرف شہر پناہ کے بارے میں رجوع کیا جس پر انہوں نے اسے منہدم کرنے اور جلادینے کا حکم دے دیا۔

ابن اثیر ان دونوں راویوں سے اختلاف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ:-

”عمرو نے صبرائہ پر معمولی جمعیت نہیں بلکہ بھاری فوج بھیجی تھی“

اور کہتا ہے کہ:-

”عمرو ابھی طرابلس ہی پہنچے تھے کہ اہل صبرائہ قلعہ بند ہو گئے تھے۔ پھر جب طرابلس کا حاصرہ طول پکڑا گیا۔ تو وہ لوگ مسلمانوں کے عجز کے پیش نظر مطمئن اور بحال ہو گئے۔ اس کے بعد جب طرابلس فتح ہو گیا۔ تو عمرو نے ایک بھاری فوج صبرائہ روانہ کی جو علی الصباح منزل مقصود پر پہنچ گئی۔ در آن حالیکہ شہر کے باشندے دروازے کھول کر اپنے مویشی باہر نکال رہے تھے۔ اور طرابلس کی فتح سے بالکل بے خبر تھے۔ مسلمانوں نے ان پر یکایک چھاپہ مارا اور وہ دنگلنے ہوئے شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اور جو کچھ بھی اس میں تھا سب کو مال غنیمت بنا لیا اور عمرو کی طرف لوٹ آئے“

مذکورہ بالا اختلاف روایات کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے تمام مؤرخین اس واقعہ کے مندرجہ ذیل پہلوؤں پر متفق نظر آتے ہیں:-

۱۔ طرابلس سے صبرائہ پہنچنے میں نہایت تیز رفتاری سے کام لیا گیا

۲۔ یہ پیش قدمی رات میں ہوئی

۳۔ حملہ بھی چھاپہ کی صورت میں عمل میں آیا۔

ملہ الرحمہ نے یہاں اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ تیجانی نے یہ بیان کیا ہے کہ عبد اللہ بن زبیر سواروں کے قاتل تھے۔ ان کے علاوہ کسی کی روایت میں یہ بات نہیں آئی ہے۔

ملہ ابن اثیر جلد ۴ ص ۱

فتح شروس | جبل نفوسہ کے علاقہ میں شہر شروس بربروں کا ایک عظیم الشان قدیم دار الخلافہ اور اس کے دو پایہ تختوں میں سے ایک تھا۔ اور اس کے ماتحت ۳۰۰ بستیاں تھیں۔

مسلمان صبراً اسے فارغ ہوتے ہی اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور اس وقت تک اسی پر پڑاؤ ڈالے رکھا۔ جب تک کہ اسے فتح نہ کر لیا۔ مؤرخ یہی کچھ بتاتے ہیں۔ اور اس بات سے غمگین ہیں کہ آیا اسے صلحاً فتح کیا گیا یا بزورِ شمشیر۔

فتح ودان | عمر بن حاص کے دل میں محاصرہ طرابلس کے دوران بار بار یہ اندیشہ پیدا ہوتا تھا کہ قیامی نفوسہ اہل طرابلس کی امداد کو نہ پہنچ جائے۔ اس لئے انہوں نے طرابلس سے فراغت پا کر اس اندیشہ کو بھی صاف کر لینے کا ارادہ کر لیا۔ اور یسروں اہل ارطاة کی قیادت میں ایک بھیجت

۱۰۰۰ افراد جبل کے دو پایہ تخت تھے۔ شروس اور حادو

سکے بلاذری نے قائد کا نام یسروں اور ابن عبدالمکرم اور بوری نے بشر لکھا ہے۔ — فورنل Fournel کو ہیں بات میں شک ہے۔ کہ آیا حادو ودان کا قائد یسروں ہی تھا یا نہیں۔ اور اس شک کی قیاد بلاذری کی یہ روایت ہے۔ کہ یسروں سن پیدائش ۳۰۰ ہے اور ودان کی ہم کا سال ۳۰۰ ہے۔ جس کے معنی یہ ہوتے کہ ۳۰ سال کی عمر ہی میں یسروں کو فوج کا قائد بنا دیا گیا تھا۔ یہ بات چونکہ تمام مؤرخین کے خلاف جاتی ہے۔ اس لئے وہ باتوں میں سے ایک کو تسلیم کرنا پڑے گا یا تو بلاذری نے یسروں کے سن پیدائش میں غلطی کی ہے۔ یا پھر باقی مؤرخین یسروں کی قیادت بیان کرنے میں غلطی پر ہیں۔ لیکن عقل اور منطق کا تقاضا یہ ہے۔ کہ ہم ایک بلاذری کے قول کو ہموار کے مقابلہ میں مدد کریں۔

اور اس رد کی تائید میں ہمارے پاس مؤرخین کی دیگر روایات بھی ہیں۔ مثلاً: — ابو الحسن بن نجوم بن مروان ص ۲۳ لکھتا ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد عمر بن الخطاب نے عمرو بن العاص کو مصر کی طرف روانہ کیا۔ اور زینب بنت جحش کو ان کے ساتھ کیا۔ اور ابن حیرت میں یسروں اہل ارطاة اور شامیہ بن عدنانہ اور یسروں بھی تھے۔

اس روایت سے بلاذری کے بیان کو وہ سن پیدائش کی غلطی واضح ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ عمر بن الخطاب کی طرف روانگی تو ودان کی ہم سے کئی سال پہلے تھی۔ جب مصر کی روانگی کے وقت یسروں کی سمیت کا ذکر خاص طور پر کیا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیادت کا عمر کو بہت پہلے پہنچ چکے تھے۔

حادثہ ایسی حسرت محاذ پر رونے کے اور میں ان کے جہاں باز مسازین میں سے تھے اور سرکردہ معین اور تمام کی فتوحات میں شرکت کے ساتھ ساتھ انہوں نے خشکی اور تیزی کی پگھلوں میں اوج کی قیادت بھی کی تھی۔ ان کی جنگ میں بھی وہ شرکت نے۔ وہ ذاتی طور پر ایک ایسے بہادر شخص تھے کہ جہاں میں بددیانتی بڑی حد تک پائی جاتی تھی وہیں رہاؤں لگے صلح پر

صبراً سے قابض کی طرف بھی بڑھ سکتے تھے۔ بالخصوص جبکہ صبراً اور قابض کی درمیانی مسافت طرابلس اور صبراً کی مسافت سے بہت کم تھی۔ انہوں نے صبراً کے برخلاف قابض کے لئے اجازت کیوں ضروری سمجھی۔ اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ عمرو بن عبد مناف کو اپنی موجودہ طاقت سے بالکل سمجھتے تھے، خاص طور پر جبکہ مصر اور یمن سے ان کا اصلاتی رابطن پہلے ہی کافی بُد اختیار کر چکا تھا اور وہ اسے اور زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتے تھے۔

ایک دہائے اس موقع پر یہ بھی قائم کی جاتی ہے۔ کہ غزوہ کے ہمسوسوں اور ہزاروں دستوں نے اس قسم کی اطلاعات بہم پہنچائی تھیں۔ کہ صبراً کسے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد جریر پوری طرح بیدار ہو چکا ہے۔ اور اس نے نہ صرف یہ کہ سبیلکہ نامی قلعہ میں جو کہ ساحل کی بندوبستی پر واقع ہے۔ اپنی دفاعی تیاریاں مکمل کر لی ہیں بلکہ اس نے اپنی فوجوں کو سرحدات کی ناک بندی پر بھی تعینات کر دیا ہے۔ ان خبروں کی بنا پر عمرو نے سوچا کہ ہم سرحدات کو اس وقت تک عبور نہیں کر سکتے۔ جب تک کہ اپنی موجودہ طاقت میں جدید فوج کا اضافہ نہ کر لیں۔ اس لئے انہوں نے خلیفہ سے اجازت بھی طلب کی تھی اور کمک بھی۔

عمروؓ نے جن الفاظ میں خلیفہ سے مدد مانگی تھی وہ یہ تھے :-

”اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں پر طرابلس کو فتح کرا دیا ہے۔ اور اب اگے

افریقا کا قافلہ صرف ۹ دن کے برابر ہے۔ اگر امیر المؤمنین اسے بھی فتح کرنے کا ارادہ

رکھتے ہیں تو کر گزریں.....“

خلیفہ کی رائے لیکن خلیفہ نے ان کی رائے سے اختلاف کیا۔ اور مزید پیش قدمی کے ذریعہ

اسلامی مملکت کی سرحدات کو اپنی زیادہ وسعت و پیمانے سے انکار کر دیا۔ جن کی حفاظت مدینہ کے

دور و راز قافلہ سے کرنی مشکل ہو جانے حقیقت تھی ہے کہ خلیفہ کا ارادہ فلسطین ہی سے آگے بڑھنے

لئے تاریخ حوالہ جات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غزوہ اہلس مسلمان سواروں کو افریقہ کے علاقوں میں بھیجتے رہتے

تھے۔ جو وہاں چن چن سے ہارنے اور بال غنیمت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے سیاسی حالات اور اہل افریقہ کی

کیوت کا حقیقی انداز بھی لاتے رہتے تھے۔

۱۰ سبیلکہ علاقہ مدینہ کا سب سے پہلا قلعہ تھا۔ اور یہ قلعہ اس جنگی شہرہ پر واقع تھا جو سورہ سے نسبت تک

پہلی تھی جو چیرنے میں قلعہ کو اس لئے مقصد کیا تھا کہ اسے جو خطرہ مدینہ پر مشرق کی طرف سے آ رہا تھا جس کا

انسداد اسے بالائی قلعہ سے نہیں پیدا ہوا تھا اور فرازی علاقوں میں بھی ؟

کا نہیں تھا۔

چنانچہ انہوں نے عمرو کو اجازت اور امداد دونوں کے دینے سے انکار کر دیا اور مندرجہ ذیل الفاظ میں انہیں صاف صاف جواب دے دیا کہ

”بالکل نہیں۔ افریقیا افریقیا نہیں بلکہ تفریق کنندہ ہے۔ خود دور افتادہ سے اور دوسروں کو بھی دور پھینکنے والا جہد شکن اور جہد شکنی کی تعلیم دینے والا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی بھی اس پر فوج کشی نہ کرے۔“

ایک روایت کے مطابق حضرت عمروؓ کے الفاظ یہ تھے کہ۔
”افریقیا تفریق کنندہ، تفریق کنندہ، تفریق کنندہ ہے۔ اس پر کوئی فوج کشی نہ کرے۔“

بلا ڈری کہتا ہے کہ افریقہ کے متعلق حضرت عمروؓ کو براہ راست بھی کچھ اطلاعات پہنچی تھیں۔ جس سے انہوں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ نہ سہل الحصول ہے اور نہ سہل الوصول ہے۔ اس لئے انہوں نے عمروؓ کو اس سے روکتے ہوئے لکھ بھیجا تھا کہ۔

”افریقیا افریقیا نہیں بلکہ تفریق کنندہ، جہد شکنی کرنے اور جہد شکنی کرانے والا ہے افریقہ والوں نے ہمیشہ رومیوں کو ان کے دراجبات کم ادا کیے ہیں۔ اور جہد شکنیاں زیادہ کی ہیں۔“

عمروؓ کی داپسی اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت خلیفہ کا انکار عمروؓ بن العاص کو ملا، اسی وقت متوقف کا بھی ایک مراسلہ ان کے پاس پہنچا۔ جس کا مضمون یہ تھا کہ رومی صلح کے معاہدہ کو توڑ کر دوبارہ حالات جنگ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان ہردو مراسلات کا لازمی تقاضا ایک ہی تھا اور عمروؓ نے اسے پورا کیا۔ فوراً مصر کی طرف لوٹ آئے اور حضرت عمروؓ کی خلافت کے اخیر تک وہیں مقیم رہے۔

حضرت عمروؓ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے عمروؓ بن العاص کو مصر کی ولایت سے معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن ابی مرثد کو مشرفاً ہا میں عالی مصر بنا دیا۔

ساتھ قبل ازیں ہم مومنین کی تحقیق اس بارے میں لکھ چکے ہیں۔ جو یہ ہے کہ حضرت عمروؓ بن العاص کی ادارت مصر سے معزول شدہ کے اوپر مشرفاً کے احوال میں ہوئی۔ مشرفاً غلط ہے (مخبر پانی تھی)

بمقد سے شروع ہو کر مہراتہ اور ودان پر ختم ہونے والی تیز رفتار فتوحات میں ہیں
نتیجہ ماخوذہ | سب سے زیادہ کار فرمائی دو عوامل کی نظر آ رہی ہے جنہیں ہم ذیل میں وضاحت
 کے ساتھ پیش کرتے ہیں :-

۱۔ ملک اور فوج کی حفاظت | یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ برتہ اور طرابلس دونوں ہی رومیوں
 کے زیر اقتدار تھے۔ اور اس وقت عمرو بن لوط ہی رومیوں کے دشمن نیردیک تھے جس کی فوجوں
 نے انہیں پہلے فلسطین اور شام سے نکالا۔ اور اس کے بعد مصر کی سر زمین سے اس لئے عمرو
 بجا طبر پر اس بات کا اندیشہ رکھتے تھے۔ کہ دولت خوردہ رومی برتہ اور طرابلس کے راستے سے مصر
 کی بازیابی کے لئے ہر وقت کوشش کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ وہ اسی قسم کی کوشش فلسطین اور شام کے
 لئے کرتے رہتے تھے۔

اس لئے عمروؓ اپنی فوج اور اپنے ملک کی سلامتی اور حفاظت کی خاطر برتہ اور طرابلس کا کمانا
 نکال دینے میں حق بجانب تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس کار اہم کی انجام دہی میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر
 کو گوارا نہ کیا۔ اور جلد از جلد مغرب کے علاقہ کو فتح کر کے گویا مصر اور اسلامی افواج کی حفاظت بحال کر لی۔
 عمروؓ اگرچہ کافی طاقت نہ ہونے کی بنا پر مزید پیش قدمی کوئی احوال جاری نہ کر سکے لیکن انہوں
 نے مسلمانوں کے عزائم میں اس کی طامح پوری ضرور ڈال دی۔ چنانچہ وہ وقت کے لشکر رہے اور مشرق
 میں انہوں نے حسب بھی موقع پایا اپنی افواج بھیج کر تمام شمالی افریقہ کو آخر کار فتح کر ہی لیا۔
 جس طرح عمروؓ کا مغرب کی طرف بڑھنا سلامتی ملک و فوج کے لئے تھا۔ اسی طرح ان کا مزید
 پیش قدمی کو روک کر مصر کی طرف واپس آنا بھی ملک اور فوج کی سلامتی ہی کی بنا پر تھا۔ اس لئے کہ
 انہیں رومیوں کی ہمدردی کے ارادوں کا پتہ چل چکا تھا۔ اور اگر وہ اس وقت مصر کی طرف نہ پلٹتے۔ تو
 ملک اور فوج کی سلامتی معرض خطر میں پڑ سکتی تھی۔

اسی طرح ودان اور اس کی مضافاتی بستیوں کی تسخیر بھی اسی غرض سے تھی کہ یہ علاقہ جنوب
 کی طرف تھا۔ اور عمروؓ شمال کی طرف ساحلی علاقہ میں بڑھ رہے تھے۔ اگر ساتھ ہی ساتھ جنوب کی طرف
 بھی فوجیں بھیجی جاتیں۔ تو اس طرف سے ہر وقت رومی افواج کا خطرہ پیش آ سکتا تھا۔

۲۔ **اچانک حملہ اور راند داری** | مہراتہ پر بعد اشدین زبیر کے تلوانے ہمارے سامنے اس حیثیت کو
 پوری طرح آشکارا کر دیا ہے کہ عمروؓ کے نزدیک چھاپہ مار حملہ کی کس قدر اہمیت تھی۔ اور وہ اپنے دشمنوں
 کے مقابلہ میں اسے کامیابی کی کتنی تعینی ضمانت اور کسی کار گذر میر سمجھتے تھے۔

چھاپہ بار حملہ کی اس سے زیادہ مضبوط کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ روایات مسات مسات بتاری ہیں کہ مسلمان شہر کے اندر ایسی حالت میں داخل ہوئے، جبکہ شہر والے پورے المیزان کے ساتھ اپنے مویشی باہر نکال رہے تھے اور عادات کے مطابق اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ اور آئے حالہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اور پھر اہل شہر اس قدر بدحواس بھی بے خبری ہی کی بنا پر ہوئے کہ وہ وقتی طور پر نہ جنگ کے لئے تیار تھے اور نہ صلح ہی سکے تھے۔ اور ایسی بدحواسی کے عالم میں سواروں کے ہاتھوں ایک ایک کر کے سب ہی قتل ہو گئے۔ سوائے ان کے جو کشتیاں میں سوار ہو کر مقابلہ کی طرف بھاگ سکے۔

اس میں بھی شک نہیں ہے کہ اس چھاپہ کی کامیابی سراسر موقت تھی اس ضرورت فوجی سازداری پر جس نے راتوں رات لبا مقررے کیا اور دشمن کو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دی۔ یہاں تک کہ میں موقع پر پہنچ گئے اور اپنے منصوبہ میں سو فی صدی کامیابی حاصل کی۔

۴) علاقہ نوبہ کی فتح

عزیز نے مصر کو صرف مغرب ہی کی طرف سے محفوظ کرنے پر اکتفا نہیں کی۔ بلکہ جنوب کی طرف سے بھی محفوظ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اور اس غرض کے لئے نافع جسدائیس قبیلے کی قیادت میں ایک جمعیت جنوب کی سمت روانہ کر دی۔

۱) مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار گھوڑے تھے۔

۲) اس کے مقابلہ میں اہل نوبہ نیز انداز کی اہل تھے۔

مسلمانوں کے گھوڑے نوبہ کے علاقہ میں داخل ہو گئے۔ اور اوہر نوبہ زمین اہیں روکنے کے لئے ٹوٹے گئیں۔ طرفین میں شدت کا مقابلہ پیش آیا۔ دشمن نے تیروں کی بارش سے مسلمانوں کا کافی نقصان کیا۔ اور مسلمان کوئی فتح حاصل نہ کر سکے۔ البتہ جنگ کو طول دینے میں کامیاب رہے۔ بعض روایات کے مطابق مسات سال تک لڑائی جاری رہی۔ اور کسی روایت کے مطابق عمرو کی مصر سے معزولی تک جاری رہی۔ اس کے بعد جب عبداللہ بن سعد ان کی

۱) یہ نافع عمرو بن عامر کے چچا اور عامر بن وائل کے ماں ہائے بھائی تھے۔

۲) بلکہ حاشیہ نگار مفر پر۔

۳) بلکہ حاشیہ نگار مفر پر۔

جگہ والی مصر بنائے گئے۔ تو انہوں نے نبیوں سے اس شرط پر صلح کر لی۔ کہ وہ دالی مصر کو
 قلاموں کی صورت میں سالانہ جزیہ ادا کیا کریں گے۔ اور اس کے مقابلہ میں عرب والی انہیں
 پارچاٹ اور خوراک کی مقررہ مقدار ادا کر دیا کریں گے۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ صلح فریقین
 کے درمیان مساویانہ سطح پر عمل میں آئی۔ اسے فاتحانہ صلح نہیں کہا جاسکتا۔
 صلح خواہ کسی نوعیت کی ہو۔ بہر حال اس سے عمرہ کا اصلی مقصد پورا ہو گیا۔ اور وہ اس علاقہ
 میں دشمن کے خطرہ سے محفوظ ہو گئے۔

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ ۳۱۱ دین الافر نے دوٹی کیا ہے۔ کہ رب نبیوں کے صفت و بارگاہ
 شدید ہو کر کی سب نہ اگر پسا ہوئے۔
 ۳۱۱ حضرت عثمان بن عفان کے عہد میں۔
 ۳۱۰ یہ معتوی کہتا ہے کہ صلح کی شرط یہ تھی کہ لوہے والے عاتقہ المسلمین کے لئے ۳۶۰ نرا اور خاص دالی کے
 لئے ۳۶۰ نرا فراہم کیا کریں گے (تاریخ البعثوی ج ۱ ص ۱۸۵)

(۶)

عمرو بن عامر کے اصولِ حرب

خبرواری	یا	جاسوسی	•
یتاری	یا	بھرتی	•
اچانگ فوج کشی	یا	چھاپہ	•
چارحیت	یا	حملہ	•
ٹاکہ بندی	یا	محاصرہ	•
حفظِ قوی	یا	فوج کی سلامتی	•
کردار	یا	باطنی قوت	•

جب سے جنگ کی ابتدا ہوئی ہے، اسی وقت سے اس کے کچھ اصول اور منقذات بھی چلے آ رہے ہیں۔

اور یہ اصول ایسے پختہ اور ہمہ گیر ہیں کہ، سمجھا روں کی تبدیلی تو وقت اور موقع کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے لیکن یہ اصول کسی حال میں تبدیل نہیں ہوتے۔

یہ اصول و منقذات جنگ کے نئے نئے قدر ضروری ہیں کہ میدان جنگ کے کسی کمانڈر کو کسی قائد کو بھی ان کا لحاظ رکھنے بغیر مقرر نہیں۔ فتح و نصرت سراسر انہی اصول کے مطابق عمل کرنے پر موقوف ہے۔ قائدان کو یہ اتنا زیادہ بتائے گا۔ فتوحات آتنا ہی بڑھ کر اس کا استقبال کریں گی۔

ان اصول و منقذات کی حقیقت کیا ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے ؟

اس بار سے میں مورخین کے اقوال مختلف ہیں۔

کلاؤڈ فریز کے نزدیک ان کی تعداد چار ہے۔ ۱۔ ما، بھرتی (۲) پیش قدمی اور پہل (۳)

سرعتی عمل (۴) چھاپہ دینے سے خبری میں حملہ

ہندوؤں (ان چار میں لواء قب کا اضافہ کرتا ہے۔

جوینی کے نزدیک ان کی تعداد پانچ ہے اور وہ یہ ہیں: ۱۔ آناؤچی کار (۲) نیرتی حرکت

(۳) بھرتی و تیاری (۴) حملہ و بار جیت (۵) چھاپہ یعنی بے خبری کا حملہ

فوش اپنی کتاب اصول الحرب "میں چار اصول بیان کرتا ہے۔ ۱۔ تیاری اور بھرتی

(۲) آناؤچی کار (۳) فوج کی تقسیم یا مورچہ بندی (۴) فوج کی حفاظت

چونکہ ہم اس وقت عمر بن العاص کے اصول جنگ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ہم نے اس کے لئے

اپنی کتاب کا ایک مستقل باب وقت کیا ہے۔ جسے اگر کتاب کا مرکزی حصہ کہہ دیا جائے

تو بے جا نہ ہوگا۔ اور اس میں ہم عمر بن کے اصول جنگ کو جدید روشنی میں پیش کرنا چاہتے ہیں

اس لئے ہم ایک ایک اصول پر مستقل بحث کر کے مثالوں کے ذریعہ اس کی پوری وضاحت کریں گے۔

اور یہ بات ثابت کریں گے کہ عمر بن اگرچہ جدید اصول جنگ سے لیس نہ تھے۔ لیکن جدید اصول جنگ

سے ضرور واقف تھے۔

اور یہ اصول بھی انہوں نے کسی فوجی تعلیم گاہ سے حاصل نہیں کیئے تھے بلکہ اپنی ذہانت اور

اور ذکاوت سے خود انہیں وضع کیا تھا۔ اور پھر اپنے ہی میدانوں میں ان کا تجربہ اور استعمال بھی کیا تھا۔ اور عمروؓ کی پے در پے اور عظیم الشان کامیابیاں بھی اسی بات کی یہی منت تھیں کہ انہیں اپنے اصول جنگ پر یقین کامل اور اٹنا و صادق حاصل تھا۔
 عمروؓ کے سب سے نمایاں اصول جنگ چار تھے :-

- ۱۔ فوج کی بھرتی اور سامان جنگ کی فراہمی
- ۲۔ چھاپہ مارنا یعنی دشمن کی بے خبری میں اچانک حملہ کر دینا
- ۳۔ حملہ میں پیشقدمی اور پہل کرنا
- ۴۔ حفاظت و راج

چونکہ عمروؓ اپنی تمام فوجی کارروائیوں سے پہلے دشمن کے حالات سے باخبر ہونا ضروری سمجھتے تھے۔ اس لئے ہم نے مناسب جگہ جاسوسی کو نہ صرف یہ کہ داخل اصول کر لیں۔ بلکہ میدان عمل کی طرح اوصاف کتاب میں بھی اول نمبر پر اسی کا بیان کریں۔
 عمروؓ نے اپنے سرکوں میں محاصرو کا طریقہ کثرت سے اختیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے اسے بھی اصول و مبادی کی فہرست میں داخل کر لیا ہے۔

فوج میں اگر اخلاق، کردار اور عزم و اسخ کی تقیباتی اور روحانی طاقت نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں باقی تمام اصول جنگ بیکار اور غیر موثر ثابت ہوتے ہیں۔ اور عمروؓ بھی ہر قدم پر اس اصول کو پلہ سے اہتمام کے ساتھ لگے اور فعال رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لئے ہم نے باطنی قوی کے بشیر اصول جنگ کی فہرست کو ناقص سمجھا۔

باطنی قوی کو اگرچہ جنگ کے اصول میں شامل کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن جنگ میں اس کی اہمیت پلہ سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اگر ہم عمال جنگ کو دہرا بر اصول میں تقسیم کرنا چاہیں تو جتنا مذہب تمام مادی عمال کو حاصل ہو گا۔ اتنا ہی ذہن روحانی اور اخلاقی عمال کو بھی حاصل ہو گا۔ اور ہم یہ دہلی کر لے میں حق بجانب ہوں گے کہ میدان حرب و ضرب میں جس قدر اہمیت مادی قوتوں کو حاصل ہوتی ہے اتنی ہی اہمیت روحانی قوتوں کو بھی حاصل ہے۔ بلکہ بہت سے تائیدین نے تو روحانی قوی کو اولین درجہ عطا کیا ہے۔ اور وہ اس کا اہتمام جنگ سے پہلے اور جنگ کے دوران دونوں حالتوں میں سب سے زیادہ رکھتے تھے۔

ہم نے اس بات کی احتیاط رکھی ہے کہ اصول جنگ بیان کرتے وقت سابق تفصیلی واقعات

کی تکرار سے کتاب کو غیر ضروری طوالت نہ دیں۔ اس لئے مثالوں کی طرف اجمالی اشارات کر دینے گئے ہیں۔ اور یہ اشارات ہمارا مقصد واضح کرنے کے لئے کافی ہیں۔

(۱)

جاسوسی

جاسوسی یا اطلاع یابی کا کام اس زمانے میں مستقل جاسوزوں اور تنظیموں کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے۔ لیکن عثمانیوں کے خاص کے زمانے میں اس کام کو افراد انجام دیتے تھے۔ اطلاع یابی اور دریافت احوال ایک ایسا عمل ہے جسے جنگ کے دوسرے تمام کاموں پر فوقیت حاصل ہے۔

پہلے سالار کوئی بھی ہو اس بات پر مجبور ہے کہ اپنے افراد یا اپنے وفد یا منتظم جاسوزوں کو دشمن کے ملک یا اس کے کیمپ میں خفیہ طریقہ پر پھیلاد سے تاکہ وہ دشمن کی نقل و حرکت اور جنگی تفصیلات لاکر اپنے قائد کے سامنے پیش کر دیں۔ مثلاً دشمن کی تعداد کتنی ہے؟ اس کے پاس اسلحہ کیا کیا ہے اور کتنا ہے؟ اس کا نقشہ جنگ کیا ہے؟ اس کے وسائل جنگ اور ہول جنگ کیا ہیں؟ اس کے حصے کتنے بلند ہیں۔ نلوں پناہ گاہوں اور مورچوں کی کیا مضبوطی ہے؟ اور اس کے علاوہ ملک کی اندرونی فضا کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ

ان حالات و واقعات کی جیسی کچھ تصویر جاسوسوں کے ذریعے قائد کو ملے گی اسی کو سامنے رکھ کر وہ اپنا نقشہ جنگ تیار کرے گا۔

عثمنیوں نے عام تائیدین کی طرح جاسوسی کے شعبہ کو ہر مقام پر پوری اہمیت دی۔ اور اس وقت تک کسی میدان میں قدم نہیں بڑھایا جب تک دشمن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل نہ کر لیں۔

عثمنیوں کی مسلسل کامیابی کا راز بھی اسی میں تھا کہ وہ پہلے دشمن کے تمام پہلوؤں کو جانچ کر مثال کر کے دیکھ لیتے تھے۔ اور پھر اس کے کمزور پہلو پر ضرب لگاتے تھے۔ اس لئے اپنی ضرب میں کامیاب ہونے لگے۔

*

اجنادین میں عثمانیوں نے اپنے جاسوس بھیج کر دشمن کے عطا جنگ، اس کی فیصلوں، نلوں،

پھر یائے نیل کی طغیانی نے نلکہ کی خندق کو پانی سے بھر رکھا ہے
ابھی معلومات کی بنیاد پر عرعر نے صوبہ فیوم کے عداہات کو ترتیب دیا تھا۔

*

فیوم کی مشغولیت کے دوران بھی عرعر کے جاسوس دیگر اطراف و اکناف میں جاسوسی کر رہے
تھے۔ حنا کی تیاری کی خبر وہی ملائے تھے جس پر عرعر نے اس کی پیشقدمی کو روکنا ضروری سمجھا تھا۔

*

جن لوگوں نے فرہس کی ذمیل کے خفیہ تشکلات کا پتہ لگایا تھا اور جس کے ذریعہ مسلمان
فرہس اندر داخل ہوئی تھیں وہ بھی عرعر کے جاسوس ہی تھے۔ جو صبح و شام شہر کے گرد گشت
لگاتے رہتے تھے۔

*

تاریخ کے تمام حوالہ جات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عرعر نے اپنے جاسوس سواروں کو
شرقیہ میں پھیلا رکھا تھا۔ اور انہی جاسوسوں نے آخر میں انہیں اس بات کی خبر دی تھی کہ سیدکہ میں
جر پھرنے لڑو دستہ تیاری کر رکھی ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی مزید پیش قدمی کے لئے غلیظ
سے لنگ اور عداہات علیہ کی تھی۔

۱۲) بھرتی یا فرامی

بھرتی سے مراد عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ قاتل، فوجی نفوس کی زیادہ سے زیادہ تعداد جمع
کرنے تاکہ اُسے دشمن کے مقابلہ میں صفت آدرا کر سکے جو جنگ کا اصلی اور مرکزی مقام ہے۔
لیکن ہماری مراد بھرتی سے نفوس، رسد اور اٹھائیوں کا فراہم کرنا ہے۔

عربوں نے فرامی یا بھرتی کا سبق خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ آپ
فوجی بھرتی کا لڑا اہتمام فرماتے تھے۔ بعد کے مسلم قائدین نے غزوات رسول میں خود شریک ہو کر
اس حربی اصول کی اہمیت کا سبق سیکھا۔

غزواتِ حجاب کے شاگردان رسالت میں عرعرین اعلیٰ بھی ایک ہونہار شاگرد تھے۔ انہوں نے
جو کچھ سیکھا تھا اس کا اہتمام وہ جزو ایقان سمجھ کر ہمیشہ کرتے رہے۔

*

غزوہ ذات السلاسل میں جب عمرؓ نے اپنی فوج کو دشمن کے مقابلہ میں بہت کم پایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے عبید بن الجراح کی قیادت میں اچھی خاصی امداد بھیجی۔ یہ امداد کا طلب کرنا اور امداد کا بھیجنا دونوں اس بات کا ثبوت ہیں کہ تعداد یعنی بھرتی کی اہمیت حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمرؓ میں اعلاص دونوں کی نگاہ میں بہت زیادہ تھی :

*

بھرتی اور اضافہ تعداد کی اہمیت جنگ یرموک میں بھی واضح ہوئی۔ جب سابق صورت حال یہ تھی کہ مسلمانوں کے دستے جدا جدا مستقل قیادت کے تحت جنگ کرتے تھے مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ اسی صورت حال کو باقی رکھا جائے یا بدل دیا جائے۔ تو عمرؓ کی رائے یہ تھی کہ تمام متفرق دستوں کو یکجا ہو کر ایک ہی قیادت کے تحت جنگ کرنی چاہیے۔ اور ان کی یہ رائے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اور حضرت خالد بن ولیدؓ کے یہی مطالبہ تھی اور اسی پر عمل کیا گیا۔ اس رائے کا خلاصہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی گارڈوں اور جمعیتوں کو بھرتی کے ذریعہ ایک بڑے یونٹ اور بڑی فوج میں تبدیل کر دیا جائے اور دشمن کی بڑی تعداد کا مقابلہ بڑی سے بڑی تعداد کے ساتھ کیا جائے۔ یہ یہی گویا بھرتی اور اضافہ تعداد ہی کی ایک عملی شکل تھی :

*

جب بھی ضرورت پڑی عمرؓ ہمیشہ خلیفہ سے کمک طلب کرتے رہے۔ اور خلیفہ نے بھی عمرؓ کو مصر روانہ کرتے وقت فرمایا تھا کہ میں تمہیں مدد بھیجتا رہوں گا اور وہ اس وعدے کو پورا بھی کرتے رہے :

*

مگر لکھ چکے ہیں کہ عمرؓ اندرون مصر نقل و حرکت کر رہے تھے۔ تو بعض عرب ان کی فوج میں خود آکر شریک ہو جاتے تھے اور وہ ان کو خوش آمدید کہتے تھے :

*

دافعہ کو م شریک میں جب شریک کی فوج رومیوں کے محاصرہ میں گھر کر خطرہ میں آچکی تھی تو عمرؓ نے امداد بھیج کر ہی ان کی جان بچائی تھی :

*

صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عمرؓ نے کمک طلب کی اور حضرت فاروق اعظمؓ نے اس کے بھیجنے سے انکار کیا۔ اور وہی آخری موقع تھا جب عمرؓ ذریعہ کے وسط میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ اور

امیر المومنین اس رائے کے مخالفت تھے۔ چنانچہ ان کا ادا دوسے انکار کرنا صرف اس لئے تھا کہ جنگ ہند کو ہی جلائے اور اسلامی افواج مصر واپس آجائیں :

(۱۳) چھاپہ یا اچانک حملہ

چھاپہ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے تیار ہونے سے پہلے ہی اس پر چاڑھیں۔ حملے کی اس نوعیت کا اثر دشمن پر بہت ہی بڑا پڑتا ہے۔ اس سے دشمن ایسا بدحواس ہو جاتا ہے کہ اس کی رہی سہی نیاری بھی دم دم پر ہم ہو کر رہ جاتی ہے، جو صلے پست ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا سارا نظم و نسق تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔

اس کے برعکس حملہ آور پر اس کا اثر ہر حیثیت سے اچھا پڑتا ہے۔ وہ میدان پر آن کی آن میں قابض ہو جاتا ہے جس سے اس کا حوصلہ بلند ہوتا، جوش اور دلولہ بڑھتا اور مزید فتوحات کے لئے راستہ زیادہ کشادہ ہو جاتا ہے۔

چھاپہ کے یہی دو طرفہ اثرات و نتائج ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لئے ہر قائد اس کے موقع تلاش کرتا ہے۔ اور جب بھی کوئی موقع مل جائے تو اسے غنیمت سمجھتا اور اس سے پورا پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ عمروؓ اپنے اکثر معرکوں میں اس موقع کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ چونکہ وہ اس اصول کی اہمیت کو شعوری طور پر خوب سمجھتے تھے اس لئے اس سے فائدہ اٹھانے میں بھی انہوں نے کوئی کمی نہیں رکھی :

*

صوبہ فیم میں ان کی متعدد غزوات گزراں اور چھاپے اس کی نمایاں مثال ہیں۔ ان چھاپوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے علاقہ میں دشمن پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہ عمروؓ کا راستہ روکنے کی ہمت نہ کر سکا :

*

عمروؓ کے چھاپہ کی دوسری مثال حنا کے مقابلہ میں سامنے آئی۔ جب انہوں نے اس کے کیمپ سے بہت فاصلے پر جا کر اس سے اپنے حملے سے مطلع کر دیا۔ اور پھر اچانک پیش قدمی کر کے اس پر ٹوٹ پڑے اور اس سے بدحواس کر کے اس کے بہادروں کو تار کے گھاٹ اٹانا :

*

اس سے بھی زیادہ واضح مثال معرکہ ابو پولیس میں سامنے آئی ہے۔ جب عمروؓ نے اپنے دو دستوں کو

دشمنی سے پوشیدہ کر کے انہیں عین اس وقت ہی ہر پوکرنا زد عمل کرنے کا حکم دیا تھا جب سرکہ کا رزار گرم تھا اور دشمن ہر طرف سے بے خبر صورت سامنے کے مقابلہ میں منہمک تھا۔ اور ان کے اس چھا پے کے نتیجے میں عربوں کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ ہمیشہ کے لئے شکستہ دل ہو گیا :

*

طرابلس کی تسخیر بھی چھا پے ہی کی زمین منت ہے۔ جب مسلمان فیصل کے ایک پوشیدہ لشکر کے ذریعہ اپنا ملک شہر میں داخل ہوتے اور تکبیر کے نعرے سے اہل شہر کو ایسی حالت میں بدحواس کر دیا۔ جبکہ اس حملہ کا وہم و گمان بھی نہ رکھتے تھے :

*

قلعہ ابلوس کی تسخیر بھی اچانک عملہ ہی کی بنا پر ہوئی۔ جب زبیر بن العوام اپنے چند ساتھیوں کی معیت میں بیڑی کے ذریعہ فیصل پر چڑھے۔ اعدا انہوں نے تکبیروں کی صداؤں سے اہل قلعہ کے دل ہلا کر اس بات کا یقین دلایا کہ مسلمان قلعہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل قلعہ اس چھا پے سے بدحواس ہو خردہ اور دل شکستہ ہو گئے اور انہیں صلح کے سوا کوئی دوسرا چارہ کار نظر نہ آیا :

*

طرابلس میں بھی فیصل کے خفیہ لشکر کے ذریعہ مسلمان جاسوسوں کا یا ایک شہر میں داخل ہو کر تکبیر کے غلغلے بلند کرنا اور پھر باقی فوج کا شہر میں داخل ہو جانا چھا پے کی ایک واضح مثال ہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل شہر کو اپنی گردنیں پیش کر دینے یا پھر اپنے آپ کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا :

*

ابھی ابھی اچھا پڑھ چکے ہیں کہ قریش نے طرابلس سے فارغ ہو کر بعد ازاں زبیر کو کس طرح راتوں رات صبراً ترہانہ کیا۔ اور پھر وہ کسی غفلت کی حالت میں شہر پر جا پڑے۔ جبکہ وہ چوہاڑے دروازوں سے اپنے مال مویشی نکال رہے تھے۔ مویشی کیا نکال رہے تھے دشمنوں کو داخل کر رہے تھے۔ اس طرح مسلمانوں نے دشمن کو اس کے بستر پر ہی جا لیا اور اتنی ہمت بھی نہ دی کہ وہ آنکھیں کھلی کر دشمن کو دیکھ بھی سکے۔ چنانچہ کہ وہ تھوڑے کر اس کے مقابلہ کے لئے کھڑا ہو۔

*

۴) حملہ یا پیش قدمی

یعنی دشمن کے دار سے پہلے ہی اس پر وار کر دینا۔ اور اسے پیش قدمی کا موقع دینے بغیر خود اس کی طرف پیش قدمی کرنا۔ ابھی وہ تلوار کو تیار سے نکال ہی رہا ہو کہ اپنی تلوار کو اس کی گردن کے پار کر دینا اکثر قائدین حرب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ فتح و نصرت۔ پیش قدمی یعنی ابتدائی عمل ہی سے ماحصل کی بنا سکتی ہے و دفاع یعنی منفی عمل سے نہیں۔

قائدین کی اس رائے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کسی ملک کا دفاع بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں حملہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو سمجھا ہو گا۔ پیش قدمی کی تاثیر ہی کچھ عجیب ہوتی ہے۔ حملہ کا ارادہ ہی توجہ کی ہمت و شجاعت میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ پیش قدمی صرف قدم ہی آگے نہیں بڑھاتی بلکہ دل کو بھی قدموں کے ساتھ آگے بڑھاتی اور بڑھاتی ہی چلی جاتی ہے۔

نادر خ حرب نے ہم سے جی جنگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر کا فیصلہ پیش قدمی کرنے والے فریق ہی کے حق میں ہوا ہے جس نے پہل کی وہی کامیاب اور کامیگار رہا اور جو دوسرا جھجھکا وہ مارا گیا۔

میر نے اپنی لڑائیوں میں اس اصول کی کہاں تک پابندی کی۔ اس کا اندازہ آپ مندرجہ ذیل تاریخی اشارات سے لگا سکتے ہیں۔

*

جیسا کہ آپ گذشتہ اوراق میں پڑھ چکے ہیں غزوہ ذات السلاسل اور پھر میدانِ رموک اور اس کے بعد فلسطین اور شام کے ان تمام معرکوں میں جن کی قیادت ان کے ہاتھ میں رہی انہوں نے حملہ کرنے میں ہمیشہ پیش قدمی کی۔

*

اس کے بعد معرکے طویل و عرض میں بھی جتنے اہم معرکے پیش آئے۔ ان میں عمرو نے جارحانہ اور

لے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا کہ جب حضور مستحق تھے کہ خان قبیلہ مدینہ پر حملہ کی تیاریاں یا ارادہ کر رہے تو قبل اس کے کہ وہ ہوشیار ہو حضور اس پر جا پڑتے تھے اور حضور کا یہ طریقہ ہمیشہ صوفیہ کی کامیاب رہا دعوہ احمدیاتی ہی ا

رومیوں نے مدافعت جیٹت اختیار کی۔ شہر ذرا پر حملہ کرنے والے عمروؓ تھے :

*

ام ذہین پر بھی انہوں نے ہی حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد صوبہ فیوم کے تمام حصے بھی انہی کی طرف سے کیئے گئے۔ یہاں تک کہ ختا کی جمیعت جو حملہ کے ارادے سے نفل و حرکت میں آچکی تھی۔ اس پر بھی آگے بڑھ کر عمروؓ ہی نے حملہ کیا اور اس کا موقع ہی نہ دیا کہ وہ ان پر حملہ آور ہو سکے :

*

بلوچوں میں بھی عمروؓ ہی کے حملے سے جنگ شروع ہوئی۔ اور پھر دو سال جنگ میں بھی سوچے سمجھے منصوبے کے ماتحت پوشیدہ دستوں نے دو طرف سے تازہ دم اور اچانک حملے کیئے۔ جن کی تباہی مفادمت رومی نہ لاسکے اور شکست کھا گئے :

*

بابلون اور اسکندریہ میں بھی آپ بڑھ چکے ہیں عمروؓ ہی حملہ آور کی پوزیشن میں رہے اور رومیوں کو دفاع سے آگے نہیں بڑھنے دیا :

*

اسکندریہ کے بعد برقہ اور طرابلس کے تمام علاقے ہیں عمروؓ ہی نے حملے کر کے فتوحات حاصل کیں۔ اور کسی جگہ بھی تاریخ سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ کہ عمروؓ نے مدافعت جیٹت اختیار کر کے دشمن سے جنگ کی تو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمروؓ ایمان کی حد تک جارحیت پر تعلق رکھتے تھے۔ اور ان کے نزدیک پیش قدمی سے بڑھ کر فتح اور نصرت اور کامیابی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تھا :

(۵) محاصرہ یاتا کہ بندی

محاصرہ فزون حرب میں ایک کامیاب اصول شمار کیا جاتا ہے۔ اور کامیاب ہونے کے ساتھ سہل اور کم مشقت بھی ہے۔ اس ذریعے سے جو فتح حاصل ہوتی ہے۔ وہ دیر پا اور مستحکم ہوتی ہے۔ لیکن یہ محاصرہ کنندہ کے لئے جتنا کم مشقت ہے محصور کے لئے اتنا ہی صبر آزمائے اور مشکل بھی ہے۔ محاصرہ ذرا کی روح جب ایک دفعہ محاصرہ کی قید سے مضمحل ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ مشکل ہی سے دوبارہ بحال ہوتی ہے عمروؓ نے اس حقیقت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا۔

فتوحات شام کے دوران انہوں نے سب سے پہلے دمشق میں اس کا تجربہ کیا۔ تجربہ کامیاب رہا

تو پھر انہوں نے اس طریقہ کو قریب قریب ہر جگہ استعمال کیا اور اس کے اچھے نتائج سے بہرہ مند ہوتے رہے۔

*

فرما کی تسخیر محاصرہ سے کی گئی
 ام دینیں میں بھی محاصرہ ہی کا ہتھیار استعمال کیا گیا
 اس کے بعد بابلیوں کا محاصرہ تو عمر شریف کی تاریخ کا گویا شاہکار تھا۔ جو طویل ہونے کے ساتھ
 ساتھ آتما ہمہ گیر بھی تھا۔ کہ اس میں انہوں نے اہل قلعہ پر بھی فوجی امداد کے علاوہ ہر قسم کی رسیدی
 امداد کو بھی قطعی طور پر بند کر دیا تھا۔

*

اسکندریہ کا محاصرہ اگرچہ مدد طرفی تھا اور پونجی جانب سمندر ہونے کی وجہ سے اسے مکمل نہیں
 کیا جاسکتا تھا۔ پھر بھی محاصرہ کا مقصد پوری طرح حاصل رہا اور خشکی کے محاصرے اس کو باقی تمام
 علاقہ سے کلیتاً منقطع کر دیا تھا۔ جس نے محاصرہ زدگان کے دلوں کو شکنہ اور حوصلوں کو پست
 کرنے میں اپنا پورا اثر دکھایا۔

*

طرابلس میں بھی محاصرہ ہی نے کامیاب کیا جس کی بنا پر انہیں باہر سے نہ فوجی امداد پہنچ سکی
 اور نہ رسید ہی۔ اور اس اسیرانہ زندگی نے ان کے حوصلوں کو اس قدر پست کر دیا تھا۔ کہ چند
 نفوس نے اندر داخل ہو کر فوجی کارروائی شروع کر دی اور اہل شہر ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہاں
 تک کہ باقی فوج بھی ان کے ہاتھ جا کر ل گئی۔
 اور یہ بھی محاصرہ کی زبردست کامیابی تھی کہ مستوطن طرابلس کی خبریں سہراتہ تک بھی نہ پہنچ
 سکیں۔ اور وہ ایسی بے خبری کے عالم میں دھری گئے کہ شہر تباہ کے سارے دروازے چوپا کھلے
 تھے اور مویشیوں کو چرنے پگنے کے لئے باہر نکالا جا رہا تھا۔

(۶) حفظ فوج

قائد کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی فوج کی پوری پوری حفاظت کرے۔ اس
 وقت بھی حفاظت کرے۔ جب وہ اپنے کیمپ اور اہلی بارگاہوں میں ہو اور اس وقت بھی حفاظت
 رکھے جب وہ میدانِ حرب و منرب میں دشمن کے ساتھ گفتگو کرتا ہو رہی ہو۔

فوج کی حفاظت دو عوامل کے ذریعے ہوتی ہے۔

۱۔ اندھا دھند خطرات میں فوج کو زد و کھیلنا

۲۔ فوجی اسرار کو پوری طرح پوشیدہ اور سرسبز رکھنا

ان دونوں باتوں کی تعلیم مسلمان قائدین کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی۔ اور فرمایا تھا کہ **إِسْتَعِينُوا عَلَى قِتْنَاءِ حَوَائِجِكُمْ بِالنِّكْمَانِ** یعنی اپنے مفاد کے حصول میں مازداری سے مدد لی

*

خود ذات السلاسل میں عمروؓ نے اپنی فوج کو ہزیمت خوردہ دشمن کے تعاقب سے روک دیا تھا۔ توان کے ساتھیوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ تو عمروؓ نے نبی کریم کی جواب طلبی پر جو معافی کیجھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمروؓ فرج ہی سے فوج کی حفاظت کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا۔ **يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دشمن کی سرزمین میں بڑے رہے ہیں۔ اس لئے ہمیں بچھڑنا چاہیے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر ہم دشمن کے تعاقب میں دور نکل جاتے اور اُسے کسی جگہ تازہ امداد میسر آجاتی۔ تو پھر مسلمانوں کو ایسی حالت میں خطروں پیش آجائے گا جبکہ وہ اپنے مرکز امانت سے بہت فاصلے پر ہوتے۔**

*

اسی ذات السلاسل کے دوران عمروؓ نے اپنی فوج کو سخت سردی کے باوجود آگ جلانے سے روک دیا تھا۔ حوران کے ساتھیوں کو ناگوار ہوا۔ اور انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کو درمیان میں ڈال کر گوشعش کی تھی کہ **تَمُوتُوا بِمَا حَكَمَ دَاوُدُ** لے لیں۔ لیکن عمروؓ نے ابو بکرؓ کی بات نہیں مانی تھی۔ اور صاف صاف کہہ دیا تھا۔ **اَلَا كَسَى لِي اَگ جلائی تو یاد رکھئے کہ میں اُسی آگ میں اُسی کو زندہ جلا دوں گا۔** مسلمان خود سے لوٹ کر آئے تو لوگوں نے اس کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ جس کے جواب میں عمروؓ نے عرض کیا کہ۔ **مَجَّهْ اَنْدَ لَيْثَهْ تَحَاكَ اَلْاَرَمُ** نے آگ رو دشمن کی۔ تو دشمن اس کی روشنی میں ہماری قلعہ تعداد کا اندازہ لگالے گا۔ اور اُس کے سولے ہتھ ہوجائیں گے۔ عمروؓ کا یہ حکم بھی حفظِ فوج ہی کی خاطر تھا۔

*

باہیون کے محاصرے کے دوران میں جب عمروؓ کو اس بات کی خبر ملی۔ کہ قیوؤد زبردست

تیاری کے ساتھ اہل قلعہ کی امداد کے لئے روانہ ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے اس میں اپنی فوج کے لئے تمام خطرات کا اندازہ لگا لیا۔ اور ضروری سمجھا کہ دشمن کی پیش قدمی کو راستہ میں ہی روک دینا چاہیے چنانچہ بلا تاخیر روانہ ہو گئے۔ سمند کے قریب دشمن سے جا کر بھڑکنے اور اس کی پیش قدمی کو روک دیا۔

*

اسکندریہ جیسے اہم محاذ پر روانہ ہوئے۔ تو اپنی فوج کے عقب کو محفوظ کرنے کے لئے ایک دستہ بابلون میں چھوڑ گئے۔ جو سراسر حفظ فوج ہی کی ایک تدبیر تھی۔

*

اسکندریہ جانے کے لئے نیل کے مندری کنارے کا انتخاب بھی محفوظ فوج ہی کی پیش نظر کیا گیا تھا۔ اس لئے کہ مشرقی کنارے پر جگہ جگہ ندی تارے راستہ روکتے تھے۔ جن کے عبور کرنے میں عربی گھوڑوں کو دشواری پیش آتی اور وہ راستے ہی میں مضطرب ہوجاتے۔

*

راستے میں اسکندریہ کے قریب قلعہ نیومس کو دیکھا تو اسے بھی اسی لئے تخریب کرنا مناسب جانا کہ اگر وہ آزاد رہا تو مسلمان فوج کے لئے عقب سے خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔

*

اسکندریہ کے دوران محاصرہ میں محاصرہ کی طوالت کا اندازہ لگا کر شیبی مصر کی طرف نقل و حرکت کرنا بھی اسی غرض سے تھا کہ اسکندریہ کے محاصرہ میں اس طرف کے خطرات سے محفوظ ہو جائیں۔

*

پھر جب اسکندریہ سے فراغت ہو گئی تو اس کے بعد رفتہ اور طرابلس کا رخ بھی اسی غرض کے لئے کیا گیا تھا۔ کہ مصر اور افواج مصر مغربی مالک کی طرف سے بھی اہم و محفوظ ہو جائیں۔ جہاں رومیوں کا اقتدار بدستور موجود تھا۔ اور اگر خلیفہ عمرؓ انہیں مزید پیش قدمی سے حکماً نہ روک دیتے تو مدینہ یقیناً شمالی افریقہ میں بھی اپنی فتوحات کو جاری رکھتے۔

*

اس کے بعد نوبوں کے علاقہ کا رخ بھی اسی وجہ سے کیا تھا کہ مصر اور افواج مصر جنوب کے خطرات سے بھی ہمیشہ کے لئے مطمئن ہو جائیں۔

*

حقیقت تو یہ ہے کہ ٹرؤٹ نے مخالفتِ مصر کے جس نظریہ کی اساس پر طرابلس اور سرترین
 ذبحہ کو فتح کیا تھا۔ اسی نظریہ کے ماتحت خود مصر کو بھی فتح کیا تھا۔ اور وہ یہ تھا کہ فلسطین کی فتح
 کے بعد رومیوں کی اکثریت مصر کی طرف منتقل ہو گئی تھی۔ اور اس نے وہاں اپنی طاقت کو مجتمع کرنا
 شروع کر دیا تھا۔ اور اندیشہ تھا کہ وہ مصر میں اپنی طاقت بنا کر فلسطین کی بازیابی کی کوشش
 کریں گے۔ ٹرؤٹ نے خلیفہ کے سامنے یہی موافقت پیش کیا تھا۔ اور عرض کیا تھا۔ کہ فلسطین کا بقا سزا
 مصر کی تسخیر پر موافقت ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے انہیں فتحِ مصر کی اجازت دے کر مصر کی تاریخی فتوحات
 کے لئے روانہ کر دیا تھا۔

(۷) باطنی قوت

جنگ میں کامیابی کے جہاں اور بہت سے عوامل اور مسائل ہیں۔ وہاں ایک نہایت اہم
 باطنی قوت بھی ہے۔ اور غائر نظر سے دیکھا جائے تو مادی ذرائع بھی اس وقت تک کارآمد نہیں ہوتے
 جب تک ان کے استعمال کرنے کے لئے باطنی قوتی تیار نہ ہوں۔

باطنی قوت سے مراد فطرتِ قلبِ بجزات، اقدام، اور فتح و نصرت کا یقین ہے۔ اور ظاہر ہے
 کہ جس فوج کے اندر یہ صفات نہ ہوں گی۔ اس کی کثرتِ تعداد، اس کی سلاح پوشی اور اس کی
 ہمارت فنون کسی کام بھی نہیں آسکتی۔

تاریخ کی درق گردانی سے پتہ چلتا ہے کہ بہت دفعہ کثیر التعداد فوج میدانِ جنگ میں
 آئیں۔ اور شرمناک ہزیمت کھا کر پسپا ہوئیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ — صرف یہ کہ ان میں باطنی
 قوتی کمی تھی۔ — اس کے مقابل میں وہی تاریخ ہمارے سامنے ایسی مثالیں بھی پیش کرتی ہے
 جن میں ملٹی بھر جماعت میدان میں آئی اور عظیم الشان کامیابی حاصل کر گئی۔ اس کی وجہ بھی یہی
 اور صرف یہی تھی کہ اس نے اپنی قلبِ تعداد کو کثرتِ صفاتِ حسنہ سے پورا کر لیا تھا۔

باطنی قوتی سے مراد فوجیوں کی صفات، ان کے اخلاق، ان کا حسنِ اعظم، ان کی بہادری، ان
 اخلاص، ان کی قوتِ برداشت، ان کا اعتماد، اور ان کے قائدین کی قدرتِ قیادت ہے۔ اور ان

۱۔ اس میں ٹرؤٹ نے پہلے باطنی قوت کا مقصد ہی مادی ذرائع لیے۔ حالانکہ وہ ان کے خلاف ہے۔ باطنی قوت سے مراد طہارت و پاکیزگی
 شوقِ شہادت، ایشاد قربانی اور حق و صداقت کے لئے جان کی بازی لگانا دیکھئے کہ میں درمحمد صہبائی تھی (

سب سے بڑھ کر اس نصب العین کے ساتھ عقیدت و وابستگی ہے جس کے حاصل کرنے کے لئے وہ میدان میں اپنی جانیں قربانیوں پر لکھ کر آگئے ہیں۔

گلاز خنز کے نزدیک باطنی قوت سے مراد وہ روح ہے جو جنگ کے حرکات و سکنات پر حاوی اور مستط ہو۔

بعض نے باطنی قوت کی اہمیت کو ان الفاظ کے ساتھ واضح کیا ہے کہ ا۔۔۔ ہر شخص کی کامیابی کا اصلی راز اس کی باطنی قوتوں ہی میں پوشیدہ ہوتا ہے۔

عمرو بن العاص کی کامیابیوں کا راز بھی اُن کی باطنی صفات ہی میں مضمر تھا۔ اور پھر ان کی صفات عالیہ کے عکس نے ان کی فوج کے ایک ایک سپاہی کو بھی صفات عالیہ کا حامل بنا دیا تھا۔ ان کے دل و دماغ کو سکون و سکینت کی بے بہا دولت ملی تھی۔ اُن کے قلب و جگر شجاعت و دلیری اور اقدام و عہدیت کے فولاد بن گئے تھے۔ اُن کے فکر و دماغ میں کوشش و تدبیر کے طاقتور ریلب روشن ہو گئے تھے۔ وہ اگر ایک طرف اپنے دشمن کے لئے محترم تہرہ و جبروت تھے۔ تو دوسری طرف اپنے ساتھیوں کے لئے سزا پناہ رحمت و شفقت بھی تھے۔ اور سب سے بڑی صفت ان میں یہ تھی کہ وہ اپنے نصب العین کی اہمیت و تقدیر میں سب سے زیادہ اثناء اور یقین رکھتے تھے۔ عمرو نے اپنی باطنی قوت کا صحیح تعارف خود اپنے الفاظ میں اُس وقت کیا تھا جب قرہ بن عبیدہ انہیں عولل کے قتلہ ازنداد سے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ جس پر انہوں نے قرہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ا۔۔۔

”کیا تو نے مجھے ازنداد عرب سے ڈرانا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم اُن عولل کو اُن کے ساتھ تجھ کو بھی گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے روڈ ڈالوں گا۔ اور نہیری گردن تک پہنچ کر ہی دم لوں گا۔ خواہ تو اپنی گردن کو جنت کی باتھوں کے گھیسے کیوں نہ چھپا دے۔“

قرہ کو جتنے معرکے بھی پیش آئے۔ اُن سب میں قلت کا مقابلہ کثرت کے ساتھ تھا۔ اور اس کے باوجود انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہی تھی کہ اُن کی باطنی قوتیں نہایت ارفع و عالی اور مضبوط و توانا تھیں۔ اور ان قوتوں کو انہوں نے جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات گرامی سے حاصل کیا تھا۔ اور یہ اصلاً اور نقلاً ہی قوتیں تھیں۔ جن کا مظاہرہ سب سے پہلے میدان بدر میں ہوا تھا۔ جب قریش کی ایک ہزار کی تعداد کو صرف تین سو تیرہ مسلمانوں کی قلت نے فیصلہ کن شکست دی تھی۔

طویل زندگی توبوں کی پرستش اور ان حدود و مشاغل میں گذرتی رہی جو ان کے قریبی ماحول سے وابستہ تھے اور وسعت اختیار کرتے تو زیادہ سے زیادہ جزیرہ عرب کے طول و عرض تک پھیل جاتے تھے۔ یہاں تک کہ اسلام ظاہر ہوا۔ حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد پرستی چھوڑ کر ایمانِ بائبل کی دعوت دی۔ قبائل نے اس دعوت پر لبیک کہا۔ اور ایک ایک کر کے سب ہی اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ اور ایسی تیز دست قوت بن گئے جس کی شوکت و صولت کو لٹکارا نہیں جاسکتا تھا۔

موتوں کو چونکہ دعوتِ اسلام ہی نے ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا تھا۔ اس لئے ان کا کلمہ جامعہ اور ان کا ہدف مقصود آپ سے آپ متعین ہو گیا۔ اور وہ تھا۔ ایمانِ بائبل کی طرف افسانیت کو دعوت دینا اور اس دعوت کو جزیرہ کی حدود سے باہر نکال کر تمام دنیا میں پھیلا دینا۔ یہ نصب العین انفرادی طور پر ایک مسلمان کا اپنا نصب العین بھی تھا۔ اور اجتماعی طور پر سب کا مشترک فوجی نصب العین بھی بن گیا تھا جس کے ساتھ انہیں ایسی دلہانہ محبت اور عقیدت تھی کہ وہ اسے اپنی جان، مال اور اولاد سے بھی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ان کے ایمان کا کوئی جز، اقلب کہا کوئی گوشہ اور روح کی کوئی رمتی ایسی نہیں تھی جو اس کے تسلط سے باہر اور اس کے عشق سے خالی ہو۔ اور وہ اس بات کا یقین رکھتے تھے۔ کہ ہم اسی مقصد کے حاصل کرنے کے لئے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور اسی کے راستے میں جان دینا ہماری حلال موت ہے۔ ہم زندہ رہیں گے تو اسی کے لئے اور سڑیں گے تو اسی کے راستے میں۔

یہاں تک کہ اس کے راستے میں جان دے دینا بجائے خود ایک محبوب شغل اور پسندیدہ مقصد بن چکا تھا اور وہ اس کی خاطر قربان ہو جانے کو شرف کا ایک یقینی ذریعہ تصور کرتے تھے۔ یہ جذبات اور تصورات تھے جو باہم مل کر ان کے اندر ایک ایسی زبردست اور ناقابلِ تسخیر روحانی طاقت پیدا کرتے تھے جو دنیا کے لالچ، سعوت و جہاد کی حرص اور ایسے ہی دوسرے دنیوی مقاصد سے ان کی نیتوں کو دور اور اور اور فوق العتوق لے جاتے تھے۔ اور وہ اعلا کلمۃ اللہ کے سوا ہر مقصد کو اپنی ہمتِ عالیہ کے لئے پسند اور ذلیل سمجھتے تھے۔

*

عمر کی صفتِ اخلاص کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لئے بلا کر فرمایا کہ :-

اے عمر وہیں تمہیں سپہ سالار بنا کر ایک ہجوم پر بھیجتا چاہتا ہوں۔ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے تمہیں سالم و قاتم لوٹائے۔
 تو اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا۔
 ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مال کی رغبت کی وجہ سے اسلام میں داخل نہیں ہوا ہوں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فتنہ معلوم کرنے کے بعد فرمایا۔
 ”یہ ٹھیک ہے.... لیکن مرد صالح کو نال صالح حاصل کرنا ممنوع نہیں ہے۔“

*

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبوتِ قضاہ کی طرف سے جہاد مرتدین میں شریک ہونے کے لئے بلائے ہیں۔ اور ان کے سامنے کچھ دنیوی زندگی کی ترقیات بھی پیش کرتے ہیں۔ تو عمرؓ ان کو بھی جن الفاظ کے ساتھ جواب دیتے ہیں وہ یہ ہیں۔
 ”میں اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کے بعد ان تیروں کے پھینکنے اور اکٹھا کرنے والے ہیں۔ آپ ان میں سے اس کو منتخب فرمالیں جو ان میں سب سے زیادہ محنت ہو دشمن کے سامنے، سب سے زیادہ نرم ہو اللہ کے سامنے اور دوسروں سے بہتر ہو آپ کے نزدیک۔ پھر آپ اُسے ہر اس نشانہ کی طرف پھینکیں جس کی آپ کو اطلاع ملے۔“

*

خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہم نے ان لوگوں کو عمرؓ کی امداد کے لئے مقرر بھیجنے کے واسطے بلائے اور کسی دنیوی منصب کی امید دلائے ہیں۔ تو زبیرؓ بھی عمرؓ کی طرح کابل استخفار پیش کرتے ہیں۔

خلیفہ نے فرمایا تھا کہ..... ”زبیر کیا تم مصر کی گورنری قبول کرنا چاہتے ہو؟“

تو زبیرؓ نے جواب دیا تھا کہ۔

”مجھے گورنری کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں صرف اللہ کے راستے میں جہاد اور مسلمانوں

کی اساد کے لئے جانے کو تیار ہوں۔“

۲۔ اطاعت اور فرمانبرداری | جنگ میں کامیابی کے لئے دوسری اہم شرط فوج کا وفادار اور جذبہ ہمت

ہے۔ اطاعت تو نظم و ضبط اور ڈسپلن کے خوف سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن ایسی اطاعت باطنی قوت کو پختہ کرنے کے بجائے اٹلا کر دہر کرتی ہے۔ اس لئے ہم جس اطاعت کا باطنی قوت کے تحت ذکر کر رہے ہیں اس سے مراد خوف کی اطاعت نہیں ہے بلکہ شوق کی اطاعت ہے۔

جس فوج میں شوق کی اطاعت کا کامل جذبہ ہو گا۔ وہ اپنے قائد کے اشارے پر ہر خطے میں کود جانے کے لئے تیار رہے گی۔

عمرؤ کی ذات میں اطاعت کی صفت بھی اعلیٰ پیمانے پر موجود تھی۔ اور ان کی اس صفت کا اثر فوج پر بھی پوری طرح قائم تھا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرؤ کو ذاتِ اسلامیہ کا حکم دیا تو فوراً اطاعت کی۔ اور تلوار اٹھا کر روانہ ہو گئے۔

حضرت ابو بکرؓ نے جہاد و مزین کی قیادت سونپی تو فوراً تیار ہو گئے۔

پھر شام و فلسطین کی شرکت جہاد کا حکم ہوا تو سر تسلیم خم کر دیا۔ خلیفہ عمرؓ نے مصر اور شمالی افریقہ کا حکم دیا تو کوئی پس و پیش نہ کی۔


یہاں تک کہ جب وہ مسلسل فتوحات کے جوش میں شمالی افریقہ کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ اور جب اسپانک ان کے سیلابِ عزائم کو خلیفہ نے روک دیا۔ تو انہوں نے اپنی فوجوں کو ان کے حکم کے بعد ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا۔

جب خود قائد میں جذبہ اطاعت اس درجہ موجود ہو۔ تو پھر اس کی فوجوں میں یہ جذبہ کیا کچھ کم ہو گا۔ اور یہی حقیقت بھی تھی کہ ان کی فوجیں بھی ان کی داہماتہ فرماں بردار اور ذمہ دار تھیں۔ اور ذاتی مصلحتوں کے جماعتی اور فوجی مصلحتوں پر بلا تردد قربان کر دیتی تھیں۔

خزانتہ السلاسل میں آپ اس کا نمونہ دیکھ چکے ہیں۔ فوج نے بہادری کے یوہر دکھا کر طاقتور دشمن کو ہزیمت دی۔ لہذا اس کا دلی اشتہار یہ تھا کہ بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کر کے اس کا قتل استیصال کر دیا جائے۔ لیکن عمرؤ کی مصلحت اس کے خلاف دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے فوج کو تعاقب سے روک دیا اور وہ قہراً رک گئی۔

اسی معرکہ میں عمرؤ نے فوج کو حکم دیا کہ آگ و دشمن نہ کریں۔ اور فوج نے اس کی بھی بلاچون و چرا تعمیل کی۔ حالانکہ موسم نہایت سرد اور صبر آزمائے تھا۔

غرض عمر و فوج کو جو بھی حکم دیتے تھے۔ وہ بلا تردد اس پر عامل ہو جاتی تھی جس کی مثالیں
 تاریخ عمر و نیکو صفحہ صفحہ پر آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔
 خلاصہ یہ ہے کہ اطاعت اور حکم برداری جنگ کا جوہر اصلی ہے۔ جس کا ایک فوجی کے
 خمیر کے اندر داخل ہو جاتا ضروری ہوتا ہے۔ افواجِ عمر و کے باطنی قوی کو اسی جوہر اطاعت نے
 مضبوط اور فولاد شکن بنا دیا تھا۔
 اور ایک عمر و نیکو ہی پر کیا موقوف ہے۔ عالم انسانیت کے جس میدان میں بھی قائدین تھے کسی
 قسم کی جنگیں لڑی ہیں۔ ان کے اسباب و عوامل میں اس جوہر اطاعت کی کار پندازی سب سے
 بڑھ کر رہی ہے۔



باب سوم

عمر و خلفاء کے ساتھ

- ابو بکر صدیق کے ساتھ
- عمر بن الخطاب کے ساتھ
- عثمان بن عفان کے ساتھ
- علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ

(۱)

خلقیتہ ابو بکر کے ساتھ

”میں تو اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں۔
 اور آپ اللہ تعالیٰ کے بعد ان تیروں کے پھونکنے
 اور جمع کرنے والے ہیں۔ آپ ان میں سے پیسے
 تیر کو منتخب فرمائیں جو دشمن کے سامنے سخت
 اللہ کے سامنے نرم اور آپ کے نزدیک فہل ہو۔
 اس کے بعد آپ کو پورا اختیار ہے۔ کرا سے جس
 تشاد کے لئے چاہیں استعمال فرمائیں.....“

عمر بن خطاب

ابو بکرؓ سے خطاب کرتے ہوئے

عمر بن العاص اور ابو بکرؓ کی پہلی حربی ملاقات غزوہ ذات السلاسل میں ہوئی۔ جب انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد طلب کی تھی۔ جس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا تھا جس میں حضرت ابو بکرؓ شامل تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس جنگ میں عمرؓ کی شخصیت، ان کی بہادری، جنگ، اہلیت، قیادت، بہادری، اسلام، حفظ افواج اور تحفظ مصالح اسلامیہ وغیرہ بلند پایہ صفات کے علاوہ اپنے مقصد صلی کے ساتھ والہانہ شرف کا بہت قریب سے مطالعہ کیا تھا۔ جس سے ان کی شخصیت کا علو اور تفاعل ان پر پوری طرح واضح ہو گیا تھا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمائے اس حال میں کہ عمر بن العاص کی قیادت سے خوش تھے۔ آپ کے بعد خلافت کی ذمہ داری حضرت ابو بکرؓ کے سپرد ہوئی۔ عمرؓ کو ابو بکرؓ پہلے ہی جانچ نول چکے تھے۔ اور ان کی شخصیت کا سراپا ان کے ذہن میں پوری وضاحت کے ساتھ منتقل تھا۔ خلافت کی ابتدا ہی میں جو یہ عرب کو منکرین زکوٰۃ کے زبردست فتنہ سے دوچار ہونا پڑا جس سے مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا اور وہ اپنے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کرنے لگے۔

اس ہزیمت زدہ دور میں خلیفہ حضرت ابو بکرؓ نے نہایت پامردی اور ثبات قدمی کے ساتھ گٹے ہونے والی حالت کا مقابلہ کیا اور صاف صاف اعلان کر دیا کہ: — خدا کی قسم اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا کی جانے والی ایک رستی کو بھی آپ کے بعد ادا کرنے سے انکار کرے گا۔ تو میں اس کے مقابلہ میں تلوار اٹھا لوں گا۔

اس اعلان کے بعد وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے ہر قبیلہ سے آ کر آپ کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اور ان کی مدد سے حضرت ابو بکرؓ نے کجاہلی عیس، زویان، بنو بکر، اندان سے آ کر ملنے والے لوگوں کو شکست دی اور انہیں اہرق سے بلا وطن کیا۔

اس کے ساتھ ہی فتنہ ازہرا نے سر اٹھایا۔ جس کے لئے خلیفہ نے تمام مسلمانوں کو متعہ و (۱۱) جھنڈوں کے نیچے جمع کر دیا۔ ہر جھنڈے کا امیر جدا تھا۔ پھر ان سب کو اس ہدایت کے ساتھ روانہ کر دیا کہ راستہ میں بھی طاقتور مسلمانوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے رہنا۔

ابھی جھنڈا اعلیٰ میں سے ایک جھنڈا عمرو بن العاص کا بھی تھا۔ جنہیں شمالی عرب میں جو قلعہ کی سرکوبی کے لئے بھیجا گیا تھا۔

عمرو نے اپنا فرض منصبی اس حسن و خوبی کے ساتھ پورا کیا کہ خلیفہ ان سے بہت خوش ہوئے اور انہیں ان تمام کاموں میں صحت اعلیٰ کا قائد شمار کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے زیادہ خلافت میں کام لیا تھا۔

ابھی عمرو قلعہ ہی میں تھے کہ خلیفہ نے انہیں مندرجہ ذیل پیغام بھیجا۔

”ابو جہد اللہ اگر تم موجودہ منصب پر قانع ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ ورنہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں موجودہ ذمہ داری سے فارغ کر کے ایسے منصب پر مامور کرنے کے لئے تیار ہوں جو تمہارے لئے دین اور دنیا دونوں لحاظ سے اس کی بہ نسبت بہتر ہو۔“

اس کا جواب عمرو نے یہ دیا کہ۔

”میں تو اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں۔ سچ کے پھینکنے والے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہیں۔ آپ ان میں سے ایسے تیر کو منتخب فرمائیں۔ جو دشمن کے ساتھ سخت، اللہ کے سامنے نرم اور آپ کے نزدیک دوسروں سے بہتر ہو۔ اور پھر آپ کو اختیار ہے کہ اُسے جس نشانہ کے لئے چاہیں استعمال کر لیں۔“

اس کچھ بعد عمرو دوسرے قائدین کے ساتھ فلسطین اور شام کی طرف روانہ کر دیئے گئے جہاں انہیں تیوریک کی فوج سے ہزارہا فوج کا مقابلہ کرنا تھا۔

لے شمالی جزیرہ کی طرف تین جھنڈے روانہ کئے گئے تھے اتنی آٹھ جھنڈے جنوب کی طرف روانہ ہوئے تھے جی کا ذکر ہم متنہم روانہ کئے ذیل میں کر چکے ہیں۔

لے عمرو قلعہ اور تدار کو ختم کرنے کے بعد ہی قلعہ ہی رہے۔

لے رومیوں کی فوج اس طرح تقسیم تھی کہ۔

تیوریک کی فوج (۱۰ ہزار) عمرو کے بالقابل

فیصلیہ غلوس کی فوج (۲۰ ہزار) ابو بیدہ کی صفوں کے سامنے

راقص کی فوج (۱۰ ہزار) شمر جلی کے سامنے

برہہ کی فوج (۱۰ ہزار) یوسفیان کے سامنے

مسلمانوں نے رومیوں کے اس بڑی دل کو جو حد و شمار سے باہر تھا دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے صورت حال کے بارے میں مشورہ طلب کرنے کے لئے ایک قاصد عمرو کی طرف بلا کر دوسرا خلیفہ ابوبکرؓ کی طرف روانہ کیا۔
 عمرو کی رائے تھی کہ مسلمان چھوٹی چھوٹی قیادتوں میں تقسیم ہو کر دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لئے جواب میں لکھا کہ :-

میرا رائے تو یہ ہے کہ اگر مسلمان ایک قیادت کے ماتحت ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں تو پھر اس قلت کے باوجود بھی دشمن کا مقابلہ کر کے اسے شکست دے سکتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح جداگانہ قیادتوں میں بٹے رہے تو پھر اس کا مقابلہ مشکل ہے۔
 دوسری طرف خلیفہ ابوبکرؓ کا جواب بھی عمرو کی رائے کے مطابق یہی آیا کہ :-

”سب اکٹھے ہو کر ایک لشکر ہو جاؤ اور دشمن کے بڑی ذل سے فکرا حلہ تم سب انصار اللہ ہو اس لئے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا تمہارے مقابلہ میں مشرکین اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں، اور اللہ اپنے نافرمانوں کو کامیاب نہیں کریں گے۔ ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تمہارے مقابلہ میں ذلیل و رسوا کریں گے۔ اس لئے تم گناہوں سے اپنے دامنوں کو پاک رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔“
 عمرو کی رائے کے ساتھ نہ صرف خلیفہ ابوبکرؓ رضی اللہ عنہ کی رائے متفق تھی۔ بلکہ خالد بن ولید کی رائے بھی متفق تھی۔ جو عراق سے آ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ اور جب انہوں نے نظموں کی تفریق پر نظر ڈالی تو اس کو پسند نہ کرتے ہوئے اسے ختم کیا اور سب کو ایک ہی قیادت کے ماتحت جمع کر کے فرمایا :-

”تمہارے لئے یہ بات بہتر نہ مناسب نہیں ہے کہ ایسے انتشار اور افتراق کے ساتھ اس قوم سے جنگ کرو جو ایک نظام کے ساتھ مربوط اور متحد ہے۔“
 مسلمانوں کو ایک قیادت کے ماتحت ایک لشکر بنا دینے کے بعد خالد بن ولید نے ان کی دستہ بندی

۱۔ صحابہ فوجیں مختلف جہتوں کے ماتحت بالکل ایک دوسرے سے جدا گانہ تھیں جن کے قائد بھی ایک دوسرے سے الگ تھے اور نشتر لائے جنگ بھی بالکل ایک دوسرے سے جدا۔
 ۲۔ ایک دستہ ایک ہی طرف کا تھا

کر کے مندرجہ ذیل محاذوں کے سپرد کر دیئے۔

قلبی محاذ ابو عبیدہؓ کے لئے، میمنہ اولیٰ انہ، عمروؓ اور شریکین کے لئے، ہمسورہ و بایاں بقیعہ، یزید بن ابی سفیان کے لئے۔

مسلمان ابھی جنگ یرموک کا ابتدائی نقشہ ہی بنا رہے تھے کہ خالد بن ولید کو خلیفہ کی وفات اور حضرت عمروؓ کے تقرر کی اطلاع پہنچی۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے ساتھ ہی وہ سابلطہ بھی ختم ہو گیا۔ جو عمرو بن العاص کو ان کی ذات کے ساتھ حاصل تھا۔ اور یہ سابلطہ وہ تھا جو عمروؓ کی امارت اور ابو بکرؓ کی اطاعت سے شروع ہو کر عمروؓ کی اطاعت اور ابو بکرؓ کی امارت پر ختم ہوا تھا۔

پہر حال جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت عمرو بن العاص سے رضی نئے اسی طرح خلیفہ اولؓ بھی اسی حال میں رخصت ہوئے کہ وہ بھی ان سے خوش تھے۔

حضرت عمرؓ ابن الخطاب کے ساتھ

نہا جو اس زمانہ کا جس میں عمرؓ ابن العاصؓ عمرؓ ابن
 الخطاب کا کارندہ ہے، خدا کی قسم مجھے وہ دن یاد
 ہے، جب خطاب اور اس کا بیٹا عمر دونوں کے سر
 پر ایک ایک کڑی کا گٹھا ہوتا تھا، اور وہ اس سے
 بس اتنی روزی پیدا کر لیتے تھے جو ان کے بہنوں
 کے لئے کھانسی بہتی تھی۔ اور عاص کا یہ مقام تھا کہ پانچ
 کے نزدیک اس تک کو پائے سخاوت سے ٹھکرا دیا
 کرتے تھے۔

عمرؓ ابن العاصؓ
 قاصد عمرؓ بن عبدالمطلب سے

عمر اور عمرو کے تعلقات کی ابتداء غزوہ ذات السلاسل میں اس طرح ہوئی۔ کہ عمر ابن خطاب اس ملک کے ایک سپاہی تھے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو ابن العاص کے لئے بھیجی تھی۔ عمرو نے اس ملاقات میں ان کی تدبیر و سیاست کو قریب سے دیکھا۔ ان کے سامنے ابو عبیدہ اور عمرو کی وہ باہمی کشمکش بھی آئی جس میں عمرو پوری فوج پر اپنی راہداریاں چاہتے تھے اور ابو عبیدہ دو قیادتوں کے حق میں تھے۔ اور انہی کے سامنے عمرو اور فوج کی وہ مخالفت بھی سامنے آئی۔ جو ہر پیمت خوردہ فوج کے نواب اور آگ روشن کرنے کے بارے میں پیش آئی تھی۔ ان تمام واقعات نے حضرت عمرؓ کے سامنے عمرو کی تصویر ایک آزمودہ کار اور پُر اعتماد قائد کی حیثیت سے پیش کی تھی۔ عاص اور عمرو | واقعہ تو یہ ہے کہ عمرو اور عمرو کی یہ ملاقات پہلی ملاقات نہیں تھی۔ بلکہ ان کے تعلقات بہت پہلے اس وقت قائم ہو چکے تھے۔ جب حضرت عمرؓ نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا۔ اور اس وقت عمروؓ بدستور اپنے آبائی دین پر تھے۔ جب قریش کو عمرؓ کے اسلام کا علم ہوا تو سب نے مل کر انہیں تکالیف دینے کا ہتھیار لیا تھا۔ اور عمرؓ قریش کے خون سے اپنے گھر میں سکاڑ کر بیٹھ رہے تھے ایسے اڑسے وقت میں عمروؓ کے والد عاص لے انہیں اپنی پناہ میں لیا تھا۔

سیدنا محمدؐ نے عمرؓ سے پناہ دینے کا قصہ اس طرح بیان کیا ہے کہ — جب میرے والد حضرت عمرؓ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ قریش میں سب سے زیادہ بہتر طریقہ پر بات کو نقل کرنے والا کون ہے؟ جواب ملا — جمیل بن سمرعی۔ اس پر عمروؓ اس کے پاس پہنچے اور فرمایا: جمیل تمہیں معلوم ہے کہ میں اسلام لا کر وہ محمدی میں داخل ہو گیا ہوں؟ اتنا سننا تھا کہ جمیل مدد پھر کر اپنی چادر گھسیٹتا بھائی تیزی کے ساتھ چلا گیا۔ حضرت عمرؓ بھی پیچھے ہولنے وہ مسجدِ حرام کے دروازے پر پہنچا اور بلند آواز سے چلائی: اسے قریش سن لو، خطاب کا بیٹا عمرؓ بھی بدین ہو گیا ہے۔ حضرت عمرؓ فوراً اس کے پیچھے سے اٹھے۔ جھوٹ بکنا ہے۔ میں بدین نہیں ہوا۔ بلکہ اسلام لایا ہوں۔ اور اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں پھر کیا تھا سب ان پر پل پڑے۔ وہ بھی مقابلہ پر ڈٹ گئے۔ دوپہر تک ہمارے اڑتے رہے۔ حضرت عمرؓ اکیلے تھے۔ آخر نکل کر بیٹھ گئے اور سب لوگ انہیں گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمرؓ ان سے کہہ رہے تھے کہ: جو تمہارا بیٹا ہے کہ لو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم تین ساقی بھی ہو گئے تو یا تمہارا دین ختم کر کے چھوڑیں گے یا پھر اپنے دین سے تائب ہو جائیں گے (راتی کے صفحہ پر)۔

حضرت ابو بکرؓ کے وفات پانچ ماہ کے بعد خلافت پر حضرت عمرؓ مقرر ہوئے۔ اس وقت عرب و عجم میں یہ لوگ کی شدید جنگیں مشغول تھیں۔ اور ان کے بعض حصوں کی زیادتی عمرو بن العاص کو رہے تھے۔

حضرت عمرؓ کی خلافت شروع ہونے ہی عمرو اسلامی افواج فلسطین اور شام کے علاقوں میں جنگ کرنے پہلے گئے اور وہاں کے بنی معرکوں کو بھی شروع کیا۔ ان میں دشمن کا ایسا فتح کیا جس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔

بیت المقدس کے بعد اس علاقہ سے خارج ہونے ہی انہوں نے ایک ایسے ملک کی طرف جھانکنا شروع کر دیا جس میں ان کا تاریخ کے چاند ستارے سب سے زیادہ روشن ہونے والے تھے۔ یہ دریائے نیل کی مملکت تھی جس کی زیارت عمرو اس سے پہلے شام کے ساتھ کر چکے تھے اور جس نے ان کے دل و دماغ اور عقل و اعصاب پر پوری طرح قابو پالیا تھا۔

انہوں نے خلیفہ عمرؓ سے اس کے بارے میں مشورہ کیا۔ اور جب انہیں اس طرف مائل نہ دیکھا تو بات کو زیادہ پسند نہ جانے ہوئے ان فرائد کو قدر سے تفصیل کے ساتھ پیش کیا جو مصر کی تعمیر کے بعد عالم اسلام کو ہوتے نظر آتے تھے۔ اور آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ آپ گھبراہٹیں نہیں ہیں اس کے

بھی اس وقت یہ صفحہ صاف و روشن تھا۔ اسی حال میں قریش کا ایک بڑا سردار یعنی چتر اور منکسر کرتے ہوئے روم پر پہنچا اور لوگوں سے پوچھا: یہ کیا بات ہے؟ جواب ملا کہ عمر بدین ہو گیا ہے۔ وہ بولا: پھر کیا ہو گا ایک شخص نے اپنے لئے حیرت کر لیا ہے اب تمہارا کیا مقصد ہے؟ یہاں تم بگھتے ہو کہ مدی بن کعب کی اولاد اپنے آدمی کا یہ حال نہیں دیکھے گی۔ مگر ان لوگوں نے اپنے آدمی کی حاجت میں گوارا نکالی۔ تو پھر سخت فساد برپا ہو گا۔ اور مدی کی سرزمین خون سے بھر جائے گی۔ لہذا اس کا دستہ چھوڑ دو۔

عبداللہؓ مزید کہتے ہیں: کہ عمروؓ کے ماسے گھریں چھپے بیٹھے تھے۔ کہ عاص بن دہلؓ بھی ان کے پاس آئے یہ قبیلہ بنو مہم کے ہیں۔ جو زمانہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ آکر گھر سے باہر: تم کس سال میں بیٹھے ہو؟ تمہارا کوئی کچھ نہیں بنا سکتا۔

عمروؓ یہ سن کر کچھ مطمئن ہو گئے اور عاصؓ اب ہر حال آئے۔ دیکھا کہ لوگ کھڑت اگلے ہو کر چلے جا رہے ہیں۔ عاصؓ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو۔ جواب ملا: ابن خطابؓ کی طرف پرسی کہ جو بدین ہو گیا ہے۔ عاصؓ نے کہا: عمر بدین ہو گیا۔ تو کیا ہوا۔ لو! وہ میں اسے نہا دیتا ہوں۔ یہ سن کر لوگ منتشر ہو گئے۔

لئے آپ سے بہت بڑی فوج نہیں مانگوں گا۔

خلیفہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ تو انہوں نے بھی تسخیر مصر ہی میں باقی مفتوحہ علاقوں کا بچا محسوس کیا۔ اس لئے کہ فلسطین اور شام کے ہزیمت خوردہ رومی مصر میں دوبارہ منظم ہو کر اپنے ملکوں کی بازیابی کے خواب دیکھ سکتے تھے۔ اور اس سے بھی زیادہ فائدہ یہ نظر آیا۔ کہ سرزمین مصر پیداوار کا خرمن ہے۔ اور اس سے بجا طور پر یہ امید کی جاسکتی ہے۔ کہ وہ عالم اسلام کے گزرتے علاقوں کی بھوک بھی رفع کر سکے گا۔

مصر میں | خلیفہ عمر بن الخطاب کے لئے اب عمرو کو اجازت دینے میں کوئی پس و پیش باقی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ اچھی خاصی فوج اور زمینیں انعام جیسے آزمودہ کار فائدہ اُن کے حوالے کیے اور مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ عمرو کی فوجیں حدود مصر میں اتر گئیں۔ کام شروع کر دیا اور لیبو پوسیس اور بالیون کے زبردست معرکوں کے بعد مصر اسکنڈیا کو بھی فتح کر لیا۔

وہ دیکھ کر رومی مصر کے کونے کونے میں عمرو بن العاص کی فوجوں سے شکست کھا کر دولت و رسوائی کے دامن گھسیٹتے ہوئے اپنی آخری طور پر مصر کی حدود سے نکل چکے ہیں۔ سونے کی بیڑیا اُن کے بچل سے اُڑ کر عمرو کے بازوئے شہساز پر جا بیٹھی ہے۔ اور وہ قیامت تک انشا اللہ مسلمانوں ہی کے سر پر اپنا سایہ بھاری ڈالتی رہے گی۔

پرتگہ اور طرابلس میں | مصر کی مخالفت کے لئے مغرب کی طرف پیش قدمی ضروری تھی۔ اس لئے ہاناخیر وہ دونوں علاقے بھی فتح کر لئے گئے۔

اثریقہ کا علاقہ باقی رہ گیا تھا اور عمرو چاہتے تھے کہ ساتھ ساتھ اس کو بھی منادیا جائے۔ اور اس کے لئے انہوں نے خلیفہ عمر سے مزید امداد بھی طلب کر لی تھی۔ لیکن خلیفہ عمر نے اسے جو کہ اسلامی فتوحات کو فلسطین اور شام سے آگے بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ مزید پیش قدمی کی نہ اجازت دی اور نہ اس کے لئے مزید کمک روانہ کی۔ لہذا مولانا چار مصر واپس آکر اپنے جدید دانا نظریہ فسطاط میں فروکش ہو گئے۔

مصر کی اصلاح اور خوش حالی | اب عمرو کے لئے سوائے اس کے کوئی کام نہیں رہ گیا تھا۔ کہ وہ مصر کی اندرونی اصلاح اور ترقی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس کے باشندوں کو پہلے سے زیادہ خوشحال مندین اور جدید انتظامات کا آشنا خواں بنائیں۔ اسلامی عدل و مساوات کے مظاہروں سے ان کے دلوں کو مطمئن کریں۔ اقصان کو ہر قسم کی مذہبی دشمنی سے آزاد کر کے ان کے دل و دماغ سے اس دور استبداد کی تلخی کو محو کریں جسے وہ رومیوں کی غلامی میں برداشت کرنے پہلے آ رہے تھے۔

مصر نے مصر پر نہایت نرم مزاجی اور اعتدال کے ساتھ حکومت کی۔ ہر علاقہ کے مقامی شرفدار اور پودھروں کو حکومت میں حصہ دار بنایا۔ اور تمام انتظامی معاملات انہی کے مشوروں سے انجام دیتے۔ ان کا حکم کا یہاں ہے۔

دیہات کے شہر دار اور مکیہ اس بات کے پابند تھے کہ ہر سال جمع ہوں۔ اور اپنے اپنے علاقہ کے زرعی حالات کو سامنے رکھ کر خود ہی سرکاری واجہات کا اندازہ پیش کر دیں جس کے مطابق وصولی عمل میں لائی جائے۔

وصولی کے اس طریقہ سے اگر کبھی منقرہ مقدار سے زیادہ خرچ حاصل ہوتا۔ تو اسے بھی اسی علاقہ کے رفاہ عام کے کاموں پر صرف کر دیا جاتا تھا۔

عثمان نے اہل مصر کے ٹیکسوں کا بوجھ اتنا ہلکا کر دیا تھا کہ کچھ والے یہاں تک کہتے ہیں کہ پورے اہل مصر سے صرف بارہ ہزار دینار وصول ہوتے تھے۔ اور بقول عرب مورخین یہ مقدار اس مقدار سے بہت ہی کم تھی۔ جو مسلمانوں سے پہلے متوقس اہل مصر سے وصول کرتا تھا۔ اور جو بیس ہزار دینار تھی۔ اور اس کے علاوہ جن قسم قسم کے ظالمانہ انفرادی اور شخصی ٹیکسوں سے وہ یہاں نے اہل مصر کی کمر توڑ رکھی تھی۔ اس کے علاوہ تھے۔ عثمان نے ان سب کو ختم کر کے مد مقرر کر دی۔ کہ کئی کس دو دینار سالانہ سے زیادہ کسی شخص سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ اور نابالغ بچوں، بیچند و بڑھوں، عورتوں، اعمیوں اور مسکینوں سے یہ بھی نہیں لیا جائے گا۔

عثمان نے بطریق نیما میں کو خاص طور پر اپنا مشیر بنا لیا تھا۔ اور اس نے بہت سے عظیم مشورے پیش کیے مثلاً۔

۱۔ خرچ اس وقت وصول کیا جائے جب لوگ پیداوار نیا کر چکیں۔

۲۔ پانی کے نالے ہر سال کھدو کر صاف کرانے چایا کریں۔

۳۔ ہنر کے پلوں کی مرمت اور ان کے نشگانوں کی درستی بروقت کرائی جائے۔

۴۔ رعایا کے کاموں کی انجام دہی کے لئے بے رحم مال بھی متقونہ کیئے جائیں۔

اس بارے میں دو آدمیوں کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ عثمان بن العاص نے ولایت مصر کے ابتدائی دور میں اعتدال سے بھی زیادہ نرمی سے کام لیا جس سے ان کا مقصد اہل مصر کو مانوس کرنا تھا۔ لیکن خلیفہ عمر نے جو یہ خرچ کے بارے میں نرمی کو پسند نہیں کیا، اور آخر کار اسی شیخ کے بھانجرات خلیفہ اہل فاطمہ کے تعلق سے پر کشیدگی کے بادل بن کر چھا گئے۔

مصر کا تعارف | اس کشیدگی کی ابجد عمر وں کی اس تحریر سے شروع ہوئی جو انہوں نے طیفہ عمر وں کو ان کے اُس خط کے جواب میں بھیجی تھی جس میں حضرت عمر وں نے مصر کا تعارف طلب کیا تھا۔
عمر وں نے لکھا۔

”امیرالمؤمنین اخطال اشد عمر وں کا خط و مول بود جس میں انہوں نے مصر کا تعارف طلب فرمایا ہے۔۔۔ امیرالمؤمنین کو معلوم ہو کہ مصر ایک زرخیز قریب اور سرسبز درخت ہے۔ جس کا طول ایک ماہ اور عرض دس دن ہے۔ سرسبز رنگ کے پہاڑوں اور بھورے رنگ کے رگستانوں کی آغوش میں پڑا ہے۔ عین وسط میں اس کی بعدل کشی دریائے نیل کرتا ہے جس کے قطرات خوش تسمنی کے حامل اور سفر و سیاحت کی برکتوں سے پُر ہیں۔ اس کی رفتار اور تند و قامت چاند سورج کی طرح گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ اور اس کے درجہ حرارت بھی بوقت ہے۔ اُس پر ایک دور ایسا آگے ہے۔ جب وہ اپنی موج میں آکر دوہنے والوں کی لوکیں ہی نہیں بلکہ حوض کے حوض بھر دیتا ہے۔ جوش و خروش اور وجد میں آکر اپنے آپ سے بھی باہر نکل جاتا ہے۔ اور زمین اور پہاڑوں کے چٹنے اس کو عالم وجد میں شایاش دے کر زیادہ سے زیادہ مست کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس مستی کے عالم میں اُس کا جوش و خروش تکلیل دید ہوتا ہے۔ اس زمانہ میں اُس پاس کے ساحلی دیہات ایک دوسرے سے بالکل کٹ جاتے ہیں۔ اور ملکی کشتیوں کے بغیر اُن تک آمد و رفت ممکن ہی نہیں رہتی۔ اس طرح اپنی طبعیاتی کا کمال دکھا لیتا ہے۔ تو پھر خود

۱۔ آسانی کے ساتھ اگانے والا

۲۔ بہتر تیل اور شاخوں والا

۳۔ یعنی پیدل پٹھہ والا اُسے طوفا ایک ماہ میں اور مرقا اُس دن میں طے کر سکتا ہے

۴۔ اس کا ساحل ایسے پہاڑ کرتے ہیں جو سیاہی مائل ہیں

۵۔ ایسا رنگ جو صیدی اسرخ اور زندی سے مخلط ہو۔

۶۔ پسندیدہ حکومت والا

۷۔ یعنی اُس کے بڑھنے اور گھٹنے کے امکات عمروں میں

۸۔ یعنی پانی کی زیادتی

ہی کو رو پڑتا اور اگلے پاؤں دو لپیں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ اپنی سابق حالت کی طرف عموماً گرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کے دل ملک خراب ہوتے اور اور دل شکستہ حالت میں اپنے گھروں سے نکلے نہیں۔ زمینوں کے پیٹ چاک کرتے اور ان میں امیدوں کے بیج ڈالتے ہیں۔ اور اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں۔ کہ وہ ان کو بالیدگی اور نشوونما عطا کرے۔ جب ان کی دعائیں زمین کے اندر سے برآمد ہو کر کھیتوں کی شکل میں لہلہاتے اور دیکھنے والوں کے سامنے نظارے پیش کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ تو پھر انہیں معمولی ٹینم یا بارش ہی کافی ہو جاتی ہے۔

یہ ہے اسے امیر المؤمنین آپ کا مصرحیہ سفید موتی کہہ لیجئے تب بھی درست ہے۔ اور سیاہ عقیقہ، سبز زمرد اور نقشبیں دریاچ کہہ لیجئے۔ سب کچھ درست ہے۔ اشد برکت کرے ان کی خشکی اور تری میں رتتی دے اس کے باشندوں اور بھنے والوں کو۔ یہ قرار کرے اس کے اہلی موالی کو۔ اور توفیق دے اس بات کی کہ ان کے کتروں کی شکایات بہتروں کے خلاف مٹنی جائیں۔ ان کا خرچ قبل از وقت وصول کر کے انہیں پریشان نہ کیا جائے۔ وصولیات کی ایک تہائی رقم ان کے پلوں اور مالوں پر خرچ کی جائے۔

اگر اس کے حکام و عمال نے اس نقشہ پر کام کیا تو وہ دن دور نہیں جب اس کی پیداوار کے ساتھ وصولیات میں بھی دگنا اضافہ ہوگا۔ اول و آخر کی سب توفیق

لے یعنی زمین میں جذب ہونا ہے

لے اسی تیزی کے ساتھ کم ہونا ہے جس تیزی کے ساتھ بڑھا تھا۔ اس وقت میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ جیسے شرہ میں تیزی کے ساتھ بڑھا اور شدت کے ساتھ بلند ہوا تھا۔

لے ایک حد تک ہی ہے کہ اس وقت قوم نکلتی ہے کہ نیا نیا لوگوں میں کھیتاں لگے۔

لے ایک حد تک ہی یہ الفاظ ہیں۔ یہاں تک کہ جب نمایاں ہو جائے اور بلند ہو جائے۔

لے ایک حد تک ہی ہے کہ وہ اپنی فضا میں بچنے سے حاصل کرتی ہے۔ اس وقت اس کے دو بچے ہائے دور دور

حاصل کرتے ہیں۔ اس کی کھیتاں کم ہوتی ہیں یعنی اس کے محصولات بڑھانے میں

لے ایک حد تک ہی ہے کہ آج تک وہ مہرنگ کا زبردی ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔

مسلم مؤرخین نے لکھا ہے کہ۔۔۔ حضرت عمرؓ نے کہا میں عمرؓ کا خط پہنچا تو پڑھنے کے بعد فرمایا۔۔۔
 "ابن عباس! اللہ تمہیں خوش رکھے تم نے تو مصر کا ایسا تماروت کرا دیا۔ جیسے میری
 ہاتھوں کے سامنے آ گیا ہو؟"

خراج کا قضیہ | خلیفہ عمرؓ کے دل میں عمرؓ بن العاص کی طرف سے بدگمانیاں شروع ہو گئیں۔
 ان بدگمانیوں کا پس منظر یہ تھا کہ عمرؓ نے خراج کی مقدار ایک کروڑ بیس لاکھ دینار وصول کی۔
 خدا تعالیٰ کہ مقوقس دو کروڑ دینار وصول کرتا تھا۔ اور اس بارے میں دوزوں کے درمیان مراسلات جاری
 رہے۔۔۔ سے پتہ چلتا ہے کہ غلط فہمی کس حد تک بڑھ چکی تھی۔

ایک مرتبہ خراج پہنچنے میں دیر لگ گئی خلیفہ عمرؓ نے مندرجہ ذیل خط لکھا۔۔۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اللہ کے نام سے میرا زمین میں خطاب کی طرف سے عمرؓ بن

العاص کے نام۔ السلام علیکم

ابا بعد! میں تمہارے بڑا ناز پر فکر مند ہوں۔ تمہاری سر زمین وسیع بھی ہے۔ اور
 رفیع المرتبہ بھی! شندے بھی وہاں کے کثیر، التعداد، مضبوط اور طاقتور تھے۔ فراخ مصر
 نافرمان اور کافر تھے، انہوں نے مصر کی زمین پر توپوری توجہ دے کر اُسے آباد کر رکھا
 تھا۔ اب مجھے ایسی زمین کے خراج کی ایسی سست اور کم وصولی پر بہت تعجب ہوا
 ہے۔ کہ جو وہ خراج سابق حکومتوں کے خراج سے نصف بھی نہیں ہے۔ اور ان سالوں
 میں وصول ہو رہا ہے۔ جن میں قحط اور خشک سالی کا بھی کوئی خطرہ پیش نہیں آیا۔
 اس بارے میں میں تمہارے متعدد خطوط بھی ارسال کر چکا ہوں۔ اور امید کرتا رہا ہوں
 کہ کبھی تو غفلت سے بیدار ہو گے۔ اور کاشت چھانٹ کے بیرو پر اپورا خراج روانہ
 کر دے گے۔ لیکن تم ہو کہ برا بر صد ہائے لنگ پیش کر کے اپنی جگہ مطمئن ہو جاتے ہو۔ تمہارے
 عذرات میرے نزدیک حد مست نہیں۔ میں کسی سال میں بھی اس سے کم خراج قبول
 کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ جو تم سے پہلے کی حکومتیں وصول کرتی تھیں۔ میری سمجھ
 میں نہیں آتا۔ کہ تمہیں میرے خطوط پڑھ کر انقباض کیوں ہو جاتا ہے۔ اگر تم کافی بددعا
 کرتے رہنے کے بعد بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہو تو تمہارے طریقے تاراج جان جونی
 چاہتے۔ اور عذر واقعی لامحالہ قبولیت حاصل کر کے رہتا ہے۔ اور اگر تم خراج کی رقم

برباد اور خورد برد کر رہے ہو۔ تو پھر معاملہ تمہاری خواہشات کا تابع نہیں رہے گا۔ میں نے گزشتہ سال تمہاری جانچ پڑتال صرف اس لئے نہیں کی۔ کہ تم آئندہ سال ہوشیار ہو جاؤ گے اور خرارج کو مطلوبہ سطح پر لے آؤ گے۔ لیکن میں جانتا ہوں۔ کہ تمہارے بد نیت اعمال تمہیں کبھی ایسا نہ کرنے دیں گے۔ کیونکہ وہ خیانت کرتے ہیں اور تمہاری پناہ لے کر کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھ لو کہ میرے پاس اس کا بھی شافی علاج موجود ہے

ابو عبد اللہ! گھبراؤ نہیں تم سے حق وصول کیا جائے گا اور تمہیں دنیا پرٹے گا۔ کیونکہ دریا موتیوں کو اپنی تہ میں زیادہ عرصہ تک پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ حق جو کچھ بھی ہے وہ پوری طرح واضح ہے۔ بات کھل کر سامنے آچکی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ کچھ پوشیدہ رہ گیا ہے۔ والسلام

خلیفہ رضی اللہ عنہ کے طرز خطاب نے عمر کو غضب ناک کر دیا۔ اور انہوں نے اپنے اور اپنے مٹل پر لگائے جانے والے الزامات کو دہرہ کرتے کے لئے مندرجہ ذیل جواب بھیجا:۔

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اللہ کے بندے امیر المؤمنین کی خدمت میں عمرو بن العاص کی طرف سے حمد باری اور سلام مستنون کے بعد۔ امیر المؤمنین کا خط موصول ہوا جس میں ہاشم خراج کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے قراۃً سابقہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس بات پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے۔ کہ اسلامی دور کا خرارج ان کے خرارج سے کم کیوں ہے۔ امیر المؤمنین اس کی وجہ صرف یہ ہے۔ کہ ان کے زمانے میں زمین زیادہ آباد تھی۔ لہذا یہ ان کی کافرانہ اور دنیا پرست زندگی ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ زمین پر اپنی پوری نوبت صرف کرتے تھے بخلاف مسلمانوں کے۔ آپ نے جو کہا ہے۔ کہ نہر موجود ہے گردو وہ نہیں دیتی۔ سو عرض ہے کہ جتنا دودھ وہ دے سکتی تھی۔ میں نے اس کا آخری قطرہ تک نکال لیا ہے۔“

۱۱۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اس رسالہ کی تاریخ تقریباً ۱۱ھ ہے۔ فتح العرب ۱۱ھ

۱۲۔ ابن عربین عربوں دستا کا بیان ہے کہ فرعونی دور میں مصر کا خرارج نو کروڑ لاکھ دیکھا تھا۔ اسی واقعہ کا بیان ہے۔

شہریزی کے بیان کے مطابق نو کروڑ دس لاکھ تھا

ابن عربین کا بیان ہے کہ اس زمانہ کا دنیا اسلامی زمانہ کے دینار سے تین گنا زیادہ قیمت کا تھا۔

آپ کا نہایت تہدید آمیز خط ملا جس میں آپ نے بہت سخت الفاظ میں مجھ پر تنقید کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پس منظر کوئی ایسا جذبہ ہے جسے آپ ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔ اور اسی لئے آپ نے مجھے ایسی باتیں لکھی ہیں جو میرے لئے مدد و رجوع دل شکنی کا باعث ہیں۔ حالانکہ آپ کے شایان شان یہ بات تھی کہ آپ مسجودہ فیصلہ کن اور پرمغز باتیں کرتے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ السلام کے ہدیوں کے بعد میں بھی عامل سہے ہیں۔ اور جو اللہ امانت داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے اور اپنے پیشواؤں کے حقوق کی حفاظت کرتے چلے آئے ہیں۔ اور اس کے سوا کوئی دوسرا کام ہم نے کسی زمانہ میں نہیں کیا۔ اور اس کی تصدیق آپ خود بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کے ذمہ داروں سے مجھے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ بالخصوص آپ کے اس معاملہ کے بعد جس میں آپ نے نہ اپنے بھائی کا آبرو باقی رکھی ہے اور نہ اس کا لحاظ ہی کیا ہے۔

اے ابن خطاب اللہ کی قسم جب سے میری طرف الزامات منسوب کیئے گئے ہیں، خود اپنے نفس پر شدید غضب ناک ہو رہا ہوں۔ حالانکہ وہ ان سب الزامات سے پاک اور صاف ہے جن کا تعلق اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ میرے ذمہ براہ راست جن لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہے وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اور حالات یہ ہیں کہ اگر میں تیرے کے یہودیوں جیسا بھی سخت گیر ہو جاؤں تب بھی اس مقدار پر زیادتی نہ کر سکوں گا۔

اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے دونوں کے گناہ معاف فرمائے۔

کچھ باتیں میرے علم میں ایسی بھی تھیں جنہیں لکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ حالانکہ

ظلم بے اختیار ان کی طرف پھسلا جا رہا تھا۔ لیکن آپ کا مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت

بڑا بنایا ہے۔ اور میں اسے کسی حال میں بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ والسلام۔

اس خط و کتابت کے بعد بھی خراج کی آہن دور نہ ہوئی۔ اور فریقین کے مابین براہ کشفیدگی

برپا رہی۔ تمہاری اور زید کی مراسلات اس کے بعد بھی آتے جاتے رہے۔ اس سلسلہ کا آخری

خط جو خلیفہ کی طرف سے عمرو کے نام آیا وہ مندرجہ ذیل تھا۔

”عمر بن الخطاب، کی طرف سے عمرو بن العاص کے نام، السلام علیک۔ حمدی اور تعالیٰ۔“

کے پورے..... سخت افسوس ہے کہ میں تمہارے پاس متعدد خطوط تاخیر خراج کے بارے میں لکھ چکا ہوں۔ لیکن تم ہو کہ ان سب کو گول کر جاتے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ کہ میں تم سے صرف اسی حال میں راضی ہو سکتا ہوں جب تم اپنے معاملات کو صاف رکھو۔ میں نے تمہیں مصر اس لئے نہیں بھیجا تھا کہ اُسے تمہارے نفس اور تمہاری قوم کے لئے قعر بنا دوں۔ بلکہ اس لئے روانہ کیا تھا کہ مجھے تمہاری ذات سے امید تھی کہ اپنی قابلیت اور حسن تدبیر سے پورا پورا خراج وصول کرو گے۔ دیکھو میرا یہ خط لکھتے ہی فوراً خراج روانہ کر دو۔ اس لئے کہ وہ عام مسلمانوں کا حق ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ میرے پاس ان لوگوں کی کتنی تعداد ہے جن کا انحصار اسی آمدنی پر ہے۔ والسلام۔

عمر بن العاص نے اس کا یہ جواب دیا۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن خطاب کی خدمت میں عمرو بن عاص کی طرف سے۔ وما بعد۔ امیر المومنین کا خط وصول ہوا۔ جس میں آپ نے تاخیر خراج کی شکایت کرتے ہوئے گمان ظاہر کیا ہے۔ کہ میں حق کے راستے سے منحرف ہو گیا ہوں اور میں قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ کہ آپ نے جس مفاد کا ذکر کیا ہے۔ اس سے مجھے قطعاً انکار نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زمینداروں نے مجھ سے غلہ کی تیاری تک بہلت مانگ رکھی ہے۔ اور میں انہیں بہلت دے چکا ہوں۔ اب ان کے ساتھ نرمی ہی مناسب ہے۔ سختی کی جلتے گی۔ زچہ وہ اپنی اصلی ضروریات فروخت کر کے خراج ادا کرنے پر مجبور ہوں گے۔ جو کسی طرح بھی تو بین اخلاق و انصاف نہیں ہے۔“

لیکن خلیفہ عمرؓ کی ہدگانی اس کے بعد بھی دور نہ ہوئی۔ اور انہوں نے عمرؓ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ راشد بن مہر میں سے کسی آدمی کو میرے پاس روانہ کر دو۔ چنانچہ عمرؓ نے ایک قبیلے کو بھیج دیا۔ خلیفہ نے اس سے خراج کے ساتھ حالات دریافت کیے، تو اس قبیلے نے مندرجہ ذیل جواب دیا۔

”اے امیر المومنین تیاری اور آبادی کے بشیر کبھی خراج وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن آپ کے حکم ایسے ہیں کہ تیاری و تیاری کی کچھ پیدا نہیں کرتے۔ اور جو چیز ان کے سامنے آجاتی ہے اسی کو ہتھیالیتے ہیں۔ اور اسی سختی سے وصول کرتے ہیں۔“

کہ گویا آج کے بعد انہیں پھر کبھی ہم سے کوئی واسطہ ہی نہ پڑے گا۔
 تالیف ثمرینہ کے تقسیم خراج کے طریقہ سے بھی تم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور اس سلسلہ میں لکھا کہ۔
 ”..... اقبال۔ میرے رجسٹر میں جن آدمیوں کا اندراج ہے۔ ان کے لئے بھی ان کے علاوہ وہ لوگ جو دینہ سے آکر ہمارے کام میں شریک ہوں۔ یا وہ جو تمہارے پاس آئیں یا دوسرے شہروں میں موجود ہوں۔ ان سب کے لئے میں نے مخالفت منکر کر دی ہے۔ تم بھی اس بات کا خیال رکھو کہ جس شخص کا میں نے وظیفہ مقرر کر دیا ہے اور وہ تمہارے پاس آجائے تو تم اسے اور اس کے بچوں کو مقررہ وظیفہ ادا کر دینا۔ اور جن کا وظیفہ ابھی تک میری طرف سے مقرر نہیں ہو سکا اور وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں۔ تو تم میرے مقرر کردہ میعاد کے مطابق ان کا وظیفہ خود مقرر کر دینا میں نے خود تمہارا جو وظیفہ مقرر کیا ہے۔ وہ دوسرے سب تائیدین سے زیادہ دو صد دینار ہے۔ تم مسلمانوں کے عادل ہو۔ اور تمہاری ضروریات کی وسعت کا مجھے اچھی طرح علم ہے۔ اس لئے میں نے کافی وظیفہ مقرر کیا ہے۔ اب تمہیں چاہیے۔ کہ خراج کی مقدار بڑھانے کی کوشش کرو۔ اور اس میں سے اپنا مقرر شدہ حق وصول کر کے باقی ماندہ میں سے مسلمانوں کے مخالفت اور ضروری اخراجات نکال لو۔ اس کے بعد جو بچ جائے اسے میرے پاس بھیج دو۔ اور یہ بھی واضح رہے۔ کہ سزویں مصر چونکہ زمین صلح ہے۔ اس لئے اس پر ٹیکس واجب نہیں ہے۔ بلکہ اس کی پیداوار مسلمانوں کے لئے ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے ان مسلمانوں کے حقوق ادا کرو جو سزا پر پڑے ہوئے ہیں۔ اور جنہوں نے سب مسلمانوں کو حفاظت کی ذمہ داریوں سے مستثنیٰ کر رکھا ہے۔ اس لئے ان کی خدمات کا پورا پورا اہتمام نہیں لانا چاہیے۔ ان کے پھستان کے بعد جو کچھ بچے اس کی تقسیم کتاب اللہ کے مصارف میں کرو۔ غرض اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے اصحاب کو یقیناً دیکھ رہا ہے تمہاری حفاظت میں اہل ذمہ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وفاقے عہد کی خاص طور پر عہد فرمائی ہے۔ اور اس وصیت میں قبیلوں کا ذکر صراحت کے ساتھ کیا ہے

اور فرمایا ہے کہ: **اِنَّهُ صَوَّبَ بِهَا الْقَبِيضَ كَانَ كَهَيِّهِ فَوَيْلٌ لِّمَنْ رَاحَتْ رِجْلَيْهِ** کے بارے میں نصیحت قبول کرو۔ اس لئے کہ وہ ذی بھی ہیں اور قرابت دار بھی (قرابت داری یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی والدہ اُن ہی میں سے تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ **مَنْ ظَلَمَ مَعَاهِدًا لَوْ كَانَ فَوْقَ سَمَائِكُمْ فَانْتَهَمْنَا مِنْكُمْ** یہوہر الحقیقۃ یعنی جس شخص نے کسی معاہدہ ذمی پر ظلم کیا یا طائف سے زیادہ بارہم ڈالا تو میں اس کی طرف سے قیامت کے دن جھگڑا کروں گا۔ اسے مگر اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہو کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریبی مخالف نہیں جائیں۔

اسے مگر خدا کی قسم اس امت کی ذمہ داری مجھ پر بہت گراں ہے۔ اور میں اپنے آپ میں تقاہر محسوس کرتا ہوں۔ میری بیعت منتشر ہے اور میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس حال میں اٹھائے کہ میں کسی پر زبردستی کرنے والا نہ ہوں۔ خدا کی قسم میں ڈرتا ہوں کہ اگر تمہاری سختی سے ایک بوط بھی ضائع ہو گیا تو اس کی بازپس بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے کرے گا۔
 خلیفہ عمرؓ نے محض تین بات ہی پر اکتفا نہیں کی۔ بلکہ اُن کے خلاف علمی قدم اٹھاتے ہوئے اُن کے ال کو تقسیم بھی کر دیا۔
 بلاذری کا بیان ہے کہ:-

”خلیفہ عمرؓ کا معمول تھا کہ جب کسی شخص کو کہیں عامل بنا کر بھیجتے۔ تو ان کی موجودہ حالت کی تہرست تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ پھر اگر وہ اس علاقہ میں اتنا دیکھتے تو اس میں سے بھی نصف نصف لے لیتے اور بھی سارا اصفاف لے لیتے تھے۔ چنانچہ اسی عادت کے مطابق انہوں نے **بُرْکَا** کو لکھ دیا کہ:-
 ”تمہارے سارا اصفاف غلاموں، برتنوں اور جانوروں میں غیر معمولی اصفاف ہو گیا ہے تمہارا یہ سارا اصفاف اپنے سے پہلے نہیں تھا۔“

۱۴ بلاذری ص ۴۴

۱۵ پھر انہیں فاروق اعظم کا معمول تھا کہ جب کسی عامل کو کسی جگہ مقرر کر کے بھیجتے تھے۔ تو اس جگہ کے وہاں متنبیوں کو لکھ دیا کہ سفر پورا

اس کے جواب میں عمرو نے لکھا کہ ہماری سرزنی تجارت اور ذرا صفت کا مرکز ہے۔ اللہ ہم انہی فدائخ سے مزید دولت پیدا کر لیتے ہیں۔
 خلیفہ عمرو نے اس پر لکھا کہ:-

”مجھے بڑے عمال کے بارے میں کافی اطلاعات ملی چکی ہیں۔ اور تمہارا مسئلہ ایسے شخص کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے جسے حق کی گرفت نے بوکھلا دیا ہو۔ اس لئے مجھے تمہارے بارے میں شک ہو گیا ہے۔ اور میں محمد بن مسلمہ کو تمہارا مال تقسیم کرنے کے لئے بھیج رہا ہوں۔ انہیں پوری اطلاعات ہمہ تن تجاورد اور جس جس چیز کا وہ مطالبہ کریں، بلا تردد پیش کر دو۔ اور اگر وہ سختی سے پیش آئیں تو انہیں معذور سمجھو۔ اس لئے کہ اب پردہ فاش ہو چکا ہے۔“

عمرو نے خلیفہ کے نشانہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی۔ ابھی مسلمہ نے مال تقسیم کر لیا۔ نیرنگ سخت گیری کی کوئی نوبت نہیں آنے دی۔ لیکن خلیفہ رزم کے اس برتاؤ سے عمرو کو بے حد صدمہ ہوا اور اسی صدمہ میں انہوں نے محمد بن مسلمہ سے کہا:-

”یہ گھڑی بڑی ہی منحوس گھڑی ہے۔ جس میں اپنی عنترہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ میرے والد عاص کوئی گڑبے آدمی نہیں تھے۔ ان کا لباس خنز اور دیباچ سے کم درجہ کا نہیں ہوتا تھا۔“

بنیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ بکر کے اُسے بتا دیتے تھے کہ تمہیں اُس علاقہ سے اس قدر رقم وصول کرنی ہے۔ اگر کوئی مال اس مقدار سے زیادہ وصول کرتا تو بھی زائد مقدار تمام کی تمام لے لیتے اور کبھی تقسیم کر لیتے تھے۔ حضرت عمرو نے تمام میں خالد بن ولید کے پاس ایک عا سب بھیج کر حکم دیا تھا کہ وہ اپنے نعت مال سے دست بردار ہو جائیں۔ یعنی حوالہ جات میں لکھا ہے کہ خالد کے عاصب میں اتنی سخت گیری سے کام لیا گیا تھا کہ ان کے جوتے تک کو تقسیم کر کے ایک پھل دان کو دے دیا گیا تھا اور دوسرا پھل ضبط کر لیا گیا تھا۔ حضرت عمرو اپنے حال سے فریاد کرتے تھے کہ: ”ہم نے نہیں دلی بنا کر بھیجا ہے ماجر بنا کر نہیں بھیجا۔“

حضرت عمرو کی اپنے حال کے ساتھ اس سخت گیری کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ان کے وقار اور حکومت کو ضعیف پہنچایا جائے۔ اس لئے کہ حال اور دالی اپنے اپنے علاقہ کے مطلق امتنان قرار دیا تھے اور خود حضرت عمرو بھیہ اختیارا کے ملک تھے۔ لیکن یہ سب اس شرط کے ساتھ تھا کہ عدل و انصاف سے کام کریں۔

محمد نے اس کا جواب یہ دیا کہ۔

”پہنچ گیا کہ رہے ہو ہوش کرو۔ اگر ابنِ حنفیہ کا زمانہ نہ ہوتا تو تمہاری یوزنیں اس سے آگے نہ بڑھ سکتی کہ گھر کے صحن میں ایک بکری باندھ لیتے۔ وہ دودھ دیتی تو تم رشتے لگتے۔ اور وہ روٹی تو تم بھی اس کے ساتھ لے کر رہنے لگتے۔“

اس پر عمروؓ ایسے۔

”مجھ میں تمہیں قسم و سکر کہتا ہوں کہ میری بات خلیفہ عمرؓ سے نہ کہنا۔ اس لئے کہ

محاسن میں امانت داری ضروری ہے۔“

محمد نے مسطہج کر دیا کہ جب تک عمروؓ زندہ ہیں اس وقت تک میں یہ گفتگو کسی کے سامنے بھی نقل

نہیں کروں گا

عمر بن الخطابؓ حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت تک مصر کی گورنری بہ نفاذ اور عدل و انصاف کی بنا پر قبطیوں کے محبوب بنے رہے۔ اندرونِ ملک بہت سی اصلاحات جاری کیں۔ پیاسی نظم و نسق قائم کیا۔ جنگ جمل کی اندازہ گاہیں تعمیر کیں۔ حوض بنائے۔ بیل تعمیر کئے۔ غرض اہل مصر کے ہر گونہ مفادات کو خود اپنا نصب العین سمجھ کر پورا کیا۔ اور ان کارکنانوں کی احسان مندی میں اہل مصر بھی پوری طرح اُن کے مطیع اور گرویدہ رہے۔

خلیفہ حضرت عمرؓ اپنے آخری دور میں عمروؓ سے انتہائی طور پر بدظن ہو گئے تھے۔ اور ایسے کئی اقدام کر گئے تھے۔ جن سے اُن کے مصری ذقار کو صدمہ پہنچے۔ جن میں سب سے زیادہ خطرناک اقدام یہ تھا کہ انہوں نے عمروؓ کے منوازی بالائی مصر اور اقلیمِ قیوم کا حاکم اور محققِ خراج عبد اللہ بن ابی سرح کو بنا دیا تھا۔

بالآخر خلیفہ دوم حضرت عمرؓ ذی الحجہ ۳۳ھ کے آخری دنوں میں شہید کر دیئے گئے۔ اُن کی شہادت کے ساتھ عمروؓ اور عمروؓ کے باہمی اختلافات کا بھی ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا۔



حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ

تقریباً اسی اللہ کے لئے جس نے ہمیں اپنے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے شرف بخشا
اور آپ کے ذریعے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا میں
نے اپنے باپ عامر بن وائل کو بھی دیکھا ہے۔
اور تمہارے باپ عفان کو بھی۔ خدا کی قسم عامر
تمہارے باپ سے زیادہ اشرف تھے۔۔۔۔۔

عمر بن الخطاب
معزولی کے بعد عثمان بن عفان سے

رتہ خلیفہ عمر بن الخطاب نے عرض کیا:۔۔۔ آپ کسی کو خلیفہ
انتخاب عثمان بنا دیجئے تو فرمایا:۔۔۔

اگر ابو عبیدہ بن الجراح زندہ ہوتے تو میں اُن کو خلیفہ بنا دیتا۔ اور میرا رب سوال
کرتا تو میں کہہ دیتا کہ میں نے نیر سے بنیام کو ان کے بارے میں کہتے سنا تھا۔ کہ وہ اس
امت کے امین ہیں۔۔۔ اگر سالم بن عمیر زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ بنا دیتا
اور میرا رب سوال کرتا تو کہہ دیتا کہ میں نے نیر سے بنیام سے سنا تھا۔ کہ سالم سب سے
بڑھے ہوئے ہیں۔

ایک شخص نے عرض کیا:۔۔۔ میں اس کے لئے عبد اللہ بن عمر بن الخطاب کا نام پیش کرتا ہوں؟ اس
پر فرمایا کہ:۔۔۔

بہتر ایسا ہونا تو نے کسی افسوسناک بات کہی۔ اور تیرا اس سے کیا مقصد ہے!
کیا میں ایسے شخص کو خلیفہ بنا دوں جو اپنی عورت کی طلاق سے عاجز آ گیا۔ ہمیں تمہارے
معاملات میں پڑنے کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ خود میں نے کون سا قابل تعریف کام کیا ہے
جو اپنی اولاد کے لئے بھی اس کو پسند کروں۔ اگر یہ ذمہ داری خیر تھی تو ہم نے اس کا کافی
حصہ پا لیا۔ اور اگر شر تھی تو اس کی ساری برائی عمر بن الخطاب کے ذمہ ہے۔ تو بہتر ہے۔ آل عمر
کی طرف سے بہتر ہے کہ ایک ہی فرد خدا کے حضور میں جواب دہی کر لے۔۔۔۔۔ تم
اُن لوگوں کی طرف جاؤ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ یہ اہل جنت ہیں۔۔۔۔۔ جن میں سے ایک سعد بن ابی وقاص ہیں۔ یہ بنی امیہ کے بھائی ہیں۔
جنتیں میں داخل کرنا نہیں چاہتا۔ باقی چھ یہ ہیں:۔۔۔ عبد مناف کے بیٹے علی اور
عثمان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اموں عبد الرحمن اور سعدہ اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے عماری اور پھر بھی نہ ادا نہ میر بنی العوام اور طلحہ بن عبیدہ اور علی بن
میں سے کسی کو منتخب کر لیں۔ اور جب کوئی منتخب ہو جائے تو پھر تمہارا فرض ہے کہ
پوری طرح اس کی مدد کرو اور اسے تقویت پہنچاؤ۔

یکم محرم ۳۵ھ ر، نومبر ۶۵۵ء کو عثمان رضی اللہ عنہما کے اتفاق رائے ہو گیا اور وہ حضرت عمر بن الخطاب کے
جانشین بنا دیئے گئے۔ مسلمانوں کی تمام ذمہ داری انہوں نے سنبھالی۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کے تیسرے خلیفہ ہو گئے:

حضرت عثمان اور عمرو بن العاص | حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کو خلیفہ عمر رضی اللہ عنہما اور عمرو بن العاص کی باہمی کشیدگی کا علم تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی پالیسی اس بنیاد پر قائم تھی کہ اپنے قرابت والوں اور ان لوگوں کو مناسب دہچے جائیں جن سے رشتہ داری کا رابطہ ہو۔

دوسری پالیسی ان کی یہ تھی کہ محکمہ جنگ اور محکمہ مال کو جدا کر دیا جائے۔
مصر میں جنگ اور خراج دونوں محکمے عمرو بن العاص ہی کے پاس تھے۔ اور اسی بنا پر ان کے اختیارات اور ان کا تسلط مصر میں بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔

عمرو بن العاص کی شہرت ترقی ہوئی تھی۔ اس لئے جلد ہی ان کی سیاست خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہما کی سیاست سے منقطع ہو گئی۔ اور باہمی اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ عمرو بن العاص صرف امور عربیہ کے والی ہوں۔ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جو خلیفہ سابق کی طرف سے مالک مصر کے حاکم ہیں، امور مال کے متعلق ہو جائیں۔

لیکن عمرو بن العاص نے عبداللہ کو مالیات کا چارج دینے سے انکار کر دیا۔ اور ان دونوں کے درمیان بھی کشمکش شروع ہو گئی۔ اور دونوں اپنی اپنی شکایات خلیفہ کے پاس پہنچانے لگے۔ خلیفہ کا میلان عمرو بن العاص کی بہ نسبت عبداللہ کی طرف زیادہ تھا۔ اس لئے کہ وہ ان کے رضامندی بھائی تھے۔ چنانچہ انہوں نے عمرو کو دلائییت مصر کے تمام امور سے معزول کرنے سے حکم دے دیا۔ کہ تمام امور کی کئی ذمہ داری عبداللہ ہی کے سپرد کر دی جائے:

معزولی کی تاریخ | مؤرخین کے درمیان اس معزولی کے سال کی تعیین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ عمرو کی معزولی منویل کے اسکندریہ پر قبضہ سے پہلے عمل میں آچکی تھی۔ جب منویل اسکندریہ پر پوری طرح قابض ہونے کے بعد مزید پیش قدمی کرتا ہوا ایشیائی مصر کی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں تک کہ قلعہ پابلوں کے قریب پہنچ گیا۔ تو خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہما نے عمرو کو بلا کر منویل کی سرکوبی کے لئے دوبارہ مصر روانہ کیا۔

سنہ ۲۴ ذی الحجہ

مترجمی ۱۹۱۴ء ۲۴ ذی الحجہ

سنہ ایک روایت کے مطابق اہل مصر نے جب دیکھا کہ منویل کے مقام میں عرب شکست کھاتے جا رہے ہیں۔ تو
رہائی اگلے صفحہ پر

ابن اثیر معمولی کا سال ۳۷۰ بتاتا ہے۔

طبری کے نزدیک معمولی ۳۷۰ میں ہوئی۔ اور اس نے اس کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص سے معمولی خراج کا حکم لے کر عبد اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ جس سے دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ عبد اللہ نے خلیفہ کو لکھا کہ اگر عمرو نے خراج کی مقدار بہت کم کر دی ہے، عمرو نے لکھا کہ: "عبد اللہ میری تدابیر جنگ کو ناکام بنا رہا ہے۔" جس پر خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ نے عمرو کو لکھا کہ تم مصر کو چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔

پھر حسن بن محمد حسن نے مندرجہ ذیل قرائن کی بنا پر طبری کی تائید کی ہے۔

اولاً: یہ کہ خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کو افریقہ کی جنگ پر ۳۷۰ میں روانہ کیا ہے اور یہی وہ سال ہے جب رومی اسکندریہ پر قابض ہوئے۔ ثانیاً: یہ کہ عبد اللہ جنگ افریقہ میں کم از کم ایک سال تین ماہ مصروف رہے۔ اس سے کم مدت تیرن قیاس بھی نہیں ہے۔ اس لئے کہ مسلمان اپنے مرکز سے بہت دور تھے جنہیں آسانی کے ساتھ کمک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اور اس کے بالقابل رومی افواج کا سلسلہ مواصلات و امداد و سانی غیر منقطع اور مربوط تھا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے منقولہ اندازہ یہی ہے کہ عبد اللہ کی مصر کی طرف واپسی اسی وقت ہوئی۔ جب خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے لئے شش ماہیوں کا حصہ مقرر کیا تھا۔ اور اس کا سال ۳۷۰ تھا۔

ثالثاً: یہ کہ طبری کی روایت ہے کہ خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ نے عمرو کو خراج مصر سے برٹا کر ان کی جگہ عبد اللہ بن سعد کو مقرر کر دیا تھا۔ جس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اور اپنی اپنی شکایات خلیفہ کے پاس بھیجنے لگے۔ ظاہر ہے کہ اس شکوہ شکایت اور پھر خلیفہ کے غور و فکر کے بعد فیصلہ کرنے میں بھی یقیناً کچھ نہ کچھ وقت ضرور خرچ ہوا ہو گا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ابولہ نے خلیفہ کی خدمت میں پیام بھیجا کہ عمرو کو مصر بھیج دیں تاکہ وہ رومی افواج کا مقابلہ کریں۔ اس لئے کہ وہ جنگ کے ماہر بھی ہیں اور دشمن کے دل پر ان کا رعب بھی ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے ان کی خواہش پوری کر دی۔

بنائے علیہ ذی کثر حسن اور ایم حسن کی رائے ہے کہ عمرو بن لوی معزولی روہیوں کے قبضہ اسکھریہ کے بعد سلمہ کے اخیر یا سلمہ کے شروع میں پیش آئی ہے۔ اور یہ رائے اس لئے بھی قابل ترجیح ہے کہ بعد اشدین سعد صحر کے دالی افریقہ کی جنگ کے بعد بنائے گئے۔ اور درجیب سے بات ثابت ہے تو پھر یہ رائے قابل قبول نہیں رہتی کہ ان کی معزولی سلمہ یا اس سے پہلے عمل میں آئی ہے۔ معزولی کے بعد امویوں میں اس بارے میں بھی مختلف رائے ہیں۔ کہ معزولی کا زمانہ شروع عربوں العاص نے کس مقام پر گذارا۔

بعض کا خیال ہے کہ وہ مصر ہی میں رہے یہاں تک کہ منویل کا حملہ پیش آگیا۔ اور خلیفہ نے مصر ہی میں ان کے پاس قیادت سنبھالنے کا حکم بھیج دیا۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ مکہ چلے گئے تھے اور خلیفہ کا حکم انہیں وہیں ملتا۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ مدینہ آگئے تھے۔

بعض نے لکھا ہے کہ وہ کچھ عرصہ مدینہ میں قیام کرنے کے بعد فلسطین جا کر گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ لیکن اس دوران میں کبھی مدینہ بھی آجاتے تھے۔

عمرو کے ساتھ ایک بات معزولی کا اثر عمرو کے دل و دماغ پر بہت گہرا پڑا۔ اور وہ خلیفہ کے خلاف غم و غصہ بھر گئے اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ معزولی کے بعد مدینہ آئے اور خلیفہ کی موتی آپس جو ان کے نکاح میں تھی اس کو طلاق دے دی۔

ایک مرتبہ عمرو خلیفہ کے پاس اس حال میں پہنچے کہ وہ روٹی کا ایک بیکہ لہنے ہوئے تھے اور ان دونوں کے درمیان مشورہ ذیل گفتگو ہوئی :-

عثمان! تمہارے جہت میں کیا بھرا ہوا ہے؟

عمرو! اس کے اندر عمرو بھرا ہوا ہے۔

عثمان! میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ روٹی ہے یا کوئی اور چیز؟ خلیفہ نے بات کو ختم کرتے ہوئے بعد اشدین سعد کے بارے میں سوالات شروع کر دیئے۔

۱۔ ذی کثر حسن اور ایم حسن کی رائے۔ بحوالہ تاریخ طویں العاص ص ۲

۲۔ فلسطین میں عمرو کا ایک عمل تھا جس کا نام دار العثمان تھا

۳۔ طبری جلد ۱ ص ۱۰۹

عثمانؓ نے عیدائش کو کس حال میں چھوڑا؟
 عمرؓ۔ جس حال میں آپؐ پسند کریں۔

عثمانؓ۔ اس کا کیا مطلب؟

عمرؓ۔ اپنی ذات کے لئے بڑے طاقتور اور اللہ کے لئے بے حد کمزور
 عثمانؓ نے تو انہیں حکم دیا تھا کہ وہ تمہارے نقش قدم پر چلیں۔
 عمرؓ نے آپؐ کی طاقت سے باہر حکم دیا۔

طبری کی روایت ہے کہ عمرؓ نے معرولی کے بعد خلیفہ کی بزرگی شروع کر دی تھی اس لئے
 انہوں نے انہیں تنہائی میں بلا کر دریافت کیا۔

عثمانؓ نے اسے نابغہ کے بیٹے نیری بزدلی کے گرجان میں اتنی جو ہمیں آخر کس بات نے پیدا
 کر دی ہیں۔ کیا تم سال اول ہی سے عادل رہتے نہیں آ رہے تھے۔ اب میری بزرگی کرتے
 پھرتے ہو میرے سامنے کیسے تبور لے کر آئے ہو اور بیٹھ پھیرتے ہی تمہارے نیوریک دم
 کیسے بدل جاتے ہیں۔

عمرؓ۔ عوام الناس اپنے دایلوں کی جو شکایات آپؐ تک پہنچاتے ہیں وہ ایک سر غلط ہیں
 اس لئے اسے امیر المؤمنین آپؐ کو اپنی رعیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔
 عثمانؓ نے انہیں تمہارے نقائص اور لوگوں کی کثرت شکایات کے باوجود بھی عادل
 بنائے رکھا تھا۔

عمرؓ نے میں آپؐ سے پہلے عمر بن الخطابؓ کا عادل تھا۔ اور وہ اس حال میں رخصت ہوئے
 کہ وہ محمدؐ سے راضی تھے۔

عثمانؓ نے۔ اگر میں بھی تم پر ویسی ہی گرفت قائم رکھتا جیسی گرفت عمرؓ رکھتے تھے تو تم بیدھے
 رہتے۔ لیکن میں نے تمہارے معاذ میں نرمی سے کام لیا تو تم زیادہ نرمی ہو گئے۔ یقین کرو کہ بخدا
 میرے آہنی تمہارے مقابل میں زیادہ تھے۔ اور اس خلافت کے طے سے پہلے بھی کثرت افزا
 میں مجھے تم پر فضیلت حاصل تھی۔

رہنہ اس ساری گفتگو سے اس نغمہ کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ جو عمرؓ کے دل میں حضرت عثمانؓ اور عیدائش
 بن سعد کی طرف سے پیدا ہو گیا تھا۔

عمروؓ اس بات کو ترجیح دے گا۔ اور اس اشد کا شکر کرو۔ جس نے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے عزت و تکریم بخشی۔ اور پھر ان کے ذریعے سے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ میری ان آنکھوں نے عاص بن دائل کو بھی دیکھا ہے اور تمہارے باپ عثمان کو بھی ملتا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عاص تمہارے باپ سے زیادہ باعزت تھے۔

عثمانؓ: ہم دونوں کو جاہلیت کی گرفت بند کر دینی چاہیے۔
عمروؓ: عثمان کے خلاف غصہ کے جذبات لئے ہوئے باہر نکل آئے۔

عمروؓ کا یہ غم و غصہ حالات کا ایک طبعی تقاضا تھا۔ کیونکہ مصر کو فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کرنے والے صرف عمروؓ ہی تھے۔ مصر کا خیال بھی انہوں نے پیدا کیا۔ خلیفہ دوم کو مصر کے لئے تیار کرنے والے بھی وہی تھے۔ اور اس کے بعد علیؓ طور پر اسے فتح کرنے والے بھی وہی فتح ہو جانے کے بعد اسلامی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنے والے بھی وہی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے۔ کہ اہلیتِ قیادت کے لحاظ سے بھی وہ عبد اللہؓ کی یہ نسبت کہیں زیادہ افضل و اعلیٰ تھے۔ اس لئے مصر کی گورنری کے حق دار سب سے زیادہ وہی تھے۔

اس کے بعد جب فتنہ کبریٰ کا آغاز ہوا۔ اور مستانوں کے رجحانات حضرت عثمانؓ سے برگشتہ ہو کر ناگوار صورت اختیار کرنے لگے تو عثمانؓ رزم کو بالآخر اپنی عمروؓ ہی العاص کی ضرورت پیش آئی۔ اور اہم معاملات میں ان کے مشوروں کے بغیر انہیں کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ حضرت عثمانؓ رزم نے ایک دن عمروؓ ہی العاص کو بلا کر اسی فتنہ کے بارے میں دریافت کیا۔ عثمانؓ: عمروؓ اس فتنہ کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟

عمروؓ: میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے مقابلہ میں ضرورت سے زیادہ رزم اقتدار سے زیادہ فراخ اور حضرت عمرؓ سے زیادہ فیاض ہو گئے ہیں۔ اس لئے آپ اپنے پیشرام کی پالیسی پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اور سختی کی جگہ سختی سے اور نرمی کی جگہ نرمی سے کام لیں۔ ان لوگوں کے مقابلہ میں جو علم میں شرمیلانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو سخت گیری سے کام لینا چاہیے۔ لہذا ان لوگوں کے ساتھ بلاشبہ نرمی برتنا چاہیے۔ جو علم کے خیر خواہ ہیں۔ لیکن آپ یہی کہہ کر ٹوک سوبد کے لئے فرشِ راہ بنے ہوئے ہیں۔

ایک اور موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فتنہ ہی کے بارے میں اُن سے مشورہ لیا۔ اور اس وقت دوسرے لوگ بھی کثیر تعداد میں موجود تھے۔

عثمان رضی اللہ عنہ نے اس فتنہ کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟

عمرؓ میں مجال کرنا ہوں۔ کہ آپ بنو امیہ کی طرح لوگوں کی گردنوں پر سوار ہو گئے ہیں۔ آپ کو کچھ کہتے ہیں وہی رہ کہتے ہیں۔ اور آپ طیر سے ہو گئے ہیں تو وہ بھی طیر سے ہو گئے ہیں۔ یا استدال پر ایسے بامقصد چھوڑ دیجئے۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر اپنے موقع پر ڈٹے رہیے اور آگے قدم بڑھانے چاہیے۔

عثمان رضی اللہ عنہ: تمہارا کیا حال ہے۔ تم پیچھے اپنے گریبان کی بوتلیں تو دیکھو۔ اس کے بعد کوئی بات کرنا تمہارا منہ اس قابل ہے کہ ایسی باتیں کرو۔

عمرؓ: خاموش ہو گئے۔ اور جب باقی سب لوگ چلے گئے تو بولے:-

عمرؓ: تمہیں نہیں نہیں اسے امیر المومنین۔ خدا کی قسم آپ کا احترام تو میرے دل میں میری اس گفتگو کے برخلاف بہت زیادہ ہے۔ لیکن میں نے وہ باتیں اس لئے کہی تھیں۔ کہ دروازے پر بہت سے لوگ جمع ہیں۔ اور آپ نے ہم کو مشورہ کے لئے بلایا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی بات اُن کے کھٹکھٹ تک پہنچا دوں۔ اور اس کے نتیجے میں آپ کے لئے کوئی بہتر صورت پیدا کر لوں یا شر کو آپ کی ذات تک پہنچنے سے روک سکوں۔

خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب ان کا اختلاف بہت شدت اختیار کر گیا تو انہوں نے مدینہ چھوڑ کر طلسمین میں قیام اختیار کر لیا۔ اور اُسے علاقے اہم واقعات کا اسی جگہ انتظار کرنے کا حکم دیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ کی تاریخ سے یہ بات ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دوسرے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں ترجیح دی۔ اور ان کی نصیحتوں پر ذرا دھیان نہ دیا۔ جو مخلصین کی طروت سے ان کے گوش گزار کی جاتی رہیں۔ خلافت سے دستبردار ہونے کے لئے اخیر وقت تک تیار نہ ہوئے۔ یہاں تک کہ فتنہ کبریٰ شباب پر پہنچ کر بالآخر ان کی شہادت پر منتج ہوا۔


ڈاکٹر محمد اسعد طلسمین کا بیان ہے کہ:-

لوگوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سب سے زیادہ ابھارنے والی بات یہ تھی کہ انہوں نے ان بڑے بڑے صحابیوں کو جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مناسب مہر و کر

رکھے تھے، معقول کر کے ان کی جگہ ایسے آدمیوں کو مقرر کر دیا تھا جو لائق و طبع تھے۔ اس
ذیل میں نمایاں مثالیں دو ہیں، راہبصو سے ابوموسیٰ اشعریؓ کی معزولی اور عبد اللہ بن عمر
کی تقرری ۲۰۱ھ مصر سے عمر بن العاص کی معزولی اور عبد اللہ بن سعد کی تقرری۔
شہادت عثمان بن عفانؓ سے کچھ لوگ فلسطین پہنچے تو عمرو نے خلیفہ عثمانؓ کے بارے میں حال دریافت
کیا، اس میں سے ایک نے جواب دیا: "میں انہیں سخت محاصرہ میں چھوڑ آیا ہوں۔"
اس پر عمرو نے فرمایا کہ:

انا عبد اللہ۔ قد شرط البعید المسکاة فی النار۔ میں اللہ کا بندہ ہوں
اور تمہوں کی نظار اس وقت ہوا خارج کر لی ہے جب داغ کا لولا بھٹی میں پوتا ہے،
اس کے بعد پھر دوسرے دفعہ عمرو سے ملے جن کے ساتھ ان کے دو بیٹے عمر اور عبد اللہ اور ایک
اور شخص سلام بن روح بن امی بھی تھے۔ تو عمرو نے ان سے بھی دریافت کیا کہ: "اس شخص کا کیا بنا؟"
تو ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ: "شہید کر دینے گئے۔"
یہ سن کر عمرو بولے:

"میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب کسی زخم کو کھینچتا ہوں۔ تو اس سے خون نکال کر
چھوڑتا ہوں۔ میں اس شخص کے لئے اس بات کا زیادہ حریص تھا کہ وہ کسی پہاڑ کی
چوٹی پر اپنی بکریاں چرا یا کرتا۔"



علیؑ اور معاویہؓ کے ساتھ

”اے معاویہ خدا کی قسم آپ اور علیؑ دونوں باہم
 اور نسل کے دو طرفہ وزن کی طرح ہیں۔ اگر ایک طرف
 آپ میں علیؑ کی سچت، سبقت فی الاسلام، جمعیت
 رسول، جہاد فی سبیل اللہ، عقل و ادراک اور
 علم و فضل نہیں ہے تو دوسری طرف آپ کے بھی
 کچھ ایسی ہی خصوصیات ہیں۔ ایسا یہ بنائیے کہ اگر میں
 علیؑ رضی اللہ عنہ کے مقابل میں آپ کا ساتھ دوں۔ تو آپ
 میرے لئے کیا کریں گے؟“

عمر بن العاص

معاویہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے

ثالثی تک

معاوی لا اعطیک دینا ولعائل
 به متک دینا الخ نظر ان کیف تصنع
 فان تعطی محمدا فارحم بصفقة

انخذت بها شیخا یضر وینفع
 اسے معاویہ میں اپنی اطاعت آپ کے حوالے
 نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ آپ کی طرف سے اس
 (۱) کا کوئی بدلہ نہ پاؤں۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ
 آپ کو کیا کرنا ہے۔

اگر آپ مجھے مصروفے سکتے ہیں تو میں اپنے
 آپ کو بھی اس سودے میں نفع یاب سمجھوں گا
 (۲) اور آپ بھی مصروفے کر ایک ایسے بوڑھے کو
 حاصل کر لیں گے۔ جو نفع اور نقصان دونوں کی
 قدرت رکھتا ہے۔

طہر بن العاص

ثالثی سے پہلے معاویہؓ سے بات کرتے ہوئے

حضرت علیؑ | حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے اپنے مسلمانوں کا خیال تھا کہ وہ تمام مشکلات جنہوں نے عہدِ عثمانی میں امتِ اسلامیہ کو ہر جہاں طرف سے گھیر لیا تھا قتلِ عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد ختم ہو جائیں گی۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوتا تھا کہ مشکلات کا ایک تیا دور پہلے سے بھی زیادہ خوفناک طریقہ سے شروع ہو گیا اور قتلوں کا دم داڑھ بڑی شدت کے ساتھ کھل گیا۔

مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لئے پسند کیا۔ اور ۲۵ ذی الحجہ ۳۰ کو جمعہ کے دن ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد انصاری اور ہاجرین کے کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: عوام لوگوں کے لئے کسی امام کا ہونا ضروری ہے۔ اور آپ موجودہ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔

علی رضی اللہ عنہ، مجھے تمہاری امارت کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی اور شخص کو منتخب کر لو جس کی بیعت میں بھی کر لوں گا۔

عوام! ہم تو آپ کے سوا کسی کو پسند نہیں کرتے..... ہمارے نزدیک تو آپ سے زیادہ کوئی بھی خلافت کا حق دار نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ قربت رکھنے والے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ ایسا نہ کرو میں اہمیت سے زیادہ وزیر بننے کو پسند کرتا ہوں۔

عوام! خدا کی قسم ہم آپ کو ہرگز نہ چھوڑیں گے جب تک کہ آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت نہ کر لیں۔

اس پر آپ نے ان کی بات مان لی۔ اور انہیں مسجد نبوی میں لے جا کر بیعتِ خلافت لے لی۔ مسلمانوں کی تقسیم | حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت حاصل کر کے ابھی آرام سے بیٹھنے بھی نہ پاتے تھے کہ مسلمان مختلف الرے ہو کر گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور ہر ایک اپنی اپنی بولنے لگا۔

۱۔ تمام میں تو امیر نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ کھڑا کر دیا اور قاتلین کو قتل پر ابھارنے کا غلط الزام حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ڈالنے لگے۔

۲۔ قاتلین کا ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تائید میں کھڑا ہو گیا۔ اور اسے پیش کی کہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت

کو بڑا دشمن بنا دیا جائے۔

(۴) تمیرے فریق کا موقف یہ تھا کہ خلافت کا انتظام اسی صورت سے کیا جائے جس صورت سے حضرت عمرؓ کے زمانہ میں تھا۔ اس فریق کی نمائندگی طلحہؓ اور زبیرؓ کر رہے تھے جن کے ساتھ حضرت عائشہؓ بھی تھیں۔ اور یہ ٹینوں پہلے تو دباؤ کے ماتحت حضرت علیؓ کی بیعت میں داخل ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد بیعت توڑ دی تھی۔

(۵) ایک چوتھا فریق ایسا بھی تھا جو بیامت سے کنارہ کشی اختیار کر کے گوشہ نشینی اختیار کر چکا تھا۔ اور اس نے خلافتِ اسلامیہ کے سیاہ و سفید سے اپنی دلچسپی کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ طبری عبد اللہ بن الحسن سے نقل کرتا ہے کہ:-

تمام انصار اور فہاجرین نے حضرت علیؓ کی بیعت کر لی تھی لیکن بعض معتزہ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے بیعت سے انکار کیا تھا۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں:-

عبد اللہ بن عمرؓ۔ حسان بن ثابتؓ۔ سعد بن ابی وقاصؓ۔ کعب بن مالکؓ۔ مسلمہ بن مخلدؓ۔ ابوسعید خدریؓ۔ زبیرؓ۔ محمد بن مسلمہؓ۔ زبیرؓ۔ عثمان بن عفانؓ۔ مقداد بن اسودؓ۔ زبیرؓ۔ ثابتؓ۔ دافع بن خویجؓ۔ اسامہ بن زیدؓ۔ فضالہ بن عبیدرؓ۔ عبد اللہ بن سلامؓ۔ میسرہ بن شعبہؓ اور صہیب بن سنانؓ۔

عمرؓ کا موقف | اس میں شک نہیں کہ عمرؓ نے امیر المومنین عثمانؓ کی شہادت سے خوشی محسوس کی۔ اور اسی وجہ سے وہ اس گروہ میں شامل نہیں ہوئے جو قتلِ عثمانؓ پر غضب ناک تھا۔ بلکہ غیر جانبداری کے ساتھ حالات کا مطالعہ کرنے اور کسی ٹھوس نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے۔ تاکہ وہ اپنے ائمہ اقدام کے لئے کوئی واضح پروگرام تیار کرنے کے بعد میدانِ عمل میں آسکیں۔ عمرؓ کے لئے اس موقف میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کہ وہ سعد بن وقاصؓ وغیرہ کی طرح بیاریات

سے حدیث صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی طاہرہ اور حضرت طلحہؓ و زبیرؓ جیسے مقدس اور محترم صحابیوں کے متعلق جن کو اسی دنیا میں جنتی ہونے کی خوش خبری مل چکی تھی، اس قسم کا الزام قبول کرنے کے لئے طے ہو گا۔ آواز میں ہوتا عوامی رائے روایات کتنی ہی اس کی تائید میں ہوں (محمد احمد پالی پٹی)

ملاحظہ یہ مصنف کا اپنا خیال ہے۔ ضروری نہیں کہ مترجم اذکار میں اس سے متفق ہوں (محمد احمد پالی پٹی)

سے کنارہ کش ہو کر بیٹھ جائیں۔

انہوں نے اپنی وکالت انجیر اور سیبھی سوچ بوجھ سے زیر پرچہ، طلحہ رنہ اور سیدہ عائشہ کے مروت کے بارے میں اس بات کا اندازہ لگایا تھا۔ کہ وہ بہت کمزور اور جلد مضمحل ہو جانے والا ہے۔ اور اس کی صحبت کرنے والا فریق بھائے خود اتنا کمزور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کر کے اس کی خلافت کو ختم کرنے اور اس کے بجائے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت تسلیم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور ان کا یہ گمان آگے چل کر درست بھی نکلا۔ جب اس فریق نے جنگ جمل میں شکست کھائی۔ طلحہ رنہ اور زیر پرچہ شہید کیے گئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو عزت و تکریم کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا گیا۔

عمرو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہونے میں اس لئے متردد تھے۔ کہ انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس مزاجی خصوصیت کا علم تھا۔ کہ وہ ملکی معاملات میں اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے پر بھروسہ کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ اور جہاں تک ہو سکتا دوسروں ہی کو اپنی رائے کا تابع کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور انہیں ان سے اس بات کی ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہاں تک کی قیادت سوری پر رکھیں گے۔

عمرو کا یہ ترقف اس وجہ سے بھی تھا کہ ہمیشہ سے ان کی عادت اور مزاج طبعی میں یہ بات شامل تھی۔ کہ وہ اس وقت تک کسی کام میں بھی قدم آگے نہ بڑھاتے تھے جب تک کہ انہیں ہمارے و قرآن کے قدیمو اپنی کامیابی کا یقین نہ ہو جاتا تھا۔ ان کی زندگی کی تفصیلات اس بات کی واضح طور پر تائید کرتی ہیں۔ — مثلاً وہ اسلام ہی میں اس وقت داخل ہوئے جب انہیں یقین ہو گیا کہ حالات کا پانسہ اب سچل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی طرف پلٹتا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے اس وقت کا دور رد بفعال ہے۔ ان کے اسٹلم کے باب میں ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے حبشہ کی ہجرت اسی لئے کی تھی کہ وہ وہاں بیٹھے ہو کر اڑج دیکھتے رہیں۔ اور جس طرف کا پڑا اچھکتا دکھائی دے اسی طرف اپنا وزن بھی ڈال دیں۔

چنانچہ آج بھی وہ اسی ذہن کے مطابق رینے سے دور بیٹھے ہوئے بیعت علی رضی اللہ عنہ کی پیچیدگی کا جائزہ لے رہے تھے۔

طلحہ رنہ، زیر پرچہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے فریق کے درمیان میں سے نکل جانے کے بعد میدان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دو فریق باقی رہ گئے۔ جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نمودار

کی تائید کی کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی۔ اور یہ دونوں قبیلے زمانہ جاہلیت ہی سے ایک دوسرے کے دشمن چلے آ رہے تھے۔ اور اسلام نے دشمنی کی آگ ان کے درمیان بھڑکا دی تھی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہما اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما پر وہی پرانا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ اور پڑھتے مناقشات ایک ایک کر کے دونوں کے سامنے آ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہما نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اور ان کے باپ کے ساتھ متعدد مناقشات پر جنگ کی تھی۔ اور تازہ سبب یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی طرف سے شام کے فرماں روا ہونے کے ساتھ آپ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ اس لئے انہی پر یہ فرض بھی عائد ہوتا تھا کہ خون عثمان کا مطالبہ لے کر انہیں۔

اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما نے عمرو کی طرف نظر دوڑائی، اور انہیں اپنی مدد کے لئے دعوت دی۔ جسے عمرو نے تم خورہ جذبات نے لیکر کہا۔ دونوں ایک دوسرے کے حلیف اور ساتھی بن گئے اور قصاص عثمان کا مطالبہ اسی کام کر لیا گیا۔ اور اسے مزید جنگی حضرت علی رضی اللہ عنہما کے اس طرز عمل سے ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہما نے صرف یہ کہ قبیلہ قتل کو ٹالتے رہے بلکہ انہوں نے ان کا قاتل کو اپنا دو گار بنا لیا۔ اور مزید یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کو شام سے معزول کرنے کا حکم بھی صادر فرما دیا۔

مشورے | جنگ جمل میں کامیاب ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہما کو فریاد پڑا۔ اور دماغ سے ایک قاصد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے پاس اس غرض سے بھیجا کہ میرے ہاتھ پر سب مہاجرین و انصار نے بیعت کر لی ہے۔ اس لئے تم بھی اگر بیعت کر لو۔ طلحہ رضی اللہ عنہما، زبیر رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے میرے مقابلے میں خروج کیا تھا اس لئے میں نے ان سے جنگ کی۔ اب تم آؤ اور میری اہل میں داخل ہو جاؤ۔

حضرت علی رضی اللہ عنہما کے مرسلہ کا متن یہ ہے۔

..... اما بعد عوام الناس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کو خود شہید کیا ہے۔ مجھ سے کوئی مشورہ نہیں لیا۔ پھر انہوں نے باہم مشورہ کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ اب جب میرا یہ خط تمہیں لے تو تم لوگوں سے میرے لئے بیعت لو اور شرفائے شام کا ایک وفد میرے پاس بھیجو۔

اسے صنعت کے اس نلکا اور بے غیاد اہتمام میں کوئی صداقت نہیں۔ آپس کے اختلافات کا سہم کے سر منڈو دینا صنعت کا بہت بڑی جسارت ہے (محمد امجدانی رحمہ اللہ)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ خط پڑھنے کے بعد لپیٹ کر رکھ دیا اور اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاصد جریر بن عبد اللہ جب بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جواب کا تقاضا کرتے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں مندرجہ ذیل اشعار بتاتے :-

۱۱۔ لدم اذما تصحن اخذتن بیدی	حمیاض روسا تشب الجوزل والھزما
۱۲۔ فی جادکم و انکم اذا کان مقتله	شنعاء مشیبت الاصلع واللمسا
۱۳۔ اعیاء المحسود بھاد السیدون فتلہ	یوجد لها غیونا مولی ولا حکما

ترجمہ :- ۱۱۔ قلعہ کے استحکام کی طرح مبرو سکون سے کام لو اور اگر زیادہ ہی جلدی ہے تو پھر میری طرف سے ایسی شدید جنگ کا نوحہ لے جاؤ جو چھوٹے موٹے رندھن کے ساتھ بڑے بڑے فصیحوں بلیغوں کو بھی جلا کر خاکستر کر دے۔

۱۲۔ وہ جنگ جو تمہارے بیٹوں، پوتوں کے ساتھ ساتھ تمہارے پردیسوں کو بھی نہ چھوڑے اور جو اتنی شدید اور خوفناک ہو جو زلفوں اور کپٹیوں کو بڑھاپے تک پہنچا دے۔

۱۳۔ اور پھر اس جنگ کا نتیجہ یہ ہو کہ ماسد اور سردار سب اس کے مقابلہ سے عاجز آجائیں اور آخر کار انہیں ہماری ہی سواری اور تالشی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس بار سے میں بھی مشورے کے لئے اپنے سابق مشیر محمد بن العاص ہی کی طرف متوجہ ہوئے۔

لے حمیرہ اسی سال ایمان لائے جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چالیس دن پہلے اسلام قبول کیا اور ان چالیس دنوں میں نہ اپنے اندر آنے سے روکا اور نہ ایسا ہی ہونا کہ مجھے دیکھا ہوا اور قسم نہ فرمایا جو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی کلاع اور ذی ریحین میں ان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ اور یہ اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمرؓ ان کو اس امت یا دوست کفر یا کرتے تھے۔ اور وہ خود بھی اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں جاہلیت میں بھی سواد ہی رہا اور اسلام میں بھی نہ اخیر میں گنہگار رہا۔ اور وہیں وہیں وفات پائی۔ ان کے بارے میں یہ شعر بھی کہا گیا ہے :-

لولا حمیرہ ہلکت بعیلہ	نعما الفتی وبغست القبیلہ
اگر حمیرہ نہ ہوتے تو قبیلہ بھلاک ہو جاتا	جو ان اچھا ہے لیکن قبیلہ بُرا

ایک روایت کے مطابق عتبہ بن ابی سفیان نے معاویہ رض کو مشورہ لینے کی رائے دی تھی پر چنانچہ انہوں نے عمرو کو مندرجہ ذیل مراسلہ بھیجا :-

..... اللہ! علی رض اور ظہر رض وزیر کا معاملہ جس انجام تک پہنچا۔ اس کی اطلاع تمہارے پاس پہنچ چکی ہوگی۔ اب علی رض کی بیعت کے لئے جریر بن عبد اللہ آئے ہوئے ہیں۔ اور میں نے اپنا مشورہ تمہارے مشورہ پر موقوف رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا نام لے کر فوراً مجھ سے اکر طاقات کرو۔

عمرو نے اپنے دونوں بیٹوں عبد اللہ اور محمد کو بلا کر حضرت معاویہ رض کا خط سنا دیا۔ اور اس کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ جس پر عبد اللہ کا مشورہ یہ تھا :-

”بوڑھے آبا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ اس حال میں کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ ان کے بعد حضرت ابو بکر رض اور عمر رض بھی اسی حال میں سدھارے کہ آپ سے خوش تھے۔ اب آپ کے لئے یہ بات ہرگز مناسب نہیں کہ اپنے دین کو اس قلیل دنیا کے حوالے کر دیں۔ جو آپ کو معاویہ رض کا ہاتھ دینے سے حاصل ہو جائے گی۔“

اس کے برخلاف محمد کا مشورہ یہ تھا کہ :-

”اس کام میں جلدی کیجئے اور روم بننے کی بجائے سر بننے کی کوشش کیجئے۔“

۱۱۱۱ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ”آجاذ اس ار سے میں تم سے بناؤں بیانات کرتا ہے۔“

۱۱۱۱ یعقوبی جلد ۱ صفحہ ۴۱۵

۱۱۱۱ ایک روایت کے مطابق عبد اللہ کے الفاظ یہ تھے :- ”اگر کچھ کرنا ہی ہے تو علی رض کے لئے کرو۔ جس کے جواب میں عمرو نے فرمایا: ”میری اس تجویز پر مدد ہے۔ اگر میں علی رض کو رو دیتا ہوں تو وہ مجھے اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دیں گے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک ہوں۔ اور اگر معاویہ کو مددوں کا توہ مجھے ہر چیز میں اپنا لیں گے۔“ اس پر عبد اللہ نے عرض کیا: ”میری رائے تو یہ ہے کہ آپ گریٹے دیکھیں اللہ ہی میں آپ کے دین کی حفاظت ہے۔“ لیکن اس کے برخلاف عمر نے کہا کہ ”آپ دمرت عرب کے شر تار میں سے ایک ہیں بلکہ عرب کی گلی میں یہ کوئی رائے نہیں ہے کہ عرب اپنا سب سے بڑا حسد حل کر رہے ہیں اور آپ کسی مقام پر نظر نہ آئیں۔“ اس کے بعد عمرو نے دونوں کو خطاب کر کے فرمایا: ”عبد اللہ تم نے ایسا مشورہ دیا۔ جو میری آخرت کے لئے بہتر ہے۔ لیکن اے محمد تم نے وہ مشورہ پیش کیا جس پر میری آئندہ عزت اور شہرت کا انحصار ہے۔“

عمو نے دونوں کے مشورے سن کر جو جواب دیا وہ مندرجہ ذیل اشعار کی صورت میں تھا:-

<p>۱، تطاول لیلی للنجوم الطوارق ۲، فان ابن هند سالتی ان اورد ۳، وقد قال عبد الله قولا تعلقت ۴، دخالعه فيه اخوه محمدا</p>	<p>وخوف اللتی تجلو وجوه العوائق وتلك التی فیہا نبات البوائق به النفس ان لم یعتقلنی عوائق وانی لصلب العود عند الحقائق</p>
--	--

ترجمہ:، میری ساری رات ستارگان صبح کے استعارہ اور اس جنگ کی سوچ بچار میں بیت گئی جس میں کہ عموں کی آزمائش ہوتی ہے اور چہروں پر پالش کیا جاتا ہے۔

(۲) ہاں ہاں ابن ہند نے مجھے ملاقات کے لئے بلایا ہے۔ اور میں خوب جانتا ہوں۔ کہ اس ملاقات کے پردے میں کیسی کیسی دشمنان ہلاکت چھپی بیٹھی ہیں۔

(۳) عید اللہ نے جو مشورہ دیا ہے وہ بلاشبہ دل پرندہ ہے۔ لیکن موانع کی زنجیریں مجھے جکڑ کر کسی دوسری ہی سمت لے جانا چاہتی ہیں۔

(۴) محمد نے عید اللہ کے خلاف مشورہ دے کر مجھے ایسی آزمائش کے لئے تیار کیا ہے جس کے لئے میری مکر مضبوط اور جوصلے بلند ہیں۔

عمرو شام میں | بالآخر عمرو نے شام کی طرف کوچ کر دیا۔ اور حضرت معاویہ رض سے ملاقات کر کے مشورہ دیا۔ کہ حضرت علیؓ کی بیعت قبول نہ کریں۔ اور خون عثمان کی بنیاد پر شامی فوج کے ساتھ ان سے جنگ کریں۔

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ معاویہ رض حضرت عثمان رض کی طرف سے شام کے گورنر تھے اور اپنی سلامت روی اور پسندیدہ برتاؤ کی بنا پر رعایا کے دلوں میں گھر کر چکے تھے۔ اس لئے شام کی افواج جاں نثاری کے لئے ان کے اشارے پر قدم واپردی منتظر رہتی تھیں۔

لیبن وین | حضرت معاویہ رض نے عمرو سے کہا:- "عمرو! تم بڑھاؤ اور بیعت کر لو" تو عمرو نے جواب دیا:-

"ہاں ہاں ضرور، لیکن پہلے یہ بات سن لو کہ میں اپنی اطاعت اس وقت تک دینے کے لئے تیار نہیں ہوں جب تک کہ تمہاری دنیا میں سے کچھ حصہ دے لیں"۔ اس پر حضرت معاویہ بولے "مصر تمہارے لئے یہ خیال ہے"۔ اس پر عمرو نے مندرجہ ذیل اشعار پیش کئے:-

<p>(۱) معادی لا اعطیک دنیا ولعما مثل</p>	<p>به منك دنیا فانظر کیف تصنع</p>
--	-----------------------------------

(۱۲) فان تعطی محاربا ثم بصفقة اخذت بهاشیفا یضرب بشفع
 ترجمہ: - لا، اسے معاویہ میں اپنی اطاعت آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ آپ کی طرف سے اس کا کوئی بدلہ نہ پاؤں اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔
 (۱۳) اگر آپ مجھے مصروفے سکتے ہیں تو میں اپنے آپ کو بھی اس سودے میں نفع مند سمجھوں گا۔ اور آپ بھی مصروفے کر ایک ایسے بڑے کو حاصل کر لیں گے۔ جو نفع اور نقصان دونوں کی منفردت رکھتا ہے۔

ایک روایت میں دونوں کی گفتگو کا متن مندرجہ ذیل بیان کیا گیا ہے:-

اسے معاویہ خدا کی قسم آپ اور حضرت علی رضہ دونوں باہم ادنٹ کے دو طرفہ دن کی طرح ہیں۔ اگر ایک طرف آپ میں حضرت علی رضہ کی پھرت، بیعت، صحبت، جہاد، سمجھ اور علم نہیں ہے تو دوسری طرف آپ کے بھی کچھ اتنی بازی خصوصیات ہیں اب یہ بتائیے کہ اگر میں حضرت علی رضہ کے مقابلہ میں آپ کا ساتھ دوں۔ تو آپ میرے لئے کیا کریں گے؟

اس کے جواب میں حضرت معاویہ رضہ نے فرمایا:-

”مصر کی حکومت دے دوں گا۔“

عمر و تے اس کے بعد حضرت معاویہ رضہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

حضرت معاویہ رضہ نے مصر کی حکومت کا وعدہ دے دیا۔

حضرت علی رضہ کے قاصد تحریر نے واپس جا کر کہہ دیا کہ حضرت معاویہ رضہ نے بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ اور وہ جنگ پر تیار ہیں۔ شام کی فوجیں ان کے تابع فرمان ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان رضہ کے خون آلودہ کرتے اور توجہ عثمان رضہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کا مظاہرہ منبر پر کر کے عوام کو قصاص پر آمادہ کر لیا ہے۔ اور سب اس بات پر متعلق ہیں کہ حضرت عثمان رضہ کے خون کی ذمہ داری سراسر حضرت علی رضہ کے سر ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے ”فالین عثمان کو اپنی

۱۲ ایک روایت میں ہے کہ جب چیر رضہ کو معاویہ رضہ کے پاس ویراگ لگی تو حضرت علی رضہ نے انہیں مندرجہ ذیل تنبیہ بھیجی:-

”جو نبی نہیں میری بہ تحریر سے تو معاویہ کو مجھ کو کہہ دو باتوں میں سے ایک کا جلا فیصلہ کر لے۔ آنا جنگ یا

فائدہ بخش اطاعت۔ اگر جنگ پسند کرے تو اسے چھوڑ کر واپس آجاؤ اور اگر اطاعت کرے تو بیعت لے لو۔“

پناہ میں لے رکھا ہے۔

صفین | حضرت معاویہؓ کے اس موقف نے حضرت علیؓ کو بھی حضرت معاویہؓ کے خلاف غضب ناک کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے بھی حضرت معاویہؓ کی گردن جھکانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور ۵ شوال ۴۰ کو ۹ ہزار فرج کے ساتھ حضرت معاویہؓ کی رات نکل و حرکت شروع کر دی۔

اُدھر سے حضرت معاویہؓ کی ۵ ہزار شاہی فرج بھی حرکت میں آ گئی۔ اور دریائے فرات کے ایک ایسے ساحلی مقام پر فروکش ہو گئی۔ جہاں سے انہوں نے حضرت علیؓ کی فرج کو پانی حاصل کرنے سے روک دیا۔

عمرؓ نے حضرت معاویہؓ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ "حضرت علیؓ اور ان کی قوت سے ہزار فرج جن کے کاندھوں پر تلواریں چمک رہی ہیں۔ پیاس کے سربے سے نہیں مریں گے۔ ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ہم بھی پانی پئیں اور وہ بھی۔"

لیکن حضرت معاویہؓ نے عمرو کے مشورے کو بہ کنتے ہوئے رو کر دیا کہ۔

"ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم ان سب کو اسی طرح پیاسا مرانا چاہیے جس طرح حضرت عثمانؓ نے پیاسے جان دی ہے۔"

پانی کی اس بندش سے غضب ناک ہو کر حضرت علیؓ کے ایک سپاہی نے مندرجہ ذیل اشعار کہے تھے۔

<p>وقینا الرماح و قینا المححف اذا خونوا الریدى لم یخفف وطلحة خضنا عناسا المتلف ومالت الیوم شاة النیحف</p>	<p>(۱) ایمنعتا القوم ماء العنات (۲) دنینا علی له صولة (۳) ونحن غداة لقینا الزبید (۴) فمابنا امسى امد الحمرین</p>
---	--

ترجمہ (۱) یہ لوگ آج ہمارا پانی بند کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس تیرے بھی ہیں اور تیرا انداز بھی

(۲) ہمارے درمیان علیؓ کی وہ صولت بھی جیسے بڑی سے بڑی ہلاکت بھی خوفزدہ نہیں کر سکتی

(۳) ہم کل زہیر اور طلحہ کے مقابلہ میں بھی موت کے سمندر میں غوطہ زنی کر چکے ہیں

(۴) اسے جھاڑی کے شیر و اکل ہم ہمارا حال دیکھ چکے ہو۔ اور آج اسے ٹیلہ کی بکری تو بھی ہیں

آزمائے گی۔

حضرت علیؓ نے حضرت معاویہؓ کے مانعین آپ کے مقابلہ میں ایجادتہ بھیج کر ان سے

پانی کا راستہ صاف کر دیا۔ اور خود اس پر قابض ہو گئے۔ لوگوں نے رد عمل کے طور پر پیالہ کہ معاویہ رض کا پانی بند کر دیں لیکن حضرت علی رض نے فرمایا کہ پانی اشد کی ایک عمومی نعمت ہے جس سے کسی بھی فرد بشر کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔

چنانچہ انہوں نے معاویہ رض کے ساتھیوں سے چشم پوشی کی۔ اگرچہ اس دریا دلی سے حضرت علی رض کے ساتھیوں نے ناگہاری محسوس کی لیکن حضرت علی رض نے ان کی کوئی پروا نہیں کی۔

حضرت معاویہ رض نے حضرت علی رض کے پاس مفارقت بھیجی کہ پیش آمدہ صورت حال کے ختم کرنے اور مسلمانوں کو افتراق سے بچانے اور دوبارہ متحد کرنے کے لئے گفت و شنید کا آغاز ہونا چاہیے۔ صلح گفت و شنید شروع ہو گئی۔

سب سے پہلے جس بات پر اتفاق ہوا وہ یہ تھی کہ محرم شہدہ کے اخیر تک جنگ و خون رگی جائے۔

اس کے علاوہ جن مناقشات پر رد و قدح ہوئی اس کا کوئی بھی فیصلہ کن نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ صلح کی مدت ختم ہوتے ہی صفر شہدہ کے پہلے دن جنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ حضرت علی رض کی صفوں سے روزانہ ایک بہادر نکلتا اور حضرت معاویہ رض کا بہادر اس کا مقابلہ کرتا۔ لیکن اس سے خاندانِ علی رض کی جو جنگ حضرت علی رض سے زیادہ دیر تک پسند نہ کرتے ہوئے گھمسان کا ارادہ کر لیا اور اپنے بہادروں کو ان الفاظ کے ساتھ حملہ کے لئے تیار کر لیا کہ زیادہ دیر تک ان لوگوں کو اپنی اجتماعی فکر سے نہیں بچا سکتے۔

جنگ حضرت علی رض کی فوج نے حملہ میں پیش قدمی کی اور حضرت معاویہ رض کی فوجوں نے بے حد نقصان اٹھایا۔ جنگ کئی دن تک جاری رہی جس کے دوران عمار بن یاسر بھی قتل ہوئے۔ آخر حضرت علی رض کے بہادروں نے ایک ایسا بھروسہ رکھ لیا کہ حضرت معاویہ رض کی فوجیں شکست کھا گئیں۔

ایک روایت کے مطابق خود حضرت معاویہ رض نے بھی فرار کا ارادہ کر لیا تھا لیکن فرار نہیں کیا۔ ابن اظہار کے یہ شعر یاد آگئے۔

واخذی الحمد بالثمن الربیب

را، ابت لی ہمتی و ابی بلاتی

یہ جیسا کہ ان سے روایت کیے گئے ہیں۔

یہ دوسرے حوالہ جات میں مندرجہ ذیل اشعار ہیں۔

واقدا می علی البطل المشیر

ابت لی عفتی و ابی بلاتی

واخذی الحمد بالثمن الربیب

واعطانی علی المسکودہ مالی

۱۲) و اجتنابی علی المکروہ نفسی
 ۱۳) و اتولی کلما جشأت وجاشت
 ۱۴) لا دفع من ماثراً صالحات
 و ضربی ہامة البطل المشہم
 حکایتی تحدی او تستدعی
 و احی ہمد عن عمرہی صلحیم

توجہ بہ میری ہمت اور میری آزمودہ کاری کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ کہیں سستی نہ ہوتی اور عزت کی تعریف حاصل کرتا پیروں۔

۱۵) میرے نفس کا شدید اند اور خطرات کی طرف اقدام کرنا اور بڑے بڑے مخاطب بہادروں کی گھوڑیوں پر ضرب لگانا اور

۱۶) جب میری ہمت اپنے اندر جوش مارنے لگے تو اس کو یہ کہہ کر محاذ پر جانے رکھنا کہ تجھے تعریف بھی اسی جگہ کرنی ہے اور استراحت بھی یہیں کرنی ہے۔

۱۷) یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ میں سب سے پہلے شریف زادوں کی آبرو کو بچاؤں۔ اور پھر اس کے بعد اپنی عورت کو محفوظ کروں۔

فتح و نصرت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑی تھی۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اہل شام کی طرف رخ کر کے چلا رہے تھے۔

”اللہ کا خوف کرو، عورت و حرمت اور عورتوں اور بیٹیوں کے بارے میں۔“
 عمرؓ کی تدبیر اپنی فوجوں کو خطرے میں گھرا ہوا دیکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے مشیر عمروؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:۔

”ابن العاص ہم تو ہلاک ہو گئے۔ اب تم اپنی پوشیدہ قوتوں کو حرکت میں لاؤ۔“
 عمروؓ نے اپنے وادع کو کر دیا اور اس کی گہرائی میں کوئی ایسی تدبیر ڈھونڈنے لگے۔ جس سے معاویہؓ کا رخ بدلا جاسکے اور حضرت معاویہؓ کو شکست سے بچایا جاسکے۔ آخر عرب کے اس مشہور مدبر نے ایک تدبیر کی پناہ لی۔ امد پھر اس کی روشنی میں ایک ایسا منصوبہ تیار کر لیا جس سے حالات کا رخ یکایک پلٹ گیا۔ عمروؓ نے شامیوں کے لشکر میں چھینٹا شروع کیا کہ:۔
 ”اے لوگو! جس شخص کے پاس تم میں سے کلام اللہ کے اجزا ہوں۔ وہ ان کو اپنے ہیزے پر بند کرے۔“

مصاحف نیروں پر اٹھاتے گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے یہ آوازیں بند ہونے لگیں کہ:۔
 ”یہ اللہ کی کتاب فصیل ہے پاس سے اور تمہارے درمیان“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر نے بھی اس اُداد کو سنا تو انہوں نے بھی اس نعرے کا جواب دیا
نعرے سے دیا کہ ا۔

”ہم کتابِ اللہ کے فیصلے کا استقبال کرتے ہیں۔“

وتوجه قلنا | اس طرح عمرو اس محبت اور شدت کو کوڑنے میں کامیاب ہو گئے جو اس وقت
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صفوں میں پائی جاتی تھی۔ اور گویا انہوں نے اس فتح کو ان سے دود کر دیا
جو ان کے بالکل قریب آچکی تھی۔ سچ پوچھا جائے تو انہوں نے اپنی تدبیر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی
صفوں میں اتنا عقار پیدا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس زبردست قریب کو بھانپ گئے اور
پچھلے سالوں سے اس کا ذکر کیا۔ لیکن انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اتفاق نہیں کیا۔ اور
ان کے محاذ کا ایک حصہ اشتر کی قیادت میں براہِ جنگ کرتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ماتبیوں
نے انہیں مجبور کیا کہ پورے محاذ پر جنگ بند کر لیں۔ اور ان کے مجبور کرنے سے اشتر کے پاس
جنگ بندی کا پروانہ بھیج دیا گیا۔ لیکن اشتر نے یہ کہتے ہوئے حکم ماننے سے انکار کر دیا کہ۔
”یہ وقت نہیں ہے کہ آپ مجھے میرے مقام سے ہٹائیں۔ مجھے امید ہے کہ
بہت جلد فتح ہونے والی ہے اس لئے ذرا میرے کام لیجئے۔“

عوامِ الامس جوش میں آچکے تھے اس لئے انہوں نے مطالبہ میں زیادہ شدت اختیار
کرتے ہوئے کہا کہ ا۔

”خدا کی قسم آپ نے اشتر کے پاس جنگ بند کرنے کا نہیں بلکہ جنگ
جاری رکھنے کا حکم بھیجا ہے۔ اس کو فوراً اپنے پاس بلائیے۔ ورنہ ہم آپ کا ساتھ
چھوڑ دیں گے۔“

پھر ایک قاصد اشتر کے پاس روانہ کیا اور قاصد سے کہا۔

”اشتر سے جا کر بات کہنا کہ فتنہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور تمہیں علی رضی اللہ عنہ نے

فوراً بلایا ہے۔“

اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشعث بن عمار کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ان کا مقصد
معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ جس کا جواب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ ملا کہ۔

”ہم اور تم دونوں کو کتابِ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ آپ اپنے

میں سے ایک ایسا آدمی بھیجیں جو سب کی طرف سے نمائندہ ہو۔ اور ہم بھی اپنا ایک

نماز پڑھی اور پھر ان دونوں کو اختیار دے دیں۔ کہ وہ اللہ کی کتاب کے موافق راجاؤں کو کال لیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پیشکش کو قبول کر لیا اور انہوں نے اپنی طرف سے عمرو بن العاص کو فائدہ پہنچایا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے ابو موسیٰ اشعری کو پسند کیا اور سب نے کہا: ہم ابو موسیٰ سے راضی ہیں۔

لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود کو ملائی کہ مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اور انہوں نے اپنی زوجہ سے کہہ بھی دیا تھا کہ:

”تم اس سے پہلے میری نافرمانی کر چکے ہو اب اس بار سے میں تو نافرمانی نہ کرو۔“
لیکن جب زوجہ نے ابو موسیٰ ہی پر اصرار کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجبور ہو کر خاموشی اختیار کر لی۔
ابو موسیٰ اشعری | عبد اللہ بن قیس بن سلیم اشعری مین میں پیدا ہوئے۔ اور ظہور اسلام کے وقت مکہ آکر اسلام لے آئے تھے علم و فضل میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ ابن عبد البر نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ: ”کان علامۃ نسابۃ“ یعنی وہ بڑے پائے کے عالم اور نسب دان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کو معزول کر کے ان کی جگہ ان کو بصرہ کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ جہاں وہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ تک رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس بنا پر مخوف تھے۔ کہ انہوں نے ان کو منصب سے معزول کر دیا تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا میلان ابو موسیٰ کی طرف اس لئے نہیں تھا کہ ان کے انداز سے کے مطابق وہ ایک وینڈر آدمی بے شک تھے۔ لیکن سیاست میں انہیں ورک نہیں تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ جنگی چالوں کا جواب دینے کی ان میں استعداد ہی نہیں ہے اور یقیناً یہ اپنی ذمہ داری میں شکست کھا جائیں گے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معتمد علیہ بھی نہیں تھے۔ اس لئے کہ جب اہل کوفہ ان کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خروج کرنے کے بارے میں مشورہ طلب کرنے گئے تھے تو انہوں نے انہیں ایسا کرنے سے روکے جوئے مشورہ دیا تھا کہ:

”آخرت کا راستہ تو ہے کہ تم خروج نہ کرو اور دنیا کا راستہ یہ ہے کہ خروج کرو۔“
اور یہ بھی کہا تھا کہ:

”خدا کی قسم عثمان کی بیعت میری گردن میں ہے۔ اگر میں نے ان کے لئے قتال

نہیں کیا تو کسی اور کے لئے بھی قتال نہیں کرنا چاہئے جب تک عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالفوں سے ہم فرار و گریز نہ پالیں اور جہاں کہیں بھی وہ ہیں انہیں کیفرِ کردار تک نہ پہنچادیں۔
 ابو موسیٰ اشعری طہا بھی غنوں سے گریزاں تھے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا:۔
 تم تکلف اس میں داخل نہ ہو۔ اس لئے کہ یہ ایک اندھا قند ہے جس میں
 سونے والا ہانگنے والے سے، چاکنے والا بیٹھنے والے سے، بیٹھنے والا کھڑا ہونے
 والے سے، اور کھڑا ہونے والا سوار ہونے والے سے بہتر ہے۔ لہذا تم عربی درخت کی
 بیڑ میں بچ جاؤ۔ تلواروں کو نیام میں ڈال لو، نیزوں کو زمین میں گاڑ دو۔ کمانوں کے پتے
 آلودہ و مظلوم کو پناہ دو۔ مجبور کی حمایت کرو۔ یہاں تک کہ قضیہ ایک طرف اور رفتہ
 بد طرف ہو جائے۔

عمر و اور ابو موسیٰ اشعری کے ہونے اور متعدد اجتماعات کے بعد ۱۰ھ ۱۱ھ کو معاہدہ تبکیم شامی ہوا۔
 ترتیب پا گیا جس کا متن یہ ہے:۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر علی بن ابی طالب اور
 معاویہ رضی اللہ عنہما نے اتفاق ہوئے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ نافذ ہے تمام اہل کوفہ اور اہل
 لوگوں پر جو مسلمانوں میں سے علی رضی اللہ عنہ کے مددگار ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ نافذ ہے اہل شام
 اور اہل لوگوں پر جو مسلمانوں میں سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے مددگار ہیں۔ ہم تسلیم کریں گے اللہ عز و
 جل کے حکم کو جو اس کی کتاب میں ہے اور اس کے سوا کسی کو اپنے درمیان وغیرہ نہ ہونے
 دیں گے۔ بس ایک اللہ کی کتاب ہی فاتحہ سے خاتمہ تک ہمارے درمیان حکم ہوگی ہم
 ہر اس چیز کو باقی رکھیں گے جس کو اس نے باقی رکھا ہے اور اس کو فنا کر دیں
 گے جس کو اس نے فنا کیا ہے۔ ہمارے ہر دو نشان یعنی ابو موسیٰ اشعری، عبد اللہ
 بن قیس اور عمرو بن اسامی قرشی جو کچھ کتاب اللہ میں پائیں گے۔ اس پر عمل کریں
 گے۔ اور جو کتاب اللہ میں نہ پائیں گے اس کے بارے میں سنت رسول اللہ سے
 فیصلہ کریں گے۔ ہر دو نشان نے فریقین دینی رضی اللہ عنہما اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی قوموں
 اور مقبر لوگوں سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ وہ دونوں اپنی جاتوں اور اہل و عیال کے

اعتبار سے امن اور حفاظت میں ہیں اور امت مسلمہ ان کی مددگار ہے اس فریق کے مخالفہ میں جس کے خلاف یہ فیصلہ صادر کریں۔ فریقین کے تمام مسلمان اللہ کو گواہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ اس معاہدہ میں لکھا گیا ہے وہ درست ہے۔ اور اس تحریر کو عملاً جاری کرنا فریقین کے تمام مسلمانوں کا فرض ہے۔ امن، استقامت اور اختیار ڈال دینا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور جہاں کہیں بھی وہ جائے اس کے جان مال اہل اولاد حاضر اور غائب سب کچھ امن اور حفاظت میں ہے۔ عبد اللہ بن عباس اور عمر بن العاص پر بھی اللہ تعالیٰ کا عہد اور نجات ہے کہ وہ امت کے اس قضیہ کا فیصلہ اس طرح کریں جس کی زد سے فریقین دوبارہ کسی جنگ اور تفریق میں مبتلا نہ ہوں۔ الا یہ کہ وہ کھلم کھلا اس فیصلہ کی تاخیر یا پر ازائیں فیصلہ کرنے کی مدت ماہ رمضان تک ہے۔ اور اگر دونوں ثالث اس مدت میں بھی مزید اضافہ کی ضرورت سمجھیں تو ہر دو کی رضامندی کے بعد انہیں مدت کے بڑھانے کا بھی اختیار ہوگا۔ اور اگر فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں میں سے کوئی وفات پا جائے گا۔ تو فریق متعلق کے امیر کو اس کی جگہ دوسرا ثالث پیش کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور ضروری ہے کہ وہ عادل اور انصاف پسند ہو۔ فیصلہ جس جگہ بیٹھ کر کیا جائے گا وہ کوڑہ اور شام کے درمیان کا کوئی مقام ہوگا۔ اور اگر وہ دونوں پسند کریں گے تو وہ لوگ بھی وہاں جا سکتے ہیں جہیں اسی کی طرف سے اجازت مل جائے۔ دونوں ثالث اس بات کے مجاز ہوں گے کہ جن لوگوں کو بھی وہ پسند کریں انہیں بطور گواہ بلا لیں اور ان کی گواہی اس عہد نامے پر ثبت کرالیں۔ اور یہ گواہ اس فریق کے خلاف معین و مددگار ہوں گے جو اس عہد کی خلاف ورزی کرے گا یا اس کے اندر کوئی کجی داخل کرنے کی کوشش کرے گا۔

اے اللہ تم مجھ سے بھی اس دشمن کے خلاف مدد مانگتے ہیں۔ جو اس معاہدے کی بے حرمتی کرتا چاہے۔

دس فقرے | مذکورہ بالا دستاویز مندرجہ ذیل دس اہم فقروں پر مشتمل ہے۔

۱۔ نزاع کے فریقین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اول الذکر کے ساتھ اہل کوڑہ ہیں

اور ثانی الذکر کے ساتھ اہل شام

۲۔ فریقین پہلے کتاب اللہ پر بیہوش کرتے ہیں اور اس کے بعد سنت پر

۳۔ ابو موسیٰ اشعری فریقِ علیؑ کی نمائندگی کرتے ہیں اور عمرؓ میں العاص فریقِ معاویہؓ کی
 ۴۔ دونوں نمائندے اپنی جان اور مال کی طرف سے پوری طرح امن و حفاظت میں ہیں۔
 ۵۔ تین فیصلہ کی تکمیل تک فریقین کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔
 ۶۔ گواہ بلائے کا حق تینوں کو دے دیا گیا۔
 ۷۔ صلح کی مدت رمضان المبارک تک ہے جسے ثالثان بڑھا بھی سکتے ہیں۔
 ۸۔ ایک ثالث کے مرجعے پر متعلقہ فریق کا امیر دوسرا ثالث مقرر کرے گا۔
 ۹۔ فیصلہ کی جگہ کو فد اور شام کے درمیان ہوگی۔
 ۱۰۔ قرارداد و تحریری ہوگی جس پر گواہان دستخط کریں گے اور پھر اس کے نافذ کرنے کی ذمہ داری
 سب پر ہوگی۔

یہ بات بھی مقرر کر دی گئی کہ فیصلہ کا مقام دومتہ الجندل ہو گا۔
 وفود حضرت علیؑ نے مقامِ محکم کی طرف اپنی جانب سے چار سو آدمی روانہ کر دیئے۔ اور ان پر
 شریح بن ہانی حارثی اور عبد اللہ بن عباس کو قائد بنا دیا۔ ابو موسیٰ اشعریؓ ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔
 دوسری طرف حضرت معاویہؓ نے بھی چار سو شامیوں کے ساتھ عمرؓ میں العاص کو روانہ کر دیا۔
 مقامِ محکم پر پہنچ کر عبد اللہ بن عباسؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کو مندرجہ ذیل باتیں سمجھا لیں :-
 حضرت علیؑ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ سے زیادہ
 افضل آدمی دوسرے موجود تھے۔ لیکن عوام انہیں نے آپ ہی پر اصرار کیا۔ اور میرا
 خیال ہے کہ یہ ان کے لئے بہت بُرا ہوا۔ اس لئے کہ عرب کا سب سے بڑا بدرگاہ
 ہوشیار شخص تمہارے مقابلہ پر ہے۔ اگر تم کوئی بات بھی یاد نہ رکھ سکو تو اتنی بات
 ضرور یاد رکھنا کہ حضرت علیؑ کی بیعت میں وہ لوگ شامل ہیں۔ جنہوں نے ابو بکرؓ و
 عمرؓ اور عثمانؓ کی بیعت کی تھی۔ اور حضرت علیؑ میں کوئی نقص ایسا نہیں ہے جو
 منصبِ خلافت کے منافی ہو۔ دوسری طرف معاویہؓ میں کوئی صفت ایسی نہیں ہے
 جو اسے منصبِ خلافت سے قریب کرتی ہو۔

حضرت معاویہؓ نے اپنے ثالث عمرؓ میں العاص سے جو کچھ کہا وہ یہ تھا :-
 اے ابو عبد اللہ! عراق نے حضرت علیؑ کو ابو موسیٰ کی نمائندگی پر مجبور کیا
 ہے۔ اور میں اور ذیل شام تم پر راضی ہیں۔ اور تمہارے ساتھ جس شخص کو ملا یا گیا ہے

وہ زبان کا دماغ زادہ اسے کا کوتاہ ہے۔ اس لئے ضروری بات کرنا اور اپنی ساری رائے اس کے سامنے نہ اگل دینا۔

مسعودی کا بیان ہے کہ بعض اہم اور غیر جانبدار صحابہ مثلاً سعد بن ابی وقاص، عبد اللہ بن عمر، مغیرہ بن شعبہ وغیرہ بھی عمر بن العاص سے مل چکے تھے۔

عبد اللہ بن عباس اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما سے مندرجہ ذیل وضاحتیں نکلتی ہیں:۔
۱۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود ابو موسیٰ اشعری کی نمائندگی پر خوش نہیں تھے۔ بلکہ انہیں ساتھیوں کی طرف سے مجبور کیا گیا تھا۔

۲۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اہل شام عمر بن العاص پر راضی تھے۔
۳۔ عمر بن العاص اور حضرت معاویہ دونوں اس بات پر اتفاق کر چکے تھے کہ ابو موسیٰ بیسی معاملات میں بھولے اور سادہ لوح ہیں اس لئے انہیں کسی پھال میں پھنسا لینا چاہیے۔
۴۔ کثیر التعداد صحابہ معیت علی رضی اللہ عنہ میں شامل نہیں تھے۔ اور ان کی عدم شمولیت کا اثر عوام کے دلوں پر تھا۔

۵۔ عبد اللہ بن عباس کی بروقت گفتگو نے ابو موسیٰ کو دلی مدد پہنچا یا تھا۔ جس کی بنا پر ان کے اخلاص اور حمایت علی رضی اللہ عنہ کے جذبات سرور پر لگنے تھے۔ اور اس کے برخلاف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی باتوں نے عمرو کے اخلاص اور حمایت و نصرت کے جذبات کو اور زیادہ مضبوط کر دیا تھا۔
یہ حکم (ثالثی فیصلہ) | دونوں حکم (ثالث) رمضان عشرہ میں جمع ہو گئے۔

اجتہاد کی کارروائی عمر بن العاص کی اس گفتگو سے شروع ہوئی۔ جس کے ایک ایک فقرے میں ایک ایک پھندا تھا ابو موسیٰ کو پھنسانے اور اپنے سوچے سمجھے منصوبے کی طرف لانے کے لئے۔

عمر بن العاص۔ ابو موسیٰ سب سے پہلے ہم اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ اہل وفا کی حمایت کریں گے ان کی وفاداری کی بنا پر اور اہل غداری کی مخالفت کریں گے ان کی غداری کی بنا پر۔ کیا یہ بات درست ہے ابو موسیٰ؟

ابو موسیٰ (صدمہ شناس کے بعد مسلمانوں کے موجودہ افراتوق کا شکوہ کرتے ہوئے)
اسے عمرو کی بات مہنی چاہیے جس کے ذریعہ موجودہ تفریق ختم ہو کر مسلمانوں کے دل آپس میں جڑ جائیں اور ان کے درمیان دوبارہ الفت و محبت پیدا ہو جائے۔

عمر بن الخطاب کی بشارت کے ساتھ ابو موسیٰ کی ہمدردی حاصل کرتے ہوئے،
ابو موسیٰ یہی بات ہونی چاہیے۔ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔

جدید کلام شروع کرتے ہوئے،

اگر ہم وہی بات چیت کریں گے تو یقین ممکن ہے کہ بات کے آخری حصہ تک پہنچتے پہنچتے
اس کا پہلا حصہ فراموش ہو جائے۔ اس لئے بہتر ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو ضبط و تحریر میں لاتے رہیں۔
ابو موسیٰ نے عمر کی اس رائے کو پسند کیا۔ اور عمرو نے کاغذ منگوا یا اور کاتب کو بلا لیا یہ کاتب
عمرو کا غلام تھا جسے عمرو نے مخاطب کر کے فرمایا:-

لکھنا شروع کر اور تو یہی جہاد گواہ بھی ہے اور دیکھنا کوئی ایسی بات نہ لکھنا
جسے ہم دونوں تسلیم نہ کریں۔ منکلم بات کرنے کے بعد دوسرے ساتھی سے تسلیم کرانے کا
اگر وہ تسلیم کرے اور لکھنے کا حکم دے دے تو لکھنا اور اگر منکلم کرے تو نہ لکھنا۔
اس کے بعد عمرو نے بات شروع کی اور کاتب لکھنے لگا:-

بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ فیصلہ ہے جس پر عبد اللہ بن قیس اور عمرو
بن الخطاب اتفاق کر رہے ہیں۔ اور یہ فیصلہ اس حال میں کیا جا رہا ہے کہ دونوں گواہی
دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے
بندے اور رسول ہیں۔ چہ نہیں اس نے ہدایت اور رہنمائی اس لئے دے کر بھیجا ہے۔ کہ وہ
اسے تمام اویان پر غالب کر دیں۔ خواہ یہ بات مشرکین کو کیسی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ ہم
گواہی دیتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ رسول اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کا حق
ادا کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔

یہاں تک کی گفتگو پر ابو موسیٰ نے اظہار اتفاق کیا اور غلام سے کہا کہ نہ لکھ۔ پھر اس کے بعد
عمرو نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی فقرے کہے اور ابو موسیٰ نے ان سے بھی اتفاق کرتے ہوئے
غلام کو حکم دیا کہ لکھ۔ عمرو نے اس کے بعد کہا:-

خلیفہ عمرہ کے بعد مسلمانوں کے اجماع اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی مجلس شوریٰ کی مرضی سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت پر بیٹھایا گیا اور وہ مومن تھے۔
اس موقع پر پہنچ کر ابو موسیٰ نے عمرو کو ٹوکا اور فرمایا:-
ابو موسیٰ خدا کی قسم یہ بات وہ نہیں ہے جس کے لئے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔

عمر بن العاص رجو اب دیتے ہوئے،

خدا کی قسم دو صورتوں میں سے ایک ہی ہو سکتی ہے یا وہ مومن تھے یا کافر۔
ابو موسیٰؓ۔ عمرو سے اتفاق اور کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے لکھ۔

عمر بن العاص۔ اب فرمائیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ظلم کی حیثیت سے قتل ہوئے یا مظلوم کی حیثیت سے؟
ابو موسیٰؓ۔ مظلوم کی حیثیت سے۔

عمرؓ۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ نے مظلوم کے ولی کو مطالبہ خون کا حق نہیں دیا ہے؟
ابو موسیٰؓ۔ ہاں دیا ہے۔

عمرؓ۔ کیا آپ کے علم میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی دوسرا ولی ہے؟
ابو موسیٰؓ۔ نہیں۔

عمرؓ۔ اچھا تو پھر ہم اس بات پر شہادت پیش کرتے ہیں۔ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شہید کرایا ہے۔

ابو موسیٰؓ۔ اسلام میں جو عادت نہ ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اب ہم جو جمع ہوئے ہیں تو خالص اللہ کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ اس لئے ایسی بات کرو جس سے اللہ تعالیٰ امت مجاہدہ کی اصلاح فرمائے
عمرؓ۔ وہ کیا ہے؟

ابو موسیٰؓ۔ تم جانتے ہو کہ جس طرح اہل عراق معاویہ کو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ اسی طرح اہل شام علی کو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ پھر ہم کیوں نہ ان دونوں کو معزول کر کے عبد اللہ بن عمرؓ کو خلیفہ بنا لیں۔

عمر کی ہوشیاری | عمرو کی ہوشیاری چھلانگ لگا کر فیصلہ کے قریب پہنچ گئی۔ اور انہوں نے
ابو موسیٰؓ کی تصدیق اذنا پند کرنے میں پوری پابندی سے کام لیا لیکن عبد اللہ کے نام پر اعتراض کرتے
ہوئے دوسرے متقدم نام گنوائے شروع کر دیئے جن سے ابو موسیٰ متفق نہیں ہوئے
اب عمرو نے اپنا آخری تیر پھینکتے ہوئے ابو موسیٰؓ پر سولہ وارد کیا۔

عمرؓ۔ آپ کی لبتی کیا رائے ہے؟

ابو موسیٰؓ۔ میری رائے تو یہ ہے کہ ان دونوں کو معزول کر دیں۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کو اختیار
دے دیں کہ وہ جس شخص کو پسند کریں اسے شہابی کے ذریعہ خلیفہ بنا لیں۔

عمرؓ۔ بس رائے تو یہ ہے جو آپ نے اب پیش فرمائی ہے۔ . . . اٹھو ابو موسیٰؓ اور لوگوں کے

سامنے اعلان کر دو کہ ہماری رائے ایک بات پر متفق ہو چکی ہے۔
 ابو موسیٰ (حاضرین سے) میری اور عمرو کی رائے ایک ایسی بات پر متفق ہو چکی ہے جس کے
 نتیجے میں ہمیں امید ہے کہ اشد عود جبل اس امت کے معاملے کو درست قرار میں لے
 عمرو: ٹھیک ہے..... ابو موسیٰ اب اہلی بات کہہ دیجئے
 ابو موسیٰ: حضرت علی رضہ اور حضرت معاویہ کی معزولی کا فیصلہ لوگوں کو سنا دینے کے لئے کھڑے
 ہو گئے۔ ادھر عبد اللہ بن عباس بھی عمرو کی سازش کو بھانپ گئے اور چلا کر بسے۔
 افسوس تم پر اسے ابو موسیٰ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ عمرو نے تمہیں چکے دیا ہے
 اگر تم دونوں کسی بات پر متفق ہو گئے ہو تو اُسے آگے کرو۔ تاکہ پہلے وہ بات کرے۔ اس
 کے بعد تم کرنا۔ اس لئے کہ عمرو بہت ہوشیار آدمی ہے اور یقین ممکن ہے کہ خلوت میں
 تم دونوں کے امین جو فیصلہ ہو چکا ہو منظر عام پر آکر عمرو اس سے صاف انکار کر دے۔
 لیکن ابو موسیٰ اشعری نے عبد اللہ کی بات کو کوئی وزن نہیں دیا اور کھڑے ہو کر حسب ذیل اعلان
 کرنا شروع کر دیا:-

اُسے لوگو! ہم نے اس امت کے معاملہ پر غور و خوض کیا۔ اور اس کے بعد ہم
 دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ امت کی شیرازہ بندی اسی فیصلہ میں ہے۔ جس پر ہم
 دونوں متفق ہو گئے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ علی اور معاویہ دونوں کو معزول کر دیں اور
 اس کے بعد خلیفہ کے انتخاب کو امت کی اپنی صواب دید پر چھوڑ دیں۔ وہ جس کو
 پسند کرے اُسے خلیفہ بنا لے۔ اس لئے میں نے علی اور معاویہ دونوں کو معزول کر دیا ہے
 اب تم اپنے لئے جس شخص کو خلافت کے منصب کا اہل سمجھو اُسے اپنا خلیفہ بنا لو۔
 ابو موسیٰ کے بعد عمرو بن العاص کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد لوگوں سے مندرجہ ذیل خطاب کیا:-
 اس شخص نے مجھ سے وہ بات کہی جو تم نے بھی سُن لی۔ اور اس نے اپنے

۱۔ عمر بن العاص اور ابو موسیٰ اشعری کی باہمی گفتگو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عثمان بحالت مظلوم شہید کیے
 گئے اور یہ کہ تنہا معاویہ رضہ ہی عثمان رضہ کے خون کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔

۲۔ معزولی کا بیان ہے کہ لوگوں نے زانی خطاب نہیں کیا جو تحریری فیصلہ لکھا تھا جس میں علی اور معاویہ کو معزول کیا تھا۔
 اس شرط پر کہ مسلمان اپنا خلیفہ خود منتخب کریں (جلد ۱ ص ۱۱۱)

ساتھی کو معزول کر دیا۔ اور میں بھی اس کے ساتھی کو معزول کرنا ہوں جیسا کہ اس نے اسے معزول کیا ہے۔ لیکن اپنے ساتھی معاویہ کو یہیں قائم رکھتا ہوں۔ اس لئے کہ وہ عثمان بن عفان کے ولی اور ان کے خون کے دعویدار ہیں اور حکومت کے سب سے زیادہ حق دار ہیں؟ ابو موسیٰ یہ سنتے ہی جوش میں آگئے۔ اور اب انہیں وہ جاں نظر آیا جو عمرو نے ان کے پھنساتے کے لئے پھمایا تھا۔ آپس میں ٹوٹو میں میں ہونے لگی۔ لیکن معاویہ حتم ہو چکا تھا۔ اور ابو موسیٰ کے لئے اب اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا تھا کہ وہ تمام اناس کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنی سواری پر بیٹھیں اور میدان سے نکلے۔ اور لیں۔

اس حکیم پانچویں کے جو اہم نتائج نکلے۔ ان کا اندازہ مندرجہ ذیل نکات سے لگایا جاسکتا ہے:-
۱۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں دوبارہ تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا۔ لیکن ان کی فوج نے انکار کر دیا۔ اور آپس میں مختلف رائے ہو گئے۔ اور انہی کی صفوں میں سے خوارج کی ایک نئی جماعت نکل آئی۔

۲۔ اہل شام نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خوشی کے نعرے بلند کیے۔ اور وہ ان کے گرد زیادہ مضبوطی کے ساتھ جمع ہوئے۔

۱۔ نجد اندھیری جاسس ابو موسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں :-

- | | | |
|-----|------------------------------|--------------------------|
| ۱۱۔ | ابا موسیٰ بلیت و کنت شایخا | قریب العفو مخزون المسانی |
| ۱۲۔ | وما عمرو من صفاتک یا ابن تیس | فشیاء یلک من شایم یمانی |
| ۱۳۔ | فامینت العشیة ۱۱۵ عند اسیما | ضعیف الرکن منکوب العنان |
| ۱۴۔ | تعض اسکت من تدمر و ملاندا | یرد علیک عضک للسان |

متوجہ جملہ ۱۱، ابو موسیٰ تم بڑھے، نالی حنر اور عشاہ زبان تھے اس لئے دشمن کھا گئے۔

۱۲۔ اے ابن تیس، عمرو کی صفات دشمنیہات تم کہاں سے لاتے۔ اے یمن کے بڑھے بس اندھیری تیرا بھلا کرے۔

۱۳۔ اس شام تم کیسے معذور اور ضعیف القوی نظر آ رہے تھے۔ اور بالآخر تمہیں اپنی باگ ہوڑنے ہی بن پڑی۔

۱۴۔ تم بے شک فرطندامت سے اپنی ہتھیاریں اور اٹھیلیاں کاٹ رہے تھے۔ لیکن بعد از وقت پھٹانے سے کبھی کبھی بنا بھی ہے۔

۳۳- عمرو نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ترک کامیاب کر دیا۔ لیکن اسلام کے سینے میں ہمیشہ کے لئے خنجر گھوسپ دیا کہ مسلمانوں میں سے ایک جدید فرقہ نکل آیا۔ جس کا نصب العین ہی بغضِ علی و معاویہ قرار پا گیا۔

(۴) عمرو، معاویہ رضی اللہ عنہ کے دائیں بازو اور مشیر نمبر ایک قرار پا گئے۔

اس شخص کا حضرت عمرو بن العاص پر یہ ایک ایسا لالہ ہے جس میں حقیقت کو بالکل دخل نہیں۔ خوارج کا گروہ اپنا کجروائی کی بدلت عمل میں آتا۔ نہ کہ عمرو بن العاص کی اس کارروائی کی وجہ سے اس کی بنا پڑی۔ اپنے غیثِ باطن کے باعث خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ سے علیحدہ ہو گئے اور اللہ کو برا سمجھا کہنے لگے۔ بے پار سے عمرو بن العاص کا اس میں کوئی قصور نہیں (محماد پانی پتی)

وفات تک

اے اللہ تو نے حکم دیا اور ہم نے نافرمانی کی
 تو نے گناہ سے منع فرمایا اور ہم اس کا ارتکاب
 کرتے رہے یہ حال رہا اس شخص کا جو آج تیری
 پناہ میں آنا چاہتا ہے۔ اگر معاف کر دے تو تو
 غفور اور رحیم ہے۔ اور اگر مواخذہ کرنا چاہے
 تو میں اس کا سزاوار ہوں..... اے اللہ
 کوئی طاقتور نہیں جس سے مدد طلب کروں۔ کوئی
 بے قصور نہیں جس کے سامنے عذر پیش کروں۔
 تیرے سوا کوئی کبریائی اور مغفرت والا نظر نہیں
 آتا۔ اس لئے تجھ ہی سے مغفرت چاہتا ہوں۔
 اور تیری ہی طرف لوٹ رہا ہوں۔

عمر بن العاص

موت کے بستر پر اپنے پروردگار سے

بارہ برس بعد حضرت علی رضی نے خلیفہ ہو کر محمد بن ابی بکر کو مصر کا والی بنا دیا تھا۔
 یحکم کے بعد حضرت معاویہ رضی نے دو شخصوں کو جو قتل عثمان رضی سے رنجیدہ اور مصر میں مقیم تھے لکھ
 بھیجا کہ تم دونوں مصر کی حکومت سنبھال لو، انہوں نے حضرت معاویہ رضی سے مدد طلب کی تو حضرت
 معاویہ رضی نے ۶ ہزار کا ایک لشکر عمرو بن العاص کی سرکردگی میں مصر روانہ کر دیا۔ تاکہ وہ وہاں پہنچ
 کر علی رضی کے مقرر کردہ حاکم کو مصر سے نکال دے اور اسے شام کے ساتھ ملا دے۔
 ۳۵ھ میں عمرو بن العاص کی طرہ روانہ ہو گئے۔ اور ۴۱ سال کے بعد مصر کی حدود میں پھر دوبارہ
 داخل ہو گئے۔ اور محمد بن ابی بکر کو حسب ذیل مراسلہ بھیج دیا:۔

..... اما بعد اے ابو بکر رضی کے بیٹے! اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہو۔
 تو میرا راستہ صاف کر دو۔ میں بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میرا چنگل تم پر پڑے۔ اس
 سرزمین کے لوگ تم سے برگشتہ، تمہاری حکومت سے ناخوش اور تمہاری اطاعت پر
 شرمندہ ہیں۔ اگر بات بگڑ گئی تو وہ خود تمہیں ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اس لئے بہتری

اسی میں ہے کہ تم مصر سے نکل جاؤ اور میری نصیحت قبول کر لو۔ والسلام
 مصر کہ منشأۃ محمد بن ابی بکر نے مراسلہ کا کوئی جواب نہیں دیا اور جنگ کے لئے تیار ہو گیا۔ فریقین شہر
 منشأۃ میں صفت آ رہے۔ لیکن اس کی فوج عمرو کے حملہ کی تاب نہ لا کر شکست کھا گئی۔ اور اس کا
 اکثر حصہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ لیکن خود محمد بن ابی بکر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا جس کا تعاقب

سلاطین نے کریم شخص امام مظلوم حضرت عثمان رضی کی شہادت میں سب سے پیش پیش تھا یہی سب سے پہلے ظلمت رسول اللہ کے
 گھر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ اس نے امیر المومنین عثمان رضی کی ڈاڑھی تار تار سے کھینچ کر لے لی اور کہا: (معاذ اللہ!)

سے یہ خوبی نے منشاء لکھا ہے۔
 علی المبارک نے اپنے خط میں منشأۃ لکھا ہے کہ اس نام کے کئی گاؤں تھے جو میں سب سے زیادہ وٹے
 اور مشہور منشأۃ انیم، منشأۃ بکار، العیزہ، منشأۃ مدودہ، منشأۃ ریحانہ، منشأۃ سیوطیہ منشأۃ عامہ تھے۔ علی مبارک ہی
 نے یہ بھی کہا ہے کہ مقابلہ منشأۃ عامہ پیش آیا تھا۔ جو صوبہ دنیلیہ کا ایک گاؤں تھا۔ اس وقت کوفیوں کے مرکز
 میں جو صیغہ کے ساحل پر واقع تھا۔

معاویہ بن عبدجراح نے کیا اور اسے کڑا کر قتل کر دیا۔

عمرو قسطنطنیہ پہنچ گئے۔ جہاں انہیں صفر ۳۶ھ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا حکم پہنچ گیا کہ تمہیں مصر کا حاکم بنایا جاتا ہے۔ اور مصر تمہیں اس شرط پر دے دیا گیا ہے کہ فوج کا خرچ تمہارے ذمہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ بچے گا اس کے مالک تم خود ہو گے۔

پہلو کی لیکن یہ موت زیادہ دیر تک باقی نہ رہ سکا۔ حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام اور مصر سب کچھ دلاتے والے عمرو بن العاص ہی تھے۔

شاید اس کا پس منظر یہ ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طاقت اور ہوشیاری کا اندازہ لگانے کے بعد اس بات سے خائف ہو گئے ہوں کہ عمرو بھی نہ کبھی دمشق پر ضرور ہاتھ ماریں گے چنانچہ انہوں نے اسی اندیشہ کی پیش بندی کے لئے ایک مراسلہ بھیجا جس میں یہ فقرہ تھا۔

’بشرطیکہ کوئی اطاعت کو نہ توڑے‘

عمرو نے اس فقرے کی تہ کو کھینچ کر حجاب میں لکھ بھیجا کہ۔

’بشرطیکہ کوئی اطاعت شرط کو نہ توڑے‘

خلیفہ اموی اور والی مصر کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی۔ لیکن معاویہ بن عبدجراح نے مصلحت کر کے ان کی باہمی صلح کرادی۔

ابن عساکر کی روایت ہے کہ۔

’جب خلافت تمہارا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مل گئی۔ تو انہوں نے عمرو کے لئے مہر کو زیادہ سمجھا دوسری طرف عمرو معاویہ کو اپنے لئے کم سمجھے بیٹھے تھے۔ اس لئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سب کچھ دلوانے والے وہی تھے۔ اور انہیں خیال تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو مصر کے ساتھ شام بھی میرے حوالے کر دینا چاہیے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسا نہ کیا تو ان کے دل میں ناگواری پیدا ہو گئی۔ اور دو دنوں کے بعد ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ اور ایسا معلوم ہونے لگا۔ کہ اب ان دونوں کے درمیان کسی قیمت پر بھی مفاہمت نہ ہو سکے گی۔ لیکن ابھی معاملہ عدسے تجاوز نہ ہوا تھا کہ بعض دانشمندوں نے دونوں کے درمیان پھر مصالحت کرادی اور مشورہ دیا۔ کہ باہمی صلح نامہ کو تحریری شکل میں لے آؤ گا کہ پھر دوبارہ کوئی جھگڑا نہ پیدا ہو۔‘

چنانچہ دونوں کے درمیان برتہتِ شہادت یہ معاہدہ طے پا گیا کہ حکومتِ مصر سات سال کے لئے عمرو کے ہاتھ میں رہے گی اور عمرو حضرت معاویہ کے مطیع و فرمانبردار رہیں گے۔

اس معاہدہ پر بھی عمرو اور حضرت معاویہ رض زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے۔ اور عمرو کے دل میں برابر یہ خواہش ابھرتی رہی کہ انہیں مصر اور شام دونوں ملنے چاہئیں۔ اور دوسری طرف حضرت معاویہ رض مصر کو بھی عمرو کے استحقاق سے بہت زیادہ سمجھتے رہے۔ یہاں ہی نفرت بڑھتی اور فریقین کے اعصاب پر اثر انداز ہوتی رہی۔

ایک مرتبہ کاؤک بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رض نے اپنے اہل و عیال سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ حیرت انگیز کیا چیز ہے؟ زیادہ نے جواب دیا: یہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان بلاستون اور بلا بندش قائم ہے۔ دوسرے نے کہا: وہ حصہ جسے جاہل و صول کر کے اذوہ محرومی جو عاقل کے حصہ میں تھے۔ تیسرے نے جواب دیا: وہ شے جس کی مثال دوسری نہ مل سکے۔ عمرو بن العاص بولے: سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ باطل پرست حق پرست پر غالب آجائے۔ اس پر حضرت معاویہ رض نے کہا: یوں نہیں بلکہ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انسان کو وہ سب کچھ مل جائے جس کا وہ مستحق نہ ہو۔ اور وہ پھر بھی بے خوف نہ رہے۔ حضرت معاویہ رض کے اس سوال اور پھر عمرو کے مندرجہ بالا جواب اور حضرت معاویہ رض کے جواب و جواب سے عداوت ظاہر ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر تفریق اور بائندار سے کر رہے ہیں۔ عمرو باطل پرست سے معاویہ اور حق پرست سے علیٰ مراد لے رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں معاویہ رض مصر کا طعنہ دے رہے ہیں۔ عمرو کو بطور اذوہ دیا گیا تھا۔

ایسے کو تفسیراً حضرت معاویہ رض نے عبد اللہ بن عمرو بن العاص کو کوؤ کا گوڑ بنا دیا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ نے حضرت معاویہ رض سے یہ بات کہہ کر انہیں معزول کر دیا۔ انہوں نے باپ کو مصر سے دیا اور بیٹے کو کوؤ۔ اب تم گویا شیر کے دو جیلوں کے درمیان آچکے ہو۔ حضرت معاویہ رض نے عبد اللہ کو معزول کر کے ان کی جگہ مغیرہ کو مقرر کر دیا۔ عمرو کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت معاویہ رض سے مل کر پوچھا: کیا آپ نے مغیرہ کو کوؤ کے خراج پر مقرر کیا ہے؟ حضرت معاویہ رض نے اثبات میں جواب دیا۔ جس پر عمرو نے کہا کہ: وہ سارا خراج خود کھا جائے گا اور تمہیں کچھ بھی نہ دے گا۔ خراج پر کسی ایسے آدمی کو مقرر کر دو جو آپ سے ڈرتا اور خوف کھاتا ہو۔ یہ بات سن کر حضرت معاویہ رض نے انہیں خراج سے ہٹا کر نماز پر مقرر کر دیا۔ پھر عمرو مغیرہ سے ملے اور پوچھا کہ کیا تم

نے بعد اللہ کے خلاف ایسا لوگوں میں کو مشورہ دیا تھا "وہ بولے۔ "اے عمروؓ نے جو اب دیا۔ جیسی
 کرنی رہی بھرنی۔"

عمروؓ کی وفات | عمرو بن العاص وفات پا گئے۔
 موت کی تاریخ عید الفطر ۳۷ھ تھی۔

موت سے تین سال پہلے رمضان ۳۷ھ میں تین خارجی اس بات پر اتفاق کر کے نکلے
 تھے کہ ہم میں سے ایک علی رضہ کو دوسرا معاویہ رضہ کو اور تیسرا عمروؓ کو قتل کرے گا۔ چنانچہ ابن بلعم
 حضرت علی رضہ کے قتل میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضہ کا قاتل ہمت ہار گیا۔ اور عمروؓ کے قاتل نے
 دھوکہ میں ان کی بجائے خارجہ بن عذافر قاضی مصر کو قتل کر دیا۔ جو قتل کے دن عمروؓ کی عیال کی وجہ
 سے ان کی جگہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب قاتل کو عمروؓ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں
 نے عمروؓ کا ارادہ کیا لیکن اللہ نے خارجہ کا ارادہ کر لیا۔ اتنا کہہ کر وہ رو پڑا۔ عمروؓ نے پوچھا۔
 "انتا بڑا کام کرنے نکلا اور اب موت کو سامنے دیکھ کر بزدلی کے ٹسوے بہانے بیچے گیا یہ کیا بات
 ہے؟" قاتل نے جواب دیا: "خدا کی قسم میں موت سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس
 صدمہ میں رو رہا ہوں کہ میرے دونوں ساتھی تو علی رضہ اور معاویہ رضہ کے قتل میں کامیاب ہو جائیں
 گے اور میں ناکام رہ گیا۔" عمروؓ نے اس کی گردن مار دینی کا حکم دیا اور نعش کو سولی پر لٹکا دیا۔
 لیکن وہی عمروؓ جو ۳۷ھ میں اس طرح موت کے چنگل سے بچ سکے تھے۔ تین سال بعد آخر کار
 اس کے حوالے ہو کر ہی رہے۔

ابن عساکر کی روایت ہے کہ:-

ہم عمرو بن العاص کے پاس ان کی وفات کے وقت گئے تو انہوں نے دیوار کی
 طرف منہ کیا اور دیر تک روتے رہے۔ اس پر ان کے بیٹے نے کہا: "آپ کیوں رو
 رہے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ یہ بتائیں نہیں دے رکھی ہیں۔ یہ سن کر
 انہوں نے اپنا منہ ان کی طرف کیا اور فرمایا "میرے پاس بڑی سے بڑی کوئی امید ہے تو
 بس یہ ہے اشھد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا رسول اللہ۔ باقی میری عملی زندگی
 تین حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ میں میں اپنے آپ کو صحیحان کا سب سے بڑا دشمن
 اور اس بات کا حریف بنا ہوں کہ موقع پا کر ان کا کام تمام کر دوں۔ اگر میں عمر کے اس حصہ
 میں مرجع ہوں تو یقیناً سیدھا دوزخ میں جاؤں۔ اس کے بعد میری زندگی کا دوسرا اور شروع

ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں اسلام کی صحت ٹھکانے دی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشرف باسلام ہونے کے لئے حاضر ہوا۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بیعت کر لوں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کیسے لیا۔ اور عرض کیا کہ پہلے ایک شرط کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ میرے پچھلے تمام قصور معاف فرماویں جس پر آپ نے فرمایا کہ یہ تو تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام پچھلی تمام آلودگیوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہجرت اور حج بھی گزشتہ تمام گناہوں کو محو کر دیتے ہیں؛ اس کے بعد میں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ اس حد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میری نگاہ میں کوئی دوسرا صاحب عظمت و جلال نہیں تھا۔ اور اگر مجھ سے کہا جاتا تھا کہ نبی کی تعریف کرو۔ تو میری زبان بے پروا کی بنا پر یاد نہیں دیتی تھی۔ یہاں تک کہ میں غایت ادب کی بنا پر آپ کے چہرہ مبارک کو نظر بھر کر دیکھ بھی نہ سکتا تھا۔ اگر میں اس حالت میں مرجاتا تو یقیناً سیدھا جنت میں جاتا۔ پھر اس کے بعد تیسرا دور آیا جس میں میں حاکم اردو بنایا گیا۔ اب مجھے کچھ خبر نہیں ہے کہ اس دور میں ہماری کیا حالتیں رہیں۔

عمر نے اپنے بیٹوں کو مندرجہ ذیل وصیتیں کیں۔

میں مرحاؤں تو مجھ پر نوحہ نہ کرنا۔۔۔۔۔ جب قبر میں اتار دو تو جلدی جلدی مٹی بھر دینا۔ اس لئے کہ میری دائیں کرہ بے مٹی کی ویسی ہی حق فار ہے جیسی بائیں کرہ بے مٹی ہے۔ میری قبر میں تپھر اور مٹی نہ رکھنا پھر جب دفن سے فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ مجھے اپنے رب کے پیچھے ہونے کا اصول سے سوال و جواب کرنے میں تمہاری موجودگی سے مہرارا ہے گا۔

انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ بھی کہا کہ۔۔۔ اے میرے بیٹو اللہ کے معاملے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو۔ بیٹوں نے جواب دیا۔ "ابہان! اگر قبلا مقابلہ موت کے سوا کسی اور سے ہوتا تو ہم اپنی جائیں آپ کی امداد میں قرآن کرہ دیتے۔ پھر کہا۔ "مجھے نہارا دے کر بٹھا دو۔ پھر جملہ رو ہو کر کہا۔ "اے اللہ تو نے حکم دیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو نے گناہ سے منع کیا۔ لیکن ہم اس کا ارتکاب کرتے رہے۔ یہ حال رہا اس شخص کا جو آج نیری پناہ میں آنا چاہتا ہے۔ اگر تو اسے معاف کر دے تو یہی تیری شان ہے۔ اور اگر بڑھاپا ہے تو میں اسی کا سزاوار ہوں۔"

اے اللہ کوئی طاقتور نہیں جس سے دو طلب کروں۔ کوئی صاحبِ عظمت نہیں جس سے تصور معاف کراؤں۔ تیرے سوا مجھے کوئی کیریائی کا مالک اور پردہ پوش نظر نہیں آتا۔ اس لئے تجھ ہی سے منعوت چاہتا ہوں۔ اور تیری طرف ہی پلٹ کر آ رہا ہوں۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی تکرار کرتے رہے اور اسی تکرار میں ان کی جان نکل گئی۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ حالتِ نزوح میں ان کے بیٹے نے اُن سے کہا:-
 "ابا جان آپ ہمارے سامنے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کسی ایسے عاقل ہو شمنم سے اس کی حالتِ نزوح میں ملاقات کرتا جو مجھے یہ بتا سکتا کہ ہاں کنی کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ابا جان آپ ہی ایسے آدمی ہیں اور میں آپ ہی سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہم سے موت کی کیفیت بیان فرمادیں۔"

اس پر عروٹے جواب دیا:-

بیارے بیٹے خدا کی قسم ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے آسمان نے زمین کو ڈھانپ لیا ہے۔ اور میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں۔ اور موت ایک کانٹوں بھری شاخ ہے جو میرے اندر پاؤں سے لے کر ستر تک کھینچی جا رہی ہے۔
 اس کے بعد یہ شعر پڑھا

یستحق کنت قبل ما قدمی فی سہودیں الجبال ارضی السوعسولا
 توجہ: یعنی کاش میں اس سے پہلے جو مجھے اس وقت پیش آ رہا ہے۔ کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہاڑی بکرے چرایا کرتا۔

مرنے کے بعد عروٹے نے ترکہ میں تین سو پچیس سونے کی اشرفیاں، بیس لاکھ چاندی کے درہم، مقامِ ریط کی مشہور جائیداد جس کی قیمت دس ہزار درہم تھی اور اس کے علاوہ مصر کے متعدد مکانات چھوڑے

ایک روایت کے مطابق انہوں نے اپنے ترکہ میں ستر ہزار دینار چھوڑے جنہیں انہوں نے

لے بعد اپنی عمارتوں میں ان کے انگوٹوں کی ٹھالی تھیں جن میں ایک لاکھ کلوڑیں لی ہوئی تھیں۔ اور ہر کلوڑی کی قیمت ایک درہم تھی۔

یہ روایت دہری کی ہے اور کتاب الجیوان میں درج ہے
 لے بیاریل کی کمال کو کہتے ہیں جن میں دو ادب دفن آجاتا تھا

موت سے پہلے نکال کر کہا تھا کہ ان کا مالک کون بنتا چاہتا ہے؟ تو ان کے دونوں بیٹوں نے ان کے لیے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر جب اس کی اطلاع حضرت مساویہ رضی اللہ عنہا کو ہوئی تو انہوں نے کہا اس مال کے حق دار ہم ہیں۔ اس لیے کہ تمہارے باپ نے اسے دشمن کے مقابلہ میں خرچ کرنے کے لئے جمع کیا تھا۔ اور یہ کہہ کر اسے بیت المال میں داخل کر لیا۔

عمرو بن العاص سفح المقلم ہیں دفن کیے گئے۔

قبر کے مقام میں اختلاف ہے۔

ایک قول کے مطابق ان کی قبر امام شافعی کی قبر کے مغرب میں واقع ہے۔

بعض اس قبر کو عمرو کے محلے کے قاضی فلس کی بتاتے ہیں۔

دوسرے قول کے مطابق عمرو اور عقیقہ ابن عامر دونوں ایک ہی قبر میں دفن ہیں۔

تیسرے قول کے مطابق عمرو، عقبہ اور ابو بصیر غفاری تینوں کی قبر ایک ہی ہے۔

یہ تھا عمرو کی زندگی کا آخری باب جو مسلسل غزوہ و جہاد اور قتل و قاتل میں بسر ہوئی۔

عمرو ہی پر کیا موت ہے ہر انسان کی زندگی کا خاتمہ الہا ہی ہے۔

عمرو کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے

(۱) العرتان الہ ہر اذت حورفہ علی عرش السہمی تجہلہ مصر

(۲) فلم یضن عنہ حزمہ ولا حنیاطہ ولا جمعہ لنا انتیجر لہ الہا ہر

(۳) وامن متقیما ہا المراد وفضلت مکاتباہ عنہ واماوالہ الہا شر

ترجمہ: ۱۔ نا، کیا تم نے نہیں دیکھا۔ زمانے کی گردش نے اس عمرو سہمی کو بھی اپنی گرفت سے نہیں بچھے دیا۔

جس کے سامنے مصر جیسی سرزمین باج گزار تھی۔

(۲) اُسے تقدیر کے اہل فیصلے سے نہ اس کی حرم و احتیاط ہی بچا سکی اور نہ اس کی حیثیت و تقدیر۔

(۳) آخر کار اسے اپنے ہی ہم قتل و فراموش اور کثرتِ اموال کے علی الرغم چیل میڈاں ہی کو اپنا وطن مانو

اور آخری اقامت گاہ بنا نا پڑا۔

باب پہلوا

عمرو اور قیادت

- قیادت کے معنی
- ایمان
- قائد کی شخصیت
- فوج کا انتظام
- سیاست و کیامت

قیادت کے معنی

فنِ حرب خواہ کتنا ہی ترقی کر جائے اور اسلحہ جنگ خواہ کیسی ہی جدت اختیار کر لیں، ہر حال میں اُن کا انتظام و انصرام انسان ہی کے ہاتھ کا محتاج رہے گا۔

جو فوج بھی کسی میدان میں فتح و نصرت حاصل کرنے کے لئے کبھی نکلے گی اُسے دیگر عوامل کے ساتھ سب سے اہم اور سب سے بڑے عامل قیادت یعنی رہنمائی سے ہمیشہ واسطہ پڑتا رہے گا۔ جس کے بغیر نہ فوج لڑ سکتی ہے اور نہ کسی میدان میں اُسے فتح حاصل کر سکتی ہے۔

جو شخص بھی کسی میدان جنگ کی قیادت سنبھالنے کی حماست کرے گا اُسے قدم قدم پر ملکہ قیادت، صفات قیادت اور قدرت قیادت کی ضرورت پیش آئے گی۔

آئیے اب ہم یہ معلوم کریں کہ قیادت کی تعریف کیا ہے۔ جنگ کے بعض ماہرین خصوصی کے نزدیک قیادت انسان کی طبیعت اور اس کے مزاج کے ساتھ معاملہ کرنے کا نام ہے۔

بعض کے نزدیک انسانوں کی جماعت پر بخت و تمحیص، ہدایت و ارشاد اور رغبت و توجہ کے ذریعے اثر ڈالنے اور پھر اس اثر کو کام میں لاکر انہیں ایک معین راستے اور مقررہ منزل کی طرف اتحاد و اتفاق اور اطاعت و اعتماد کے ساتھ چلانے کا نام قیادت ہے۔ جسے مختصر عبارت میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ — قیادت اُس فن کا نام ہے جس کے ذریعے انسانوں کو کسی معینہ منزل کی چلنے کے لیے آمادہ اور تیار کیا جاتا ہے۔

قیادت اگرچہ کوئی ایسا فن نہیں ہے جسے احاطہ نظر میں لایا جاسکے۔ لیکن اس کے اثرات اور نتائج کے ذریعے اُسے احاطہ علم میں ضم کر لیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا رابطہ سراسر قوائے مصنوعیہ مثلاً رغبت و شوق، شور و احساس، مقصد و مدنی اور فرد و جماعت کے عقلی احساسات اور ذہنی کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جسے پیشانی کی آنکھوں سے دیکھا جاسکے۔

قیادت کا مرتبہ و مقام عواہل حرب میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ یہاں تک کہ میدان جنگ میں فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے فوجوں کو جمع کرنا بھی اتنا زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا جتنا مفید اچھی قیادت کا فراہم کرنا ہوتا ہے۔

جنگ کے لیے قیادت جتنی ضروری ہے۔ اتنی ہی قیادت کے لئے قابلیت اور لیاقت ضروری ہے۔ لیاقت سے مراد قائد کی روح۔ اس کے اندرونی قومی اس کا تجربہ اور اس کا فوج کے ساتھ ایسا رابطہ اور ہمتاؤ ہے جس کے نتیجے میں فوج کا ایک ایک سپاہی اپنی جان کو خوشی کے ساتھ قربان کر دینے کے لیے پیش کرے

کامیاب قیادت کی جدید مثال نپولین کی قیادت ہے جس نے بے سرو سامان فوج کو لے کر دیکھتے ہی دیکھتے اُلب کے پہاڑوں کو عبور کر کے اٹلی اور لہار ڈیا کی سر زمین پر چھڑا گاڑ دینے میں کامیابی حاصل کی بلکہ

اور قدیم مثال حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قیادت ہے۔ جنہوں نے بدر کے میدان میں کثیر المتعدا و قریش کو مٹھی بھر مسلمانوں کے ذریعہ شکست دے کر اعلیٰ ترین قیادت کا نمونہ پیش کیا۔

قائد جس قسم کا ہوتا ہے فوج بھی اسی قسم کی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی فوج کو کارساز اور لائق قائد نصیر آجاتا ہے تو اس کی قوت میں اس کی تعداد سے کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔

قیادت یا رہنمائی فوجی زندگی ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اس کی ضرورت زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی پیش آتی ہے۔ اور ہر شعبہ میں یہ اپنا اثر فیصلہ کن حد تک رکھتی ہے۔

قیادت کے علم اور استعداد کے بارے میں بھی اہل علم کے درمیان کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ استعداد سب لوگوں میں نہیں ہوتی اور جن میں ہوتی ہے وہ بھی

۱۷۰۰ نپولین کے پاس بے سرو سامان فوج تو تھی مگر جس وقت جنرل نادر خاں پیرس سے افغانستان آیا تو اس کے ساتھ تو کوئی بھی متنفس نہ تھا مگر وہ اپنی الوازعہ کی بدولت آخر کار تمام افغانستان کا مطلق افغان بادشاہ بن گیا۔ مگر اسے کیا کیجئے کہ ہمارے ذہنوں پر خواہ وہ پاکستان کے ادیب ہوں یا مسر کے انشا پرداز برٹری یورپ کا ایسا رعب مٹیٹا ہوا ہے کہ اُن کو جب کوئی مثال دینی ہوتی ہے تو اُن کے سامنے اُس وقت بھی کسی یورپ کی تصویر آتی ہے اور ملاؤں کے کارناموں کو وہ یکسر بھول جاتے ہیں۔ (محمد احمد بانی تہی)

پیدائشی ہوتی ہے جسے کسب اور کوشش سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

بعض دوسرے اس کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ یہ استعداد انسانیت کے جوہر اصلی میں داخل ہے اور کم و بیش ہر شخص میں پائی جاتی ہے۔

جب یہ بات پایہ ثبوت اور حد تجربہ کو پہنچ چکی ہے کہ فوج قائد کی صفات، اس کے سلوک اور اس کے نمونہ کردار سے غایت درجہ اثر قبول کرتی ہے تو پھر ہر قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر قیادت کی بہترین اور اعلیٰ ترین صفات پیدا کرے تاکہ وہ اپنے مقصد میں زیادہ سے زیادہ کامیاب اور فائز الہام ہو سکے۔

قیادت کی ضروری اور لازمی صفات کے بارے میں بھی اگرچہ اقوال مختلف ہیں لیکن مندرجہ ذیل صفات پر تقریباً سب ہی کا اتفاق پایا جاتا ہے۔

- (۱) یقین و ایمان (۲) بھروسہ و اعتماد (۳) نظم و نطق (۴) مقابلہ اور تصادم (۵) حفظ افواج
- (۶) حقائق کا مقابلہ (۷) قدرت و قابلیت (۸) شخصیت و رجحانیت (۹) شجاعت و دلیری
- (۱۰) درستی اندازہ (۱۱) تدبیر و حیلہ اور (۱۲) ایثار ذات

ہم چونکہ اس باب میں عمرو کی قیادت سے بحث کر رہے ہیں اس لئے مندرجہ بالا صفات کے آئینہ میں عمرو کی قیادت کو دکھانا چاہتے ہیں۔ جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ وہ صفات کس یا کتیں جنہوں نے عمرو کی شخصیت کو تاریخِ حرب کے اعلیٰ مقام پر پہنچا کر ہمیشہ کے لئے نمونہ تقلید بنا دیا ہے۔

(۱) ایمان

عربوں کا عاصی جزیرہ عرب میں پیدا ہوئے۔ جہاں بتوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ اور آبادی چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں تقسیم تھی۔ جن کے درمیان اگر کوئی ربا و تعلق تھا تو وہ محبت کے بجائے عداوت کا اور انصاف کے بجائے زبردستی کا تھا۔ ایسی صورت حال میں دعوتِ محمدی نے ظاہر ہو کر انہیں اخوت و محبت اور عدل و مساوات کی طرف بلا یا اور ان پر ہی عادات سے نفرت دہانی شروع کی جن کی فرماں روائی تمام جزیرہ عرب پر قائم تھی۔ اور ایک قدم اس سے بھی آگے بڑھ کر اس دین کو بھی نشانہٴ تنقید بنایا جو سارے جزیرے کا دین تھا اور اس کے بجائے ایک نیا دین پیش کر دیا۔

جزیرے کی اکثریت نئے دین کے مقابلہ میں غم بھٹنک کر کھڑی ہو گئی اور تلوار سونت کر میدان میں نکل آئی۔ نئے داعیوں کو نشانہٴ ظلم و ستم بنانا شروع کر دیا۔ جس سے تنگ آکر وہ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔

کیا حبشہ عرب سے دور تھا.....؟ اور کیا عربوں کے گھٹنوں میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ وہ بھاگنے والوں کا نقاب حبشہ تک کر سکتے؟ تھا، اور ضرور تھا اور صرف اس لیے تھا کہ ان کے درمیان ایسے مواقع کے لیے ایک اقدام پسند بہادر موجود تھا جو خاص کا بیٹا اور عمرہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس تمہید سے ہم یہ بات نکالنا چاہتے ہیں کہ عمرہ نے دعوتِ اسلامیہ کے مقابلہ میں ان عربوں کو جزیرہ اور بیرونِ جزیرہ دونوں جگہ ایسی شدید جنگ لڑی جس میں صلح کے لیے کوئی لچک موجود نہیں تھی۔ بیرونِ جزیرہ کا ثبوت اُس کا وہ قول ہے جو اُس نے نجاشی سے کہا تھا: "یہ لوگ ایک انوکھا دین بنا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ اور اس دین کا اصل بانی ایک مجھوٹا آدمی ہے جو اپنے آپ کو خدا کا رسول کہتا ہے کچھ بیوقوف قسم کے لوگ اس کے ساتھ مل گئے ہیں۔ دن گورتے گئے اور دینِ قومِ محمد و سعادت اختیار کرنا اور قریش کے بہادریوں کو شکست پر شکست دیتا چلا گیا۔ عرب بھی اپنی حد نگاہ تک دینِ جدید کی کامیابی کو دیکھتے رہے۔ اور بالآخر اُس

مقام تک پہنچ گئے جس پر کھڑے ہو کر وہ خود بل اُٹھے کہ یہ بات کھل کر سامنے آگئی ہے اور میرے دل میں اسلام گھر کرتا جا رہا ہے! اور انہی کی صلواتے بازگشت تھی جو ان کے دوست نجاشی کی زبان سے بھی اس طرح سنائی دے رہی تھی کہ ا۔

”عمرؓ محمد کی تابعداری اختیار کر لو۔ اس لیے کہ خدا کی قسم وہ حق پر ہیں اور یقیناً وہ اپنے مخالفین پر اسی طرح غلبہ پاتے چلے جائیں گے جس طرح حضرت موسیٰ نے فرعون اور افواج فرعون پر غلبہ پایا تھا۔“

عمرؓ اس مرحلہ پر پہنچنے کے بعد اپنے ضمیر کے تقاضے کو زیادہ دیر تک دبا نہیں سکتے تھے چنانچہ وہ ایمان لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر اعلان اسلام کرتے وقت اپنی سابقہ غلطیوں کی معافی کا بھی اظہار کیا

ایمان لانے کے بعد عمرؓ مسلمانوں میں بھی صدارت ہی کے مقام پر فائز ہوئے۔ اور چونکہ ان کا ایمان خود رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی ایک مضبوط اور راسخ ایمان تھا اس لیے حضور نے انہیں ایک ایسی مہم کے لیے دعوت دی جس کے نتیجے میں مالی کثیر کی اُمید تھی۔ تو عمرؓ نے اپنے اخلاص ایمانی ہی سے مجبور ہو کر حضور پر نور سے عرض کیا تھا کہ :-

”میرے آقا! میں نے مال کے لالچ اور دنیا کی طمع میں اسلام قبول نہیں کیا۔ بلکہ اُسے حق اور صداقت سمجھ کر قبول کیا ہے۔“

اس باب میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں کہ وہ عمرؓ کا ایمان ہی تھا جس نے انہیں ذات المسلمین میں اعداد اسلام کے مقابلہ میں تلوار کھینچ کر میدان میں نکل آنے پر آمادہ کیا تھا۔ وہ بھی ایمان ہی کا شعلہ تھا جس نے انہیں عہد صدیق میں فتنہ ارتداد کے مقابلہ میں سرکوب کر دیا تھا۔

فلسطین کے جماد میں بھی ان کی جاں بازی اور قیادت افواج ایمان ہی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تھی۔

پھر عہدِ قاروقی میں مصر کا تاریک راستہ بھی انہیں ان کی مشعل ایمانی ہی نے ان کے سامنے روشن کیا تھا

اور مصر کے بعد برقاہ طرابلس، اتر اور شمال افریقیا کی دور دراز سرزمین کو بھی ان کے ایمان اور یقین

کے مقابل میں ہی نے اُن کے لیے نزدیک تر بنا دیا تھا۔
 بہر حال عمرو کا ایمان قوی اور ناقابل شکست تھا اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے
 کہ ان کی افواج نے بھی ان کی قوتِ ایمانی کا پورا پورا عکس قبول کیا تھا۔ اور جو عظیم الشان فتوحات
 ان کو حاصل ہوئیں ان میں قوتِ ایمانی نے پورا پورا کردار ادا کیا۔
 ایمان کی جڑ اور اس کا تہہ مضبوط ہو جانے کے بعد پھر اُس تہ سے جو شاخ بھی نکلتی ہے وہ
 مضبوط اور شاداب ہی ہوتی ہے۔ عمرو کا ایمان بالذکر ایک ایسی مضبوط جڑ تھی جس سے ہر ہر قدم
 پر جو دی مقاصد کے لیے ایمان کی شاداب شاخیں نکلتی اور کامیابی کے برگ و بار لاتی رہیں۔ اور جو
 مقصد جو تدبیر جو معرکہ اور جو محاذ بھی ان کے سامنے آیا اس پر وہ پورے بھر دسے پورے عزم
 پوری جدوجہد، پورے اخلاص، پوری شجاعت اور بھرپور ایمان و یقان کے ساتھ جم گئے۔ اور
 آخری مقصد ہمیشہ ایک ہی رکھا اور وہ تھا اشاعتِ اسلام اور شہادتِ نبی سید المرسلین

(۲) شخصیت

شخصیت کی کوئی جامع اور منطقی تعریف کرنا تو مشکل ہے۔ البتہ اس کا لغات میں ان الفاظ میں کرایا جاسکتا ہے۔

بعض کے نزدیک شخصیت ان صفات کے مجموعہ کا نام ہے جن کے ذریعہ ایک فرد دوسرے فرد سے امتیاز حاصل کرتا ہے۔

بعض کے نزدیک شخصیت ان جسمانی، عقلی اور اخلاقی صفات کے مجموعہ کا نام ہے جن سے کوئی انسان متصف ہو۔

بعض کے نزدیک شخصیت ان امتیازات کے مجموعہ کا نام ہے جن کی بنیاد پر افراد کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔

شخصیت کے کچھ اجزاء اولیٰ ہیں اور کچھ اجزاء ثانوی۔

شخصیت کے اجزائے اولیٰ وہ نسبتی صفات اور نسبتی قوتیں ہیں جو اپنی نوعیت اور اپنی مقدار کے اعتبار سے افراد کے درمیان گھٹتے بڑھتے اور مختلف ہوتے رہے ہیں۔ اور ان کے گھٹنے بڑھنے ہی سے شخصیات ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہوتی ہیں۔

شخصیت کے اجزائے ثانوی وہ عوامل ہیں جو باہر سے اس کے اندر داخل ہوتے اور اس کی تشکیل میں مدد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ان عوامل میں کبھی کبھی فطری ہوتے ہیں کبھی موروثی اور کبھی کسی واقعاتی۔ جو موقوف ہیں حالات و ماحول اور خصوصی تجربات پر

شخصیت کے انہی اجزائے اولیٰ و ثانوی کی روشنی میں ہم عمر ثوبن عاص کی ذات و صفات کو دیکھنا اور دکھانا چاہتے ہیں۔

۱۔ بھروسہ | اعتماد علی النفس شخصیت کے بنانے اور اس کو سمجھنے کرنے کا سب سے بڑا عامل ہے۔ جس شخصیت میں خود اعتمادی پیدا ہوگی اس کے ہر عمل میں جان پڑے گی اور اس کا ہر اقدام کامیابی کی منزل

تک پہنچ گیا۔

بھروسہ پیدا ہوتا ہے فوج کی قدرت و طاقت سے۔ اور جس شخص کو خود اعتمادی کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ ہر صورت حال کا مقابلہ اطمینان قلب اور یقین نصرت کے ساتھ کرتا ہے۔ عمرو کو اس صعوبت کا کتنا حصہ ملا تھا۔ اور انہیں اپنی ذات پر کس قدر بھروسہ اور اعتماد حاصل تھا، اس کا اندازہ ان کی جنگوں اور دیگر کارناموں سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

عمرو ذات السلاسل میں اپنی فوج کو ترتیب دے رہے تھے کہ اُن تک وہ امداد پہنچ گئی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کی قیادت میں روانہ کیا تھا۔ ان ابو عبیدہ نے جب اس بات کا اظہار کیا کہ فوج کی عمومی قیادت بھی ان ہی کے حوالے کر دی جائے تو عمرو نے ان کی خواہش کو رد کر دیا اور اس رو کی وجہ یہ تھی کہ عمرو کو اپنی ذات پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی پوری اہلیت رکھتے ہیں۔ اور فرائض قیادت ادا کرنے میں ابو عبیدہ سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ چنانچہ قیادت کا منصبہ عمرو ہی کے حق میں رہا۔

دوسرے موقع پر عمرو امد قرہ بن سیرہ کے باہن ملاقات ہوتی ہے جس میں قرہ عمرو کو ان کے جہاد مرتدین و منکرین زکوٰۃ کے موقف سے کچھ کزور کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ:-

”عرب تمہارے ٹمکیں گزار بن کر زندگی گزارنا ہرگز گوارا نہ کریں گے۔ اس لیے اگر تم انہیں زکوٰۃ کی معافی دے دو تو اس کے بعد وہ تمہارے مطیع و مستقاد بن جائیں گے۔“

تو اس کا جواب عمرو نے یہ دیا تھا کہ:-

”میں تجھے اس وقت جہنم کے کنارے پر دیکھ رہا ہوں اور اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اور تیری جماعت اس کے اندر گرجانے کے لئے تیار کھڑی ہے۔“

اس کے بعد عمرو کا اعتماد و نفس اُسے مزید جھنجھوڑتا ہے:-

”کیا تو ہمیں عربوں سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ سن لے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اُن کو امدان کے ساتھ تجھ کو بھی گھوڑے کی ٹاپوں سے پامل کر کے رکھ دوں گا۔“

عمرو کا یقین ذات اس سے بھی آگے بڑھ کر لگتا ہے:-

”اے تیری گردن دلوچ کر ہی رہوں گا، خواہ تو اس کے آگے جنات کی

باڑھ ہی کیوں نہ کھڑی کر دے۔“

یہ لوگ کے موقع پر بھی عمرو کا اعتماد ذات ہی تھا جس نے پورے بھروسے کے

ساتھ مسلمانوں کی انفرادی قیادتوں کو اپنے پُر اعتماد شہسے سے ایک قیادت میں تبدیل کیا تھا اور پھر اس خوفناک جنگ میں فتح میں حاصل کر کے گویا ایک بہترین عملی دلیل اپنی رائے کی اصابت پر قائم کر دی تھی۔

ارطوبون روم کے مقابلہ میں نکلنے کی جرأت عمرؓ کو بھی نہ کرتے اگر انہیں اعتماد اور بھروسے کی لازوال طاقت حاصل نہ ہوتی، اور پھر اس طاقت میں مزید شعلہ سامانی خلیفہ عمرؓ کا یہ قول پسیرانہ کہ دیتا کر :-

”ہم نے بھی ارطوبون روم کے مقابلہ میں اپنا ارطوبون عرب بھیج دیا ہے“ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمرؓ ارطوبون روم کے بھر سے دربار میں بذات خود سفیر بن کر گئے اور اپنی شخصیت کو پوشیدہ رکھتے ہوئے کامیاب جاسوسی کر آئے، اور ارطوبون کی آنکھوں میں ایسی دھول جھونک آئے جس کے بعد اُس نے خود اپنی زبان انفعال سے اس بات کا اعتراف کیا کہ ”عمرؓ یقیناً سادھی دنیا سے زیادہ چالاک اور شہ پار شخص ہے“

اسی اعتماد علی النفس اور یقین ذات کا حیرت انگیز مظاہرہ اسکندریہ میں محصور ہو جانے کے وقت ہوا۔ جب رومی اسکندریہ میں مہرے چار مسلمان تھے جن میں سے ایک خود عمرو تھے۔ اور طے پایا تھا کہ تم میں کا ایک ہمارے پہلوان کا مقابلہ کرے، اگر وہ غالب آجائے گا تو تم کو رہا کر دیا جائے گا، اور مغلوب ہو گیا تو چاروں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو رومی پہلوان کے مقابلہ میں سب سے پہلے عمرؓ ہی نے پڑھنے کا ادا وہ کیا تھا۔

غرضیکہ اپنی ذات پر بھروسہ تعمیر شخصیت کا ایک اہم عامل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو قائد اپنی ذات پر بھروسہ کرے گا اس کی فوج بھی اُس پر یقیناً بھروسہ کرے گی اور جو قائد خود اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتا اُسے اس بات کی کبھی امید نہ کرنی چاہیے کہ دوسرے اُس پر بھروسہ کریں گے۔

عمرؓ کے اعتماد ذات کی جو مثالیں ہم نے اوپر پیش کی ہیں انہی کی یہ برکت تھی کہ فوج اور قوم دونوں کو عمرؓ پر بھروسہ تھا۔

اگر عمرؓ مصر کی طرف رعیت دلاتے ہوئے اپنے پورے اعتماد نفس کا ثبوت نہ دیتے تو یقیناً حضرت عمرؓ مصر کی انجمن میں کبھی نہ پڑتے۔

اس کے بعد جب عبداللہ بن ابی مرہ کے دور میں منویٰ نے دوبارہ اسکندریہ کی دہلی اور

مصر کی بازیابی کے لئے فتوحات شروع کر دی تھیں تو اہل مصر کو اگر عمرو پر بھروسہ نہ ہوتا تو وہ حضرت عثمانؓ سے عمرو کو بھیجنے کا مطالبہ نہ کرتے۔
چونکہ عمروؓ خود اپنی ذات پر اعتماد کامل رکھتے تھے اس لیے قوم کو بھی ان پر پورا پورا اعتماد تھا۔ اور اسی اعتماد کی بنا پر انہوں نے دوبارہ مصر پہنچ کر منویل کو مصر سے مار کھجایا تھا۔

(۲) **مشکل پسندی** | اس بات پر بھی علمائے نفس کا اتفاق ہے کہ فرد قوی وہی ہے جو ذمہ داریوں کا متلاشی رہے اور فرد ضعیف وہ ہے جو ہمیشہ ذمہ داریوں سے جی چڑائے۔ اور اس طرح ذرا اختیار کرے جیسے خرگشاہ درندوں سے ذرا اختیار کیا جاتا ہے۔

ذمہ داری کی تلاش اور ان کو قبول کرنا فرد کے اندر قیادت کی صلاحیت، کار پر داری کی قدرت، اعتماد علی النفس، یقین محکم، جرأت و اقدام، پیش قدمی اور تعاون کی صفات کو پرورش کر کے اُسے بڑے بڑے کام کر جانے کے قابل بناتا ہے۔

حضرت ابو بکرؓ نے جب منکرین نذوقہ اور مرتدین سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت عمرو بن العاص فقہاء میں مقیم تھے۔ خلیفہ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ:-

”اے ابو عبداللہ! میں تمہیں ایسے کام کے لئے فارغ کرنا چاہتا ہوں جو تمہاری معاش اور معاد دونوں کے لئے بہتر ہو گا۔“

پھر اس پر استدراک کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”اے یہ کہ تم اپنے لیے اسی حال کو پسند کر دو جس پر تم اس وقت ہو۔“

حالانکہ خلیفہ کا یہ استدراک عمروؓ جیسے شخص کے لئے بے محل اور خلافت واقعہ تھا۔ اس لیے کہ عمروؓ کے پاس سے یہ فرض ہی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ وہ کسی بھی ذمہ داری سے جان چڑا سکتے ہیں۔ چنانچہ عمروؓ کی طرف سے خلیفہ کے پاس اسی قسم کا جواب آیا بھی۔ جس میں انہوں نے عرض کیا:-
..... آپ ان میں سے ایسے تیر کو منتخب فرمائیں جو دشمن کے سامنے سخت ترین،

خدا کے سامنے نرم ترین اور آپ کے نزدیک افضل ترین ہو۔ اور پھر اُسے جس

سمت چاہیں پھینکیں۔.....“

عمروؓ کے کاندھوں پر مرکز خلافت کی طرف سے ڈالی گئی ذمہ داریاں بظاہر اُس وقت ختم ہو جاتی ہیں جب انہوں نے خلیفہ حضرت عمرؓ کو بیت المقدس کا چارج دلوادیا تھا۔

لیکن ذمہ داریاں اُس شخص کی نسبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں جو ایک اہم شخصیت بننے کی طبع نبلی ڈال رہا تھا۔ اور جسے تاریخ کے درختاں اُغٹ پر ابھی بہت سے چاند اور ستارے روشن کرنے تھے۔ اُس کے اعصابِ طہطہین سے بھی بڑھی اور کھٹن ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے انگڑاٹھیاں لے رہے تھے۔ اور بالآخر انہوں نے خلیفہ عمرؓ کو ایک ایسے پُرخطر اقدام پر تیار کر ہی لیا جس کے بارے میں وہ کبھی سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اور مشکل پسندی کی انتہا کر دی۔ جب خلیفہ سے صرف چار ہزار فوج لے کر مصر حبیبی وسیع مملکت پر چڑھ دوڑے۔

مصر کے حاصل کر لینے کے بعد بھی ان کی مشکل پسندی کی پیاس نہ بجھی تو برقر اور طراہیں کی طرف پڑھ گئے۔ وہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے اگر خلیفہ عمرؓ ٹھکرا نہیں آگے بڑھنے سے نہ روک دیتے۔

مشکل پسندی یا تلاشِ ذمہ داری کی صفت کو دو اور صفات سے نہایت گہرا ربط ہے۔ جن میں سے ایک پختگیِ ارادہ ہے اور دوسری ثباتِ قدمی ہے۔ جو فرد بھی مشکل پسند یا ذمہ داری کو دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ لازمی طور پر مضبوط ارادے کا مالک اور پھر اس ارادے کی تکمیل کے لیے اسباب و ذرائع اور حالات و مواقع کی فراہمی پر ثابت قدم اور مستقل مزاج بھی رہتا ہے۔

عمرؓ کی تمام صبر آزما اور طویل جنگوں میں اُن کے سامنے اپنے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارادہ قوی اور وہ استقلالِ مزاج نورۃً تقلید رہا جس کا ثبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہٴ عرب میں دینِ جدید کی دعوت کے دوران پیش کیا تھا کہ ایک طرف اہل عرب اور بالخصوص قریش کا شدید ترین دباؤ تھا اور دوسری طرف فرد واحد کا آہنی عزم اور کہہ سکن استقلال جس نے بالآخر فتح حاصل کی اور جزیرہٴ عرب پر لالہ اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لگا کر چھوڑا۔

اور عمرؓ بن العاص اپنے اقدامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشادِ گرامی بھی ہر جگہ اپنے سامنے رکھتے تھے جو آپ نے اپنے چچا سے فرمایا تھا کہ :-

”چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لاکر رکھ دیں گے

تو میں اس کام کو ہرگز نہ چھوڑوں گا۔“

اور تاریخ اسلام ہمیں یقین دلاتی ہے کہ عمروؓ کے کانوں میں حضور کا یہ قول برابر گونجتا رہا۔ ہمیں یاد ہے کہ عمروؓ کے سامنے فتوحات کے مددگاروں میں مصر کے حاکم نے گرانقدر مال پیش کیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ وہ مصر سے واپس چلے جائیں تو انہوں نے اس مال کو پائے حقارت سے ٹھکراتے ہوئے نہایت کر دیا تھا کہ ہم مال کے لیے نہیں، اسلام اور صرف اسلام کے لیے لڑنے آئے ہیں اور ہمساری

قدر و قیمت اُس سے بہت وراہِ الہیہ ہے جو مصر کے حکمران سمجھتے ہیں۔
 عمرو کا مصر سے بھی آگے مزب کی طرت بڑھ جانا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ان کو شکل لپیڑی
 قبولِ خطرات اوت اراوہ اور مستقل مزاجی کی صفات کس پیمازہ پر حاصل تھیں اور ان کی شخصیت کی
 تعمیر میں ان صفات کا کتنا اہم حصہ تھا۔

(۳) عملی نمونہ | زوج اپنے قائد سے بچتا اثر برتی ہے۔ وہ اس کے نقشِ قدم پر چلتی اور اُسے ہلکام
 میں اپنے سامنے ایک مثالی نمونہ بنا کر رکھتی ہے۔ ایسا نمونہ جس میں سرتاپا خوبیاں ہی خوبیاں نظر
 آئیں اور عیب ایک بھی دکھائی نہ دے۔ اور پھر اس کی تقلید بھی اس حد تک کرتی ہے، کہ
 کہنے والے کے اس قول کو سچ کر دکھاتی ہے کہ :-
 ”حیياتنا ولسی فوج“

قائد کے لینے نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنی اُس فوج کے لیے جس سے قدم قدم پر قوت
 قدرت، شجاعت، اقدام اور قربانی کی امید رکھتا ہے اور اپنے ایک اشارہ اور پرموت تک
 سے کھیل جانے کا آرزو مند ہے، ضروری ہے کہ وہ خود بھی اُن کے سامنے ایک کامل نمونہ تقلید
 بنے۔ جس کے نقشِ قدم پر چل کر وہ بھی اس کی آرزوؤں کی تکمیل کریں۔

تہذیبِ فات السلاسل میں مسلمانوں نے عمر شہداء سے آگ روشن کرنے کی اجازت مانگی تو اجازت
 نہ ملی۔ جس پر اُن کو غصہ آیا۔ اور واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس بات کی
 شکایت بھی کر دی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے جواب طلب کیا تو عمرو نے
 عرض کیا :-

”مجھے اندیشہ تھا کہ آگ کی روشنی سے دشمن ہماری قلبت تعداد کا صحیح اندازہ
 لگانے لگا اور اس کے حوصلے بلند ہو جائیں گے“

پھر مزید عرض کیا کہ :-

”یا رسول اللہ خود میں بھی تو اُس کشتی میں سوار تھا اور سردی کا احساس سب
 لوگوں کی طرح کر رہا تھا“

مزید عرض کیا کہ :-

”میرا دل بھی یہی چاہتا تھا کہ آگ روشن کر کے ہاتھ پاؤں گرم کر دوں“

عمرو کے آخری ذکر ہر دو فقرہ سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ عمروؓ اپنی فوج کے ہر سردو گرم میں اُن کے ساتھ رہتے اور اُن کے لئے عمل نمونہ بنتے تھے۔ جس سے فوج پر مطلوبہ عمل آسان ہو جاتا تھا۔

اجنادین میں باوجود اس کے کہ وہ فوج کے قائد تھے باوجود اس کے کہ وہ دوسرے لوگوں کو جاسوس بنا کر دشمن کے کیپ میں بھیج سکتے تھے۔ اور باوجود اس کے کہ جاسوس بن کر جانے میں خود ان کی جان کا خطرہ تھا۔ پھر بھی بذاتِ خود دشمن کے کیپ میں پہنچ گئے اور اپنے اس عمل سے ثابت کر دیا کہ تمہارا قائد صرف حکم ہی دینے والا نہیں ہے بلکہ تمہارے سارے کاموں میں برابر کا شریک اور ایک اچھا نمونہ عمل بھی ہے۔

(۴) دور بینی | قائد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حالات کا اندازہ دور تک لگا سکے۔ اور اپنے احکام کے نتائج، اپنے فیصلوں کے اثرات، اپنے منصوبوں کے طول و عرض اور اپنے جائزوں کی رسائی کو حال کی روشنی میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کی روشنی میں بھی دیکھے۔ اس دور بینی اور دور اندیشی میں حقیقی ضمانت ہوتی ہے اُس کے اقدامات کی کامیابی اور نفع و حرکت کی فتح مندی کے لیے۔

یروک میں عمروؓ نے جس وقت مسلمانوں کی متفرق فوج کو اتحاد کی لڑی میں پرو کر وحدت قیادت کا مظاہرہ کیا تھا تو اُس وقت اُن کے سامنے صرف یروک ہی نہیں تھا بلکہ وہ یروک کے بعد ہرمیدان میں اس کی ضرورت کو پہلے میدانوں سے زیادہ محسوس کر رہے تھے۔ اور اتنی دُور دیکھ رہے تھے جتنی دُور عام قائدین کی نگاہ دُور ہی نہیں سکتی۔ اور یہی وجہ تھی کہ مسلمان ایک بار یروک میں متحد ہو جانے کے بعد پھر شام اور فلسطین کے تمام سرکوں میں متحد ہی رہے۔

مصر میں ام ذہین کی تسخیر کے بعد ہی عمروؓ نے دُور اور بہت دُور بابلین میں اپنے آنے والے مؤقف کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے لیے ہمیں نیل کے اتار کا طویل انتظار کے ساتھ ساتھ مزید فوجی امداد کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ چنانچہ انہوں نے قبل از وقت ہی خلیفہ کو امداد کے لیے لکھ دیا تھا۔ اور طویل انتظار کے وقفہ کو استعمال کرنے کے لیے بھی انہوں نے منصوبہ بنا لیا تھا اور اس منصوبہ کے مطابق بذاتِ خود فوج لے کر صوبہ فیم کے رومیوں کو ہراساں کرنے اور ان کے قومی کو مضحک کرنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔

پھر جونہی زبیر کی کمک مصر میں داخل ہوئی تو اُس سے ملنے میں جلدی کرنا بھی اسی دور بینی اور
دقتِ نظر کا تقاضا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رومی ہمارے اور اس ملک کے درمیان حائل ہو کر اُسے
ہمارے لیے بے سود بنا دیں

بالمیون کے محاصرہ کے دوران بھی جب انہیں تھیوڈور کی نقل و حرکت کا علم ہوا تو ان کی دُور بینی
نے مشورہ دیا کہ اُسے قلعہ تک آنے سے پہلے دُور ہی کسی جگہ روک دیا جائے۔ چنانچہ عمرو بلاقیر
بذاتِ خود اس کے مقابلہ پر بھی سمونڈ تک پہنچ گئے اور اس کے حوصلے کو لپٹ کر دیا۔

اسکندریہ کے محاصرہ کو لمبا ہوتے دیکھ کر بھی عمرو نے ازراہ دُور بینی ضمنی فتوحات کا منصوبہ
بنایا اور فاضل طاقت کو لے کر پورے ایک سال تک کریون، دمنہور، سخا، طرخ، اوسیس اور دمیاط
وغیرہ علاقوں کی طرف کام کرتے رہے۔

بلادی مصر کے لیے حذافہ کی ہمت بھیجنے اور اُسے حذافہ کے ہاتھ سے فتح کرانے میں بھی عمرو
کی دُور بینی ہی کار فرما تھی۔ اس لیے کہ اس علاقہ کے رومیوں سے کسی نہ کسی وقت حضرات پیش
آ سکتے تھے۔

اسکندریہ سے جب خود قیصر پیغامِ صلح لے کر عمرؓ کے پاس پہنچا تو عمروؓ کی دُور بینی ہی نے
اس کا باعزت استقبال کرایا اور یہ الفاظ عمرؓ کی زبان سے کہلوائے کہ :-

”آپ نے خود تشریف لاکر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔“

اور عمروؓ نے اپنے اس استقبال کا فوری ردِ عمل بھی دیکھ لیا کہ قیصر نے اپنے مقام سے
گرگہریاں تک کہہ دیا کہ :-

”اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ زمین عطا کر دی ہے اس لیے آج کے بعد رومیوں سے

کسی جنگ کا ارادہ نہ کریں۔“

بنیامین کو روپوشی سے نکال کر اس کے منصب پر بحال کرنا بھی عمروؓ کی دُور بینی ہی کا تقاضا تھا۔
اور ان کی دُور بینی نگاہیں اُن فائدہ کو پہلے ہی دیکھ رہی تھیں جن کا ظہور بعد میں ہوا۔

یہاں تک کہ جب منوبل نے دوبارہ اسکندریہ پر قبضہ کیا تو اس وقت اُس نے رومیوں کا
کا سامنے نہیں دیا اور اس کی اخلاقی بہادر دیوانی بدستور مسلمانوں کے ساتھ رہیں۔

صبرانہ کے بعد عمروؓ چاہتے تو شمال افریقہ کی طرف بدستور پیش قدمی جاری رکھتے۔ لیکن وہ بغیر
سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے دُور بینی کی نگاہ سے معاملہ پر غور کیا تو آگے

بڑھنے سے پہلے خلیفہ سے اجازت اور مدد طلب کر لی

(۵) قوتِ فیصلہ | قوتِ فیصلہ سے مراد ہے پیش آمدہ معاملات میں جلد فیصلہ کرنا، اس فیصلہ کے نافذ کرنے کے لیے پوری طاقت سے احکام جاری کرنا اور پھر فوراً ان احکام پر عمل کرانا اور ان سارے کاموں میں پوری حکمت تدبیر اور عوامل کی جانچ پڑتال کا لحاظ رکھنا۔

ہم نے ابھی ابھی عمرؓ کی درہنہ کے بیان میں جو مثالیں ذکر کی ہیں وہیں مثالیں عمرؓ کی قوتِ فیصلہ کا نمونہ بھی پیش کرتی ہیں۔ مثلاً:-

۱- مصر میں زبیر کی ملک کے ساتھ عمرؓ کا فوراً جا کر مل جانا۔

۲- محاصرہ اسکندریہ کے دوران نشیبی مصر کی طرف پیش قدمیاں

۳- محاصرہ بابلین کے دوران سمود کے مقام پر تھبوڈو کی پیش قدمی کو روکنا وغیرہ۔

لیکن قوتِ فیصلہ کا ذکر کرتے ہوئے اگر ہم ذاتِ السلاسل کے دو واقعات کی طرف اشارہ نہ کریں تو مضمون تشنہ رہ جائے گا۔

۱۶- پہلا واقعہ وہ ہے جو ابو عبیدہؓ کے ساتھ پیش آیا، جب انہوں نے اعداد لاکر فوج کی عمومی قیادت

سنجھانی چاہی۔ تو اسے پوری قوتِ فیصلہ کے ساتھ عمرؓ نے رد کر دیا۔ اس کا صحیح اندازہ آپ

کو ان دونوں کی اُس گفتگو سے ہو گا جسے ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

عمرؓ۔ یہاں فوج کا یقیناً ایک ہی امیر اور ایک ہی امام ہو گا۔ وہ نہیں ہو سکتے۔

ابو عبیدہؓ۔ عمرو! اختلاف نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے کہ باہم اختلاف

نہ کرنا۔

عمرؓ۔ لیکن اگر میں آپ کی بات نہ مانوں تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

آپ کو کیا طریقہ عمل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے؟

ابو عبیدہؓ۔ یہی کہ میں تمہاری اطاعت کروں

عمرؓ۔ بس تو پھر میں آپ کی بات ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ امامت عمرؓ کے موا کسی دوسرے

کی نہیں ہو سکتی۔

(۱۷) دوسرا واقعہ آگ روشن کرنے کا ہے۔ مسلمانوں نے ابو بکرؓ کو ان کے پاس آگ کی مالیت کے

بارے میں بات کرنے کے لئے بھیجا اور انہوں نے سفارش کی تو عمرؓ نے اُن کی بات مٹاتا تک

گوارا نہ کی اور دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ۔

تو کوئی بھی آگ جلانے کا اُسے اُسی کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔

اسی طرح فوج نے شکست خوردہ دشمن کے تعاقب پر اصرار کیا اور کہا کہ ہم اُن کا پھیلنے کے ان کا خاتمہ کر دیں اور اُن کے ساز و سامان پر قبضہ کر لیں۔ تو اس مرحلہ پر بھی عمرو کی قربت فیصلہ ہی نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کیا تھا کہ۔

”بس میرا حکم یہی ہے جو میں جسے چکا ہوں۔ اور اس کے بعد جو بھی ان کے تعاقب میں جائے گا سخت سزا کا مستوجب ہو گا۔“

عمرو کی یہی قوت فیصلہ تھی جس نے فوج کے درمیان مطلوبہ نظم و ضبط قائم رکھا اور جس کے نتیجے میں فوج نے ہر میدان میں اُن کی پوری اطاعت کر کے دشمن پر ہر جگہ کامیابی اور فتح پائی حاصل کی۔

۱۶۔ بے نفسی | کامیاب فرد پر متبادل کیفیات اور منفیاد احساسات وارد ہوتے ہیں۔ اور اس لیے اس کی صفات متعین کرنے میں علامتے نفس کے ماہین بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔

بعض کا خیال ہے کہ کامیاب فرد اپنی زندگی اور اپنے تصرفات میں مبالغہ پسند اور متکبر ہوتا ہے اور اپنے علاوہ ہر شخص کو مرتبے اور حیثیت میں اپنے سے کم سمجھتا ہے۔

حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔ کامیاب فرد کے اطوار پر تواضع اور انکساری غالب ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس کی حقیقت لوگوں پر خود بخود واضح ہو جاتی ہے اور وہ خود اس کی شاخواری کرنے لگتے ہیں۔ اور جب دوسرے لوگ اس کی کار سازی، قدرت و طاقت اور توفیق و کامیابی کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر اُسے تکبر اور عجز کے ذریعہ اپنی شخصیت کو منوانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔

اس حقیقت کا قریب قریب سب اعتراف کرتے ہیں کہ خاموشی علی ہی کامیابی کا راستہ ہے اور تصنع اور بناوٹ ناکامی کی دلیل

ہر قائد اور رہنما کی طرح حربی قائد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تواضع اور دھیمہ ہو۔ اور جہاں تک ہر سکے اپنے بارے میں مبالغہ آرائی سے پرہیز کرے۔ اس لیے کہ اپنی فن کاری، اپنے کارناموں اور اپنے تصرفات کو خود اپنی ہی زبان سے بیان کرنے کی بہ نسبت زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ اُس کے کارنامے، اُس کی مہارت فن اور اس کی کار پوزیاں اس کی تعریف اور توصیف کریں، مشک

آنت کہ خود بیدار نہ کہ عطار بگوید

ہم عمروؓ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو صاف نظر آجاتا ہے کہ باوجود عظیم الشان فتوحات اور کامیابیوں کے ان کے اندر غرور اور تکبر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اور اس کے بجائے تواضع اور انکساری ضرورت سے بھی زیادہ پائی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنی ہمارت جنگ اور فتوحات کا تذکرہ اپنی زبان سے اتنا نہیں کیا جتنا دوسرے لوگوں نے اور خود تاریخ نے کیا۔ جزیرہ عرب کا بچہ بچہ عمروؓ کا تذکرہ اسلام کے ایک عظیم المرتبہ فاتح کی حیثیت سے کرتا تھا۔ اور سحر اور حوالی مصر کا ایک ایک فرد انہیں قائد سید سے زیادہ قائد اخلاق اور قائد تواضع کی حیثیت سے جانتا تھا۔

ام ذہین میں عربوں اور رومیوں کے درمیان نہایت صبر آزما اور بازو شکن جنگ ہوئی اور اس میں مسلمان ایسے نکلے کہ عمروؓ کے اکثر ساتھیوں نے تو ہمت تک ہار دی اور جنگ بند کر دینے کا خیال دل میں لائے گئے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے تو ان میں سے عین اس وقت جبکہ وہ فوج کی ہمت بڑھا رہے تھے، اٹھ کر صاف صاف کہہ دیا تھا کہ "انا لہم نخلق من حديد" (ہم کوئی لوہے کے تو بنے ہوئے نہیں ہیں) جس پر عمروؓ نے اس کو جھڑکتے ہوئے کہا تھا۔ اسکت اتمانت کلب یعنی (ظاموش رہ او کٹے)" اس پر اس شخص نے فی الفور جواب دیا تو انت امیر الکلاب یعنی (اور تم کتوں کے امیر ہو۔) لیکن عمروؓ کے تحمل اور بردباری نے اس شخص سے اعراض کیا۔ حالانکہ فوجی نظر و ضبط کی رُو سے اس شخص پر کئی سنگین واقعات عائد ہوتی تھیں اور عمروؓ کو اختیار تھا کہ اُسے قائد کی حکم عدولی، قائد کی توہین اور اپنے فرض میں کوتاہی کی پاداش میں عبرتناک سزا دیتے۔ تاکہ باقی فوج اُس کے بڑا بڑا قول کے اثر سے متاثر نہ ہو۔ لیکن عمروؓ نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ اُسے اُس کے حال پر چھوڑ کر اپنی فوج کی طرف متوجہ ہو گئے اور بدستور انہیں ترغیب جہاد دیتے رہے اور فرمایا کہ "تقدوا فیکم نیص الله" یعنی آگے بڑھو اللہ کی مدد تمہارے ہی دست و بازو بن کر نازل ہوگی۔

۱۔ محمد فوج مؤلف کتاب عمر بن العاص کی حیات میں جو کچھ چاہیں لکھیں۔ لیکن اگر یہ روایت صحیح ہے تو ان پر طے گا کہ عمرو بن العاص میں اخلاق اور تہذیب کی بڑی کمی تھی۔ کسی شخص کی عزت نفس کا خیال نہ کرتے ہوئے اُسے کتنی کہہ دینا یقیناً حد درجہ کی بد اخلاقی تھی۔ اور اگر وہ سپاہی فاروق اعظم کی عدالت میں اپنی اس توہین کا دعویٰ کر دیتا تو عمر بن العاص کو سپاہی کی تحقیر کرنے کا سزا آتا۔ (محمد احمد بانی تہی)

امیر فتح نے اپنی کتاب "حیات خلفائے محمد" میں یہ بات واضح کی ہے کہ وہ
 "عمرؓ نے جب شہر اسکندریہ کے حاکم کے سامنے بلند پایہ اور بہادرانہ گفتگو کی جس
 حاکم نے انہیں سردار سمجھ کر قتل کا حکم دے دیا تو دربان نے اُن کے چہرے پر پتھر مارنے ہوئے
 کہا کہ خاموش رہ، ادا کئے اپنے سرداروں کے سامنے زبان چلاتا ہے....."
 کیا امیر فتح کی اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے عمرؓ کی تواضع اور انکساری کی انتہا میں کوئی
 شبہ باقی رہ جاتا ہے؟ سردی شہنشاہی کا خاکہ کر کے مصر جیسی عظیم الشان مملکت کا فاتح اعظم اپنے
 ایک ادنیٰ سپاہی کے ہاتھ سے اپنے چہرے پر پٹا بچھو کر تارکاتالیاں کھاتا اور کتے کا خطاب سنتا
 ہے، لیکن نہ رنجیدہ ہوتا ہے اور نہ تیش رو۔ صرف اس لیے کہ اس ظاہر بدکلامی کے پہلو میں اچھے
 نتائج نظر آ رہے تھے جن کے حصول پر عمرؓ اپنے رب کے شکر گزار تھے اور اُن نتائج کے راستہ میں
 جو رنج اور تکلیف پیش آرہی تھی اُس کا گوارا کرنا اُن کے لیے آسان ہو گیا تھا۔
 تواضع کا کمال تو اُس وقت ہے جب کسی قائد کو تازہ تازہ فتح نصیب ہوئی ہو اور اس کا خون گرم
 اُسے اس بات پر مجبور کر رہا ہو کہ اپنی بڑائی اور کارکردگی پر فخر کرے۔ لیکن وہ اُس وقت بھی تواضع سے کام لے
 اسکندریہ کی فتح کے فوراً بعد جب عمرؓ نے بطریق بنیامین کو روپوشی سے نکال کر بلا لیا اور
 اُسے ملاقات کی دعوت دی تو عمرؓ مجلس ملاقات میں سب لوگوں کے سامنے انتہائی تواضع اور
 انکساری کے ساتھ حاضر ہوئے اور بنیامین کے متعلق جو کچھ فرمایا وہ بھی فروتنی اور تواضع ہی کا آئینہ دار
 تھا۔ فرمایا تھا:-

"میں نے ان تمام شہروں میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے فتح فرمایا ہے ان

جیسی کوئی مذہبی شخصیت نہیں دیکھی۔"

عزور کیجئے اس فقرے پر۔ عمرؓ نے ایک فاتح کی حیثیت سے خود اپنی ذات کے متعلق بات
 شروع نہیں کی بلکہ دوسرے شخص کے بارے میں کی۔ اور اپنی تعریف کرنے کے بجائے اُس شخص کی
 تعریف کی جسے رومیوں نے جلاوطن اور ذلیل کیا تھا۔ عمرؓ کی اس تواضع اور بے نفسی کا نتیجہ یہ نکلا
 کہ قبلیوں نے انہیں حکمران اور فاتح کے بجائے رحمت کا فرشتہ اور نجات کا دیوتا سمجھا۔ اور

روز اول ہی سے ان کے قلوب عمرو کے مسخر ہو گئے۔ جیسے کہ سادیریس نے اپنے مندرجہ ذیل قول میں اس کا اعتراف بھی کیا ہے:-

مصر دلمے عمرو سے ایسے خوش پڑے جیسے مگبری کا بچہ اُس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کی مٹی ماں کا دودھ پینے کے لیے کھول دی جائے۔

(۲) محبت اور وفاداری | عسکری زندگی کے لوازمات اور اس کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد محبت اور وفاداری ہے جسے حسبِ مراتب ہر فرد میں پایا جانا چاہیے۔ خاص طور پر قائد میں اس کی موجودگی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر قائد میں اپنے سے اوپر والے سرداروں اور نیچے والے تابعین دونوں کے لیے بیک وقت محبت اور وفاداری موجود ہو تو یقیناً اس کی محبت کا عکس اس کی رعایا اور تابعین پر پڑے گا اور اس کی محبت کے ردِ عمل کے طور پر وہ بھی اُس سے محبت اور وفاداری کرنے لگیں گے۔

سردار اور امیر کی فرماں برداری ہر مسلمان پر اُس کے دین کی رو سے بھی واجب کی گئی ہے جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ:-

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا السُّلْطَانَ وَأُذِيعُوا لِمَنْ كَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَأَطِيعُوا لِمَنْ كَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
اطاعت کرو! اسی بنا پر مسلمان اس اطاعت اور کولاد کو دین اور بنیادی حیثیت دیتے ہیں۔ اور چونکہ عمرو بن عاص پر جوش اور پکے مسلمان تھے اس لیے وہ اس بنیادی تعلیم پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا اور اپنے سرداروں کے محب اور وفادار رہے۔

خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اطاعت انہوں نے ہمیشہ کی۔ قندہ ارتداد کے لیے بلایا تو فوراً حاضر ہو گئے۔ فلسطین اور شام بھیجا چاہا تو کوئی پس و پیش نہیں کی۔ فلسطین کی فتح کا قائد بنا دیا تو اس پر بھی راضی ہو گئے۔

خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن الخطابؓ کی اطاعت بھی ہر قدم پر کرتے رہے۔ ان کے احکام کے ماتحت مصر کا چہرہ اور مصر سے آگے برقا اور طرامیں سب فتح کیا۔ اور پھر جب عین جوش اقدام کی حالت میں انہیں روک دیا گیا تو فوراً روک بھی گئے۔

شام کی متفرق قیادتوں کے زمانہ میں بھی انہیں جن دوسرے قائدین کے ماتحت کام کرنا پڑا۔ اس میں بھی انہوں نے کامل اطاعت و کولاد کا ثروت پیش کیا۔ یرموک کے میدان میں وہ خالد ابن ولید کے غلط اطاعت شعار تھے۔ دمشق اور نخل وغیرہ میں انہوں نے ابو عبیدہ کے ساتھ پوری وفاداری کا ثبوت

پیش کیا۔ اور ان دونوں قائدوں کی مخلصانہ وفاداری اس حال میں کرتے رہے کہ وہ خود قدر و منزلت اور اہمیت و قیادت میں ان سے کسی طرح کم نہ تھے۔
چونکہ عمرو بن خود و وفاداری کا عنصر بدرجہ اتم موجود تھا اور وہ اپنے خلفاء کے پورے وفادار تھے۔ اس لیے اس کا عکس اور پرتو ان کے ماتحتوں پر بھی پڑتا تھا کہ وہ ان کے سچے وفادار اور اطاعت شعار بن کر رہے۔ اور اپنے قائد کے اخلاقی رنگ میں پوری طرح رنگے گئے۔

(۸) کارپردازی | فوجی زبان میں کارپردازی سے مراد اس بات کی قابلیت ہے کہ پیش آمدہ عمل یا مہم میں کم سے کم وقت اور کم سے کم محنت و مشقت خرچ کر کے اُسے کامیابی کی منزل تک پہنچا دیا جائے کارسازی یا کارپردازی شخصیت کی تعمیر کا ایک اہم عنصر اور میدان جنگ کا ایک بنیادی عامل ہے اور جس قائد میں کارپردازی کی صفت پائی جاتی ہے وہ ہر خطرے کا مقابلہ جرأت کے ساتھ اور مشکل کا ازالہ مہمت کے ساتھ کر لیتا ہے اس لیے کہ اس کی کارپردازانہ صلاحیتیں اس کی حکمت و تدبیر اور قوت و مقدرت کو اجاگر کرتی اور اس قابل بنا دیتی ہیں کہ وہ بھروسے اور اعتماد کے ساتھ اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔

عمر بن العاص کی شخصیت کو اس جوہر کا بھی اتنا وافر حصہ ملا تھا کہ وہ قبل الاسلام ہی کارپردازی میں سبب المثل اور نمونہ قلب رہ چکے تھے۔ دور جاہلیت کے لوگ بھی جن کاموں کو اپنی مہمت سے بالا سمجھتے تھے ان کو عمرو کے ذمہ ڈال دیتے تھے۔

مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے لیے حبشہ میں ان کا تقابلی کرنا ایک بہت بڑی مہم تھا۔ اور اس مہم کے لیے انہیں تمام عرب میں عمرو بن العاص کے علاوہ کوئی دوسرا کارپرداز نظر نہیں آیا۔ انہوں نے عمر شہابی کو حبشہ بھیجا۔ جس نے نجاشی پر پورا زور ڈالا اور ہر روز ایک نئی سے نئی شیر شکن جبت لگاتا اور نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف دبوچنے کی کوشش کرتا رہا پھر جب وہ اسلام لے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کارپردازانہ قدرت و قابلیت

سے عمرو بن العاص کی جنت شخصیت کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان نے ان کو وہایت مصر سے معزول کر دیا تو نہایت خاموشی کے ساتھ ہارج و مرجے کر چلے آئے۔ حالانکہ اگر چاہتے تو مصریوں کی حمایت کے بل بوتے پر حکم عدولی کو کے سلطنت کے لئے ایک عظیم فتنہ برپا کر سکتے تھے (محمد احمد پانی پتی)

کا اندازہ لگا کر سر تیز ذات السلاسل میں بھیجا۔ پھر سماع کے مہدم کرنے کا کام بھی انہی سے لیا۔ اس کے بعد مملکت ایران کی تسخیر بھی ان ہی کے ہاتھوں سے کرائی۔

خلیفہ اول حضرت ابو بکرؓ نے ان کی کارپردازی کا مشاہدہ کیا تو اپنے دور کا سب سے بڑا کام یعنی اندرونی فتنوں کا انسداد انہی کے سپرد کیا اور اس کے بعد بیرونی فتوحات کے لیے غلطین اور شام روانہ کیا۔

ان کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمرؓ بھی اگر ان کی کارپردازی کے قدر دان نہ ہوتے تو انہیں مصر، بصرہ اور طرابلس پر لشکر کشی کی کبھی اجازت نہ دیتے۔

عمرؓ کی کارپردازانہ صلاحیتوں کا پورا پورا ظہور اُس وقت ہوا جب وہ مصر کو فتح کرنے کے بعد اس کے حکمران بنے اور اُس کے طول و عرض میں انصاف، مساوات، محبت اور اخوت کے ڈنکے بجا دیئے اور مصر والوں کو ایک ایسا خوش حالی کا دودھ دیا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔

حضرت عثمانؓ نے اس نازک وقت میں جب رومیوں نے دوبارہ اسکندریہ پر قبضہ کر لیا تھا ہر طرف نظر دوڑانے کے بعد آخر عمرؓ ہی کی کارپردازی پر بھروسہ کیا اور انہیں رومیوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے دوبارہ مصر بھیجا۔

یہاں تک کہ اُس سب سے بڑے قضیہ کو بھی عمرؓ ہی کی کارپردازی نے ایک طرف کیا جو شہادت عثمانؓ کے بعد عالم اسلام کو پیش آیا تھا۔ حضرت معاویہؓ نے اُس نازک جھلے پر عمرؓ کی کارپردازی ہی میں اپنے اُس خواب کی تعمیر دکھی جو وہ حکومت کے بارے میں دیکھ رہے تھے۔

عمرؤبن العاص نے اس سلسلہ میں نصرت یہ کہ حضرت معاویہؓ کو مشورہ دیا بلکہ میدان میں ان کے دوش بدوش جنگ بھی لڑی۔ اور عین اُس وقت جب حضرت علیؓ حضرت معاویہؓ کو شکست دینے ہی والے تھے۔ عمرؓ نے ایک زبردست تدبیر اختیار کر کے حالات کا رخ شکست سے فتح کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ اور حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت ہو جانے کے باوجود ان کی خلافت کا خاتمہ کر کے حضرت معاویہ کی خلافت قائم کرادی۔

اس میں نے یہ بات عام طور سے دیکھی ہے کہ مصر کے قریباً تمام مسلمان مورخ اور مصنف اپنی تحریرات اور تصنیفات میں نہایت آواز جھیل ہوتے ہیں۔ اور حفظ مراتب کا خیال قطعاً نہیں کرتے (باقی اگلے صفحہ پر)

(۳) فوج کا انتظام

گذشتہ اوراق میں ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ قیادت انسانی طبیعت کے ساتھ سازگار کرنے کا فوجی ہم یہ بھی کہ چکے ہیں کہ فوج موت و حیات کے میدان میں ظاہری ہتھیاروں کے ساتھ بہت سے معنوی ہتھیار بھی لے کر اترتی ہے اور وہ ان سب کو اپنی آخری حد تک استعمال کر کے جس طرح بھی ہو سکے فتح و نصرت حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتی ہے۔

اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہ چکے ہیں کہ میدان میں اترنے اور میدان میں ہتھیاروں کو استعمال کرنے سے بھی پہلے کچھ ایسے محرکات ہوتے ہیں جو فوج کو میدان کی طرف دھکیلنے اور اسے اپنی جان کی قربانی پیش کر دینے پر آمادہ کر دیتے ہیں۔

ان محرکات اور ترغیبات میں سب سے زیادہ اہمیت اس ربط و تعلق کو ہے جو قائد کو اپنی فوج کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اور اس کے رد عمل میں فوج بھی اپنے قائد کے ساتھ مربوط ہو جاتی ہے۔
قائد اور اس کی فوج کے مابین اچھا رابطہ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب قائد فوج کی ہر طرح

رہنمائی کا شیوہ اختیار کرتا، نہ صرف یہ بلکہ آزاد خیالی کے جوش میں واقعات سے بھی اعراض کر جاتے ہیں۔ ایسی ہی صورت بیان پیش آئی۔ نہ محمد فوج نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ذاتی مرتبہ اور علو شان بہ نماذک کیا اور نہ اس بات کا خیال کیا کہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں یہ واقعات کے خلاف ہے۔ حضرت علیؑ کی خلافت سے شروع ہو کر اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ واقعہ تکمیل کے بعد ہی ظہور فرمایا اور کوئی ان کی خلافت کا خاتمہ نہیں کر سکا۔ ان کے بعد ان کے محترم فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام چھ ماہ تک سربراہ آئے خلافت رہے اور بالآخر اپنی مرضی سے بعض اختلاف سے بچنے کے لئے سلطنت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ پس حضرت عمرو بن العاص نے خلافت کا خاتمہ کس طرح کیا؟
پھر یہ کبھی محمد فوج کا سخت مخالط ہے کہ وہ حضرت معاویہ کی سلطنت کو خلافت قرار دیتا ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ ہے کہ حضرت معاویہ کی حکومت میں خلافت کی کوئی بات بھی نہ تھی۔ بلکہ وہ ایک عظیم الشان فرمانروا اور مسلمانوں کے سب سے پہلے بادشاہ ضرور تھے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے کبھی قابلیت امدیاد سے کے ساتھ بادشاہت کی (معاویہ پانی تھا)

خبر گیری کرے، اس پر بہر بان اور شفیق ہو، اس کی حفاظت میں کوئی کسر اٹھانے رکھے اور اس کے ساتھ ہر حال میں ہمدردانہ رویہ اختیار کرے۔

فوج جب اپنے قائد کو اپنے اوپر بہر بان دیکھتی ہے تو اسے اپنی انتہائی خوش کنجی تصور کرتی ہے اور پھر اس کا بدلہ وہ بھی اپنی طرف سے قائد کی وفاداری کی صورت میں ادا کرتی اور اس کے اشارہ ابرو پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔

عسکری قائدین نے ہر زمانے میں سپاہ پروری کو اپنا اولین فریضہ تصور کیا ہے۔ سقراط کہتا ہے کہ: "قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا ہر وقت جائزہ لیتا رہے کہ وہ اپنی فوج کی حربی اور شخصی ضروریات کو کس حد تک پورا کر رہا ہے اور کس جذبہ کے ساتھ پورا کر رہا ہے؟"

مارشل سلیم اپنے قائدین کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: "اے قائدین سپاہ! میں تمہیں تمہاری قیادت ہی کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ بیٹھو، نہ اٹھو یہاں تک کہ کسی درخت کا سہارا لے کر کھڑے بھی نہ ہو جب تک کہ تم اس قسم کے حالات نہ پیدا کرو کہ تمہاری فوج تم سے پہلے برباد ہو کر نئے کے قابل ہو جائے۔"

مورخ عکرمی کہتا ہے کہ: "اگر تم نے انسانیت کے جذبات لطیفہ کو پس پشت ڈال دیا تو لغتین کرلو کہ تم کبھی کامیاب جرنیل نہیں بن سکتے۔"

ان ہر دو قائدین کے اقوال سے فوج کے انتظام کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے اور اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قائد کا تعلق اپنی فوج کے ساتھ جتنا زیادہ گہرا اور مضبوط ہوگا، ویسا ہی تعلق فوج کو اپنے قائد کے ساتھ ہوگا۔

عمر بن العاص نے بھی سلمان فوج کی قیادت سنبھالی تو انہوں نے بھی انہیں مختلف میدانوں میں اتارا اور کامیابی کی منزل تک پہنچایا۔

یہ کامیابیوں ہی اتفاقیہ طور پر حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے اسباب و عوامل کی کار فرمائی تھی اور منجملہ ان عوامل کے ایک اہم عامل وہ رابطہ اور تعلق بھی تھا جو عمرو کو اپنی فوج کے ساتھ تھا۔ ہم اس رابطہ کو مندرجہ ذیل تین حصوں پر تقسیم کر کے ہر ایک کی ضروری وضاحت کرتے ہیں۔

۱۔ فوج کی ضروریات پوری کرنا۔ ۲۔ فوج کی سلامتی اور حفاظت کا خیال کرنا۔

۳۔ چھوٹے قائدین پر بھروسہ کرنا۔

ضرورتاً فوج | مصر میں عمرو بن العاص کی حکومت قائم اور مستحکم ہو گئی تو انہوں نے فوج کی ضروریات زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کیا

خیف ثمانی حضرت عمرؓ کی بالیسی یہ تھی کہ فوجیوں کو ان علاقوں میں جن میں وہ جہاد کرتے ہیں زمین کی ملکیت کے حقوق نہ دیئے جائیں۔ تاکہ وہ یکسو ہو کر مصروف جہاد رہیں۔ اور ان کی توجہات دوسری طرف مبذول نہ ہوں۔

لیکن عمروؓ نے استحکام مصر کے بعد فوج کو ملکیت زمین کے حقوق عطا کر دیئے۔ اور اس سے ان کا مقصد فوج کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کی حسیں کارکردگی کا بدلہ دینا تھا۔ چنانچہ فسطاط کی آباد کاری کے وقت انہوں نے شہر کی نقشہ کشی اور قطعہ بندی کا کام اپنے چار فوجیوں کے سپرد کرتے ہوئے اس بات کی تاکید کی تھی کہ اس شہر کے قطعات اراضی کو بلا استثناء سب عربوں کے درمیان تقسیم کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے شہر کے اندر اپنی اپنی مرضی کے مکانات تعمیر کیئے۔ جن میں ہر قسم کے بلند و پست مکانات تھے۔ حضرت زبیرؓ کے مکان میں وہ تاریخی میسر بھی محفوظ رکھی جس کے ذریعے وہ بابلین کی تفصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اور خارجہ بن حذافہ نے اپنے مکان پر اتنا اونچا بلاخانہ تعمیر کیا تھا جس سے وہ مارے شہر کا نظارہ کر سکتے تھے۔

عمروؓ نے رہائشی زمین کے ساتھ ساتھ زرعی زمین کے حقوق ملکیت بھی فوج کو عطا کیئے اور عام اہل مصر کی شرائط ان پر عائد کیں۔ چنانچہ وہ اپنی زمینوں کا خرچ بھی مساویانہ طریقہ پر ادا کرتے رہے۔

اس کے علاوہ فوج کو خرچ کی آمدنی سے وظائف بھی ملتے تھے۔

مستقلہ علاقہ پر فوج کی تین روز کی مہمانی بھی عائد کر دی گئی تھی۔

جو زمین ہر گاؤں کے رفاہ عامہ کے لئے مخصوص کی جاتی تھی۔ اس میں بھی فوج کے حقوق شامل کر دیئے گئے تھے۔ فوج کے لئے ایک مسجد کی بھی ضرورت تھی۔ عمروؓ نے فسطاط میں اُسے بھی تعمیر کرا دیا۔

فوج کے نہانے دھونے کی ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے بہت سے حمام بھی بنوائے۔ یہاں تک کہ ان کے دفن کے لئے ایک قبرستان بھی مقرر کر دیا جس میں خود عمروؓ بن العاص اور چار دوسرے صحابہ کرام دفن ہوئے۔

غرض یہ کہ فوج کی کوئی ادنیٰ اعلیٰ ضرورت ایسی نہیں تھی جو عمرو کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس کو پورا نہ کیا ہو۔

عمرو کی اس سپاہ پر درہی کی شہرت یہاں تک ہوئی کہ رومیوں کی فوجیں بھی ان کے حسن سلوک کو دیکھ کر اس بات کی آرزو کرنے لگی تھیں کہ کاش ہمارے جرنیل بھی عمرو جیسی سپاہ پروردار ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے تحت الشعور میں اپنے قائدین کی نفرت اور عمرو کی محبت پیدا ہو جاتی تھی اور ان کی وفاداری کو مضحک کر دیتی تھی۔

بابلیوں کے محاصرہ میں مقتولین نے اپنے جاسوسوں کو مسلمانوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو ان کے سردار نے جو سلوات بہم پہنچا میں وہ یہ تھیں :-

ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن میں زندگی کی بجائے موت کی اور بڑائی کے بجائے خاکساری کی طرف رغبت ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی دنیا کا نہ لالچ ہے نہ حرص۔ یہ لوگ زمین پر بیٹھ جاتے اور گھٹنوں پر رکھ کر کھا لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا سردار بھی ان ہی جیسا ہے۔ ان میں بلند اور پست کا بھی کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اور نہ ہی ان کے اتناؤں کو غلاموں سے پہچانا جاسکتا ہے۔

یہ صورت حال تھی جس میں رومیوں نے عمروں کا مشاہدہ کیا۔ اور اس مشاہدہ میں بھی سب سے زیادہ اہمیت رومی سردار کے اس جملہ کو حاصل تھی کہ ان کا سردار بھی بالکل ان ہی جیسا ہے۔ عمرو کے بارے میں دشمن کی طرف سے اس شہادت کا پیش ہونا اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے کہ عمرو کو اپنی فوج سے کتنی محبت تھی۔

اور یہ محبت اس لیے تھی کہ وہ جو کچھ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے تھے وہی اپنی فوج کے لیے بھی پسند کرتے تھے۔ جو حال قائد کا تھا وہی حال ہر فوجی کا بھی تھا۔ جو کچھ وہ پہنتا تھا وہی وہ پہنتے تھے۔ جو کچھ وہ کھاتا تھا وہی وہ کھاتے تھے۔ جس زمین پر وہ بیٹھتا تھا اس پر وہ بھی بیٹھتے تھے۔

ایسی جامع اور کلی مساوات کو دیکھ کر رومی اپنے دلوں میں اس بات کی کیا کچھ تنائیں نہ رکھتے ہوں گے کہ لے کاش ان کے جرنیل بھی ان کے ساتھ عمرو جیسا برتاؤ کریں۔ مقتولین نے اپنی فوج کے انہی تاثرات کا مقابلہ عمرو کی فوج کے ساتھ کرنے کے بعد تو یہ بات کہی تھی کہ :-

اُس ذات کی قسم ہیں کی قسم کھائی جاتی ہے، اگر یہ عرب پہلوؤں سے ہی نکلا جائیں گے تو انہیں بھی اپنی جگہ سے ہٹا کر چھوڑیں گے۔ کسی انسان کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کا مقابلہ کرے؟

نیز یہ خدا کی قسم یہ عرب اپنی قلت اور بے سرو سامانی کے باوجود ہماری کثرت اور سلاح پوشی سے زیادہ طاقتور اور شدید ہیں۔ ان میں کا ایک ایک فرد ہمارے سو سو افراد کے برابر ہے۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ موت کو زندگی سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان میں سے جو بھی ایک دفعہ آگے قدم بڑھا دیتا ہے پھر اس کے بعد پیچھے ہٹنا جانتا ہی نہیں ہے۔

مگر سے نکلتے ہیں تو وطن اور بیوی بچوں کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ کر نکلتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے اجر عظیم کی امید رکھتے ہیں۔

فوج کی سلامتی | فوج کی پردریش کے ساتھ ساتھ اُس کی سلامتی اور حفاظت بھی نہایت ضروری ہے اور اس کے اچھے نتائج خصوصیت کے ساتھ اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب دہ دشمن کے مقابلہ میں بڑے سہریک یا کسی اور مقام پر مصروف کار ہو۔ ایسے مواقع پر اگر قائد اُن کی حفاظت میں نظر رکھے گا تو اس سے اُن کی وفاداری و اطاعت شعاری میں اضافہ اور اُن کی باطنی قوتوں میں ترقی ہوگی اور وہ ہر اُس خطرے میں بلائیں و پیشیں نکل جائیں گے جس کا حکم اُن کے قائد کی طرف سے ملے گا۔ اس لیے کہ انہیں اس بات کا یقین کامل ہو چکا ہے کہ اُن کا قائد اُن کی سلامتی کا پوری طرح ذمہ دار اور اُن سے زیادہ خواہشمند ہے اور وہ انہیں ہلاکت میں کبھی نہیں ڈالے گا۔

عمرؤین العاص اپنی فوج کی سلامتی کا پورا انتظام کرتے تھے اور اس انتظام نے اُن کی فوج اور چھوٹے قائدین کو اُن کے ساتھ پوری طرح مربوط اور پر اعتماد بنا دیا تھا۔

ذات السلاسل میں عمرؤ نے اپنی فوج کو آگ و دشمن کرنے اور دشمن کے تعاقب میں جانے سے اس لیے روک دیا تھا کہ یہ دونوں باقی سلامتی فوج کے منافی تھیں۔

اس ذات السلاسل میں سلامتی فوج کی خاطر عمرؤ فوجی نقل و حرکت رات کے وقت کرتے تھے دن کے وقت چھپ جاتے تھے۔

یروشلم میں عمرو کا متفرق افواج کو کھینچ کر نابھی سلامتی فوج ہی کے جذبہ کے ماتحت تھا۔ اس لیے کہ رومی افواج جداگانہ قیادتوں کو ایک ایک کر کے آسانی کے ساتھ شکست دے سکتی اور ان کا خاکہ کر سکتی تھیں۔

سلامتی فوج کی مثالیں مصر کی فتوحات میں بھی کافی ملتی ہیں۔ بالبیون کے محاصرہ میں تھیوڈور کی نقل و حرکت کی خبر پاتے ہی عمرو کافی فوراً اس کی طرف بڑھتا اور مقام سمند میں اُس کے ساتھ ٹکرا جاتا اور پھر اپنی فوجوں کو واپس بالبیون لے آتا بھی سلامتی فوج ہی کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اسکندریہ کی طرف روانہ ہوتے وقت فوج کے ایک دستہ کو بالبیون میں تعینات کرنا بھی اسی بنا پر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اسکندریہ میں لڑنے والی فوج کو کسی عقبی حملے سے سلامتی حال ہو جائے۔

اسی طرح اسکندریہ کے قریب قلعة نقیوس کی فتح بھی فوج کے عقب کو سلامت رکھنے ہی کے لیے تھی۔

اس کے بعد محاصرہ اسکندریہ کے دوران شمالی مصر کی فتوحات بھی اسی لیے تھیں کہ اسکندریہ کی فوجوں کو اُس طرف کے متوقع خطرات سے محفوظ کر دیا جائے۔

(۳) چھوٹے قائد | میدان میں ایک قائد ساری فوج کو لڑانے کے لیے کبھی کافی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اُس کے ماتحت بہت سے چھوٹے قائد اور نائب ہوں۔ جو فوج کے ہر حصے کو بڑے قائد کے ساتھ مربوط رکھنے کا ذریعہ بنیں۔ اور قائد کے احکام فوجیوں تک اور فوجیوں کے حالات قائد تک پہنچاتے رہیں اور ان چھوٹے قائدین یا نائبین کا بھی پُر عملیت، چڑا اعتماد، ماہرہ صلاح اور بڑے قائد کا انتہائی طور پر مخلص و وفادار ہونا ضروری ہے۔

چھوٹے قائدین میں مذکورہ بالا صفات اُس وقت پیدا ہو سکتی ہیں جب بڑا قائد ان پر بھروسہ کرے اور انہیں اپنے اپنے حلقہ ہائے نیابت میں خود اپنی برابر اختیارات عطا کرے۔

قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نائبین کے اندر قیادت کی وہ تمام صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے جن کا ایک بڑے قائد میں ہونا ضروری ہے۔ تاکہ وہ چھوٹے سے بڑے بن سکیں۔ اور تاریخ میں قیادت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ سکیں اور اسے چاہیے کہ اُن کے اندر بیدار مغزسی، ادباعت و شخصیت، ہمت و شجاعت، حزم و احتیاط، بھروسہ اور اعتماد

مقلی دُبر و باری، تواضع و انکساری، معنویتِ کردار، اقدام اور پیشِ اخوشِ خلقی و پاک باذی اذہانت و امانتِ امانتِ عدل و مساوات، اخلاص و وفاداری، فرج کے ساتھ ہم خیالی و ہم کاری، نرم خوئی اور بے لٹی و بیخبری کی صفات پیدا کرے۔

عمر و کسبِ ذمہ داری کا پورا احساس تھا۔ اور انہوں نے اپنے نائبین کی مطلوبہ تربیت میں کوئی دقیقہ فرو گذار نہیں کیا۔

یہی وجہ تھی کہ عمرو کے چھوٹے قائد بہادر اور شجاع ہونے کے علاوہ اخلاص، ایمان، قوت اور اقدام کی صفات میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ اور ہر معرکہ میں عمرو کے دست و بازو اور پرتماؤ معاون ثابت ہوتے تھے۔

حضرت عمرؓ نے ان کے اس خصوصی مقام و مرتبہ کو اپنے مندرجہ ذیل فقرے میں ظاہر فرمایا تھا۔
 میں تمہاری مدد چاہتا ہوں فرج سے کر رہا ہوں جس کے ہر سزائی دستے کا سردار ایک ایسا بہادر شخص ہے جو اکیلا ہزار جواہل کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔
 اس سے مراد زبیر، مقداد، عبادہ اور خارجہ بن حذافہ ہیں۔ عمرو نے ان چھوٹے قائدین کے سپرد بہت سی سمات کیں جن میں انہوں نے خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کیں اور ہم آئندہ سطور میں ان کا نام بنام ذکر کرتے ہیں۔

★

رأی علقمہ بن حکیم

مسروق الحلی

الواجب مالکی

عمرو اپنی فوج کو فلسطین لے کر پہنچے تو دیکھا کہ مقابلہ پر اربوں کی فوجیں ہیں۔ انہوں نے حالات کی نزاکت کا فائدہ نظر سے جانوہ لیا۔ اور تفصیلات سے واقف ہو کر نقشہ جنگ اس طرح بنایا کہ دشمن پر یکبارگی تین طرف سے حملہ کیا جائے۔ اور یہ بات ناممکن تھی کہ ہر طرف حملہ کی تیاریات ایک ہی قائد کر سکے۔ اس لیے انہوں نے ہر محاذ کے لیے جداگانہ قائد مقرر کر کے ان کے نقشہ ہائے جنگ الگ بنا دیئے۔

علقمہ بن حکیم اور مسروق علی کو ایلیا کی طرف اور الواجب مالکی کو رملہ کی طرف روانہ کر دیا اور خود بقیہ فوج لے کر اجنادین پہنچ گئے۔

رب، خاسر جہ بن حذافہ

مصر کے رہنے والوں میں بھی عمرو نے فوج کا ایک دستہ خارجہ کی قیادت میں اُمّ دین کی جانب اس غرض کے لیے روانہ کر دیا تھا کہ جب دشمن ہمارے مقابلہ میں پوری طرح مشغول ہو تو دوسری طرف سے تازہ دم اور اچانک حملہ کر دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جس کا نتیجہ نہایت بہتر نکلا اور اسلذریہ کی طرف روانہ ہوتے وقت بھی عمرو نے باہدین میں ایک حفاظتی دستہ تعینات کیا تھا۔ جس کی قیادت خارجہ کے سپرد تھی۔

بلاذری کی رائے کے مطابق عمرو نے فتح اسلذریہ کے بعد انہی خارجہ کو مقامات فیوم، اشمونین، انجم اور بشروات وغیرہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ جنہیں انہوں نے فسطاط کی شرائط پر ضلّی فتح کیا تھا۔

رج، عبادہ بن صامت

جب مقوقس نے باہمی گفت و شنید کے لیے عمرو سے سفارت طلب کی تھی تو انہوں نے دس آدمیوں کی سفارت عبادہ کی قیادت میں روانہ کی۔ جن کے کالے رنگ کو دیکھ کر مقوقس نے نفرت کی اور کسی دوسرے آدمی کے آگے بڑھ کر بات کرنے کی درخواست کی تو تمام اہل وفد نے یک زبان ہو کر اُن کے ہاتھ میں لہا تھا کہ :-

”یہی کالا آدمی علم و فضل اور عقل و رائے میں ہم سے افضل اور ہمارا سردار ہے“ اس کے بعد جب انہوں نے مقوقس سے بات کی تو اس کا ایک ایک لفظ قوت و شوکت اور جہالتِ ایبانی سے لبریز تھا۔ اور اُس نے مقوقس کو اس درجہ مرعوب کر دیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ اُس کا دل بیٹھ گیا بلکہ اُس کا اپنی افواج پر بھی اعتماد منزلزل ہو گیا تھا۔ یہ بھی عجیب حُسن اتفاق تھا کہ عبادہ کی گفتگو ہو ہو وہی گفتگو تھی جو اجنادین میں خود عمرو بن العاص نے مقوقس سے کی تھی۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمرو بن العاص اپنے چھوٹے قائدین کو فوجی حرب کے ساتھ ساتھ دشمن سے بات چیت کرنے کا ڈھنگ بھی سکھاتے تھے۔

د، زبیر ابن العوام

زبیر اُس امدادی فوج کے قائد تھے جو مصر پر حملے کے وقت عمرو کے ساتھ باہدین کے مرکز میں آ کر ملے تھے۔ اس لیے باہدین کی تسخیر میں اُن کی کارپردازی کو بڑا دخل ہے۔

یہ وہی زہیر ہیں جو اپنی جان کو سنبھالی پر رکو سیرطھی کے ذریعہ فصیل پر چڑھ گئے تھے۔ اور پھر نہایت جرات کے ساتھ قلعہ کا دروازہ کھول دیا تھا۔

(ھ) شریک

مَالِكُ بْنُ نَاعِمَةَ

مقبوہ دور کی فوج نقیوس میں شکست کھا کر اسکندریہ کی طرف بھاگی تو اس کا پیچھا دبانے کے لیے مسلمانوں کی فوج روانہ کی گئی جس کی قیادت شریک کے سپرد تھی۔ رومی طر زوش کے تریب خیمہ زن ہو کر شریک کے مقابلہ پر تیار ہو گئے۔ اور تین دن کی لڑائی کے بعد جب رومی مسلمانوں کا محاصرہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو شریک نے اپنے ایک ماتحت قائد مالک بن ناعمہ کو ہمراہ توڑ کر عمرو کے پاس امداد طلبی کے لیے دوڑا دیا۔ چنانچہ وہ صبار فزاری کے ساتھ تازہ ملک لے کر پہنچ گئے۔ جس کے بعد مسلمان حصار توڑ کر خطرے سے باہر ہو گئے۔

(و) وساد احصے

دردان عمرؤ کے غلام تھے، لیکن ترقی کر کے قیادت کے منصب پر فائز ہو گئے تھے۔ انہوں نے کریون میں مسلمانوں کی قیادت کی اور عبداللہ بن عمرو بن العاص انہی کی قیادت کے ماتحت زخمی ہوئے۔ اور جب انہوں نے زخم کی وجہ سے آرام کی اجازت چاہی تو دردان قائد نے انہیں آرام کی بھی اجازت نہیں دی تھی اور فرمایا تھا کہ :-
"آرام تو تمہارے آگے کی طرف ہے پیچھے کی طرف نہیں۔"

اسکندریہ میں جب عمر بن العاص رومیوں کے درمیان محصور ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی وہ دردان ہی تھے، جنہوں نے حاکم شہر کے امداد قتل کو بجا نہ کر عمرؤ کے چہرے پر تھپڑ مار سید کیا تھا اور گالیوں سے کر ان کی جان بچاتی تھی۔ اور کہا تھا کہ :-

"او کتے چیپ رہ۔ اپنے سرداروں کے سامنے بک بک کرتا ہے!"

(س) مسلمہ بن مخلد

انہوں نے بھی عمرؤ کی جان اس وقت بچائی تھی جب وہ پہلی دفعہ اسکندریہ میں محصور ہوئے تھے اور حاکم اسکندریہ نے اپنے سپہان سے مقابلہ کرنے کی شرط لگائی تھی اور جب ان کا پلوان نکلا تھا تو عمرؤ خود اس پر چھپنا ہی چاہتے تھے کہ فوراً سلمہ نے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے انہیں روکا تھا اور کہا تھا کہ :-

عمرو دہری غلطی کر رہے ہو، اپنے ساتھیوں سے پہلے ہی بکھر چکے ہوئے ہو۔
 حالانکہ تم ان کے امیر ہو۔ مسلمانوں کا نظام تمہاری ذات کے ساتھ وابستہ ہے،
 ان کے دل تمہارے اندر اٹکے ہوئے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ نہ معلوم ان کا کیا
 حشر بڑا ہو گا۔ اور دوسری غلطی یہ کرنا چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو قتل کے یلئے پیش
 کر رہے ہو۔ اگر قتل ہو گئے تو اس سے مسلمانوں پر جانتے ہو کتنی بڑی مصیبت نازل
 ہو جائے گی۔ پھر جاؤ، تمہارا شمار میں پورا کیئے دیتا ہوں۔
 چنانچہ مسلمہ رومی ہسلوان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کو صحیح سالم
 قلعہ سے باہر نکال لائے۔

(س) عبداللہ بن حذافہ سہمی

عمر بن دھب الجہمی

عقبہ بن عامر جہنی

اسکندریہ کے فتح ہو جانے کے بعد عمرو نے ان تینوں کو مستقل ہمت پر قائم بنا کر بھیج دیا تھا۔
 عبداللہ بن حذافہ کو عین عیش کی طرف روانہ کیا تھا۔ عمیر کو تنیس، دمساط، تونہ، ادیمیر، شطا اور وقتہلہ
 اور بوسیر وغیرہ کی طرف اور عقبہ کو ربقول، بلاذری، تھیبی دیہات کی طرف

(ص) عقبہ بن فافح

برقہ اور طرابلس کی فتوحات میں عمرو نے ان سے بڑا کام لیا تھا۔ انہیں برقہ، زویلہ اور ان
 کے مضافاتی علاقوں کی طرف بھیج دیا تھا۔ جہیں انہوں نے فتح کیا۔ اور پھر عمرو کی طرف سے وہی
 اس علاقہ کے امیر بھی بنا دئے گئے۔ جہاں وہ ۱۲ سال تک امیر رہے۔

رطل عبداللہ بن شریب

طرابلس پر قبضہ حاصل ہوتے ہی عمرو بن العاص نے ان کو راتوں رات صبراً روانہ کیا تھا۔
 جسے انہوں نے علی الصباح فتح کیا۔ اور اس حالت میں فتح کیا کہ اہل شہر ان کے حملہ سے قطعاً
 بے خبر اور اپنے روزمرہ مشاغل میں مصروف تھے۔

(ح) بوس بن ابی اسرطاطہ

شمالی ازیقہ کے شہر ودان کو انہوں نے فتح کیا جو شمال افریقہ کی سب سے آخری فتح تھی۔

مذکورہ بالا تمام مثالوں سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ عمرؓ اور ان کے چھوٹے قارئین میں کتنا سچا تقاضا اور اشتراکِ عمل تھا اور ان کے اخلاص ہی کی یہ برکت تھی کہ اپنے اپنے موقع پر عمرو نے انہیں بڑی قیادت سنبھالنے کے مواقع پوری فراخ دلی کے ساتھ عطا کیے۔

ان کے اس اخلاص اور تقاضوں کے مختلف اسباب میں سے بڑا سبب یہ تھا کہ عمرو ان کو شایانِ شان اہمیت دیتے، ان پر پورا بھروسہ کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے اور سادیا نہ برتاؤ کرتے تھے۔ جس نے ان کے اخلاص کو اس حد تک بڑھا دیا تھا جس کا اندازہ مسلمہ بن مخرمہ کے اس قول سے ہوتا ہے کہ:-

”آپ امیر ہیں۔ مسلمانوں کا نظم آپ سے وابستہ اور ان کے دل آپ کی دانت میں اٹکے ہوئے ہیں۔“

شاید عمروؓ کا یہ برتاؤ خلیفہٴ اول حضرت ابو بکرؓ کی اُمن نصیحت کا نتیجہ تھا جو انہوں نے عمروؓ کو اُس وقت لکھ کر بھیجی تھی جب وہ نسطین کے راستے میں تھے۔ اور وہ یہ نصیحت تھی:-

”خوب سمجھ لو اے عمرو! تمہارے ساتھ بد دالے بہا جوین اور انصار ہیں۔ ان کے احترام اور حقوق میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ ان پر حکومت جتانے کی کوشش نہ کرنا اور تمہارے دل میں یہ شیطانی غرور بھی دخل انداز نہ ہونے پائے۔ کہ ابو بکر نے ان سے افضل سمجھ کر قائم بنا یا ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحبت اور نشست و برخاست رکھنا، زمانہ جاہلیت کی یاد کو ان کے درمیان زندہ نہ ہونے دینا۔ کیونکہ ان سے ان کی باہمی رقابتیں عود کر آئیں گی۔ نیز اپنے لشکریوں کو قرآن کی تلاوت کی بہت تاکید کرتے رہنا۔“

(۴) سیاست اور فہم فرہست

سیاست اور ذہانت کا رابطہ تاریخِ حرب کے ساتھ نہایت گہرا اور مضبوط ہے۔ بلکہ سیاست ذہانت اور ہشیاری کے ساتھ مل کر تائید کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہیں۔

دیر تائید کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ اُسے سیاست، ہوشیاری، معاملہ فہمی اور حسن سلوک کی قوتیں وافر مقدار میں حاصل ہوں۔ اور وہ ان قوتوں کو کام میں لا کر اپنی مہمات اور ذمہ داریوں کو کامیاب بنائے۔

یہ صفات نہ صرف اس کی فوجی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہیں بلکہ عامۃ الناس کے دلوں کو بھی اس کی طرف مائل کرتی اور اس کی قدر و منزلت اور اُلفت و محبت پر مجبور کرتی ہیں۔ باوجود اس کے کہ ان عامۃ الناس کے درمیان خود اُس کے جانی دشمن بھی موجود ہوتے ہیں۔

ابھی کل کی بات ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے خاتمہ کے بعد حلیفوں نے ۱۹۴۵ء میں جوہیمانہ اور نظامانہ برتاؤ مقترحِ اوام کے ساتھ کیا وہ نصرتِ قبیح اور بدسلوکی کی انتہائی خوشامگ مثل تھا۔ جس پر عالم انسانیت جتنے بھی خون کے آنسو بہائے کم ہے۔ ان کی درندگی اور سفاکی صرف میدان میں لڑنے والوں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں رہی بلکہ وہ لوگ بھی ان کے وحشیانہ مظالم سے شہنچ سکے جو ان کی تابع فرمان رعایا بن چکے تھے۔ ان کے ان ظلموں سے جو نہ سیاست کا تقاضا تھے اور نہ دانشمندی اور حسن نصرت کا، تمام عالم انسانی کی رائے عامہ ان ظالم حلیفوں کے خلاف ہو گئی۔ اور وہ انسانی ضمیر کی لعنت و لعارت کا ہدف بن گئے۔ اور اپنے کرتوت کی وجہ سے اگرچہ وہ بظاہر زمین پر فاتح نظر آتے تھے لیکن جہاں تک میدانِ اخلاق اور محاذِ انسانیت کا تعلق ہے وہ دونوں جگہ شرمناک شکست کھا گئے۔ وہ انسانی شرف سے پھیل کر پری طرح ذلت و رسوائی کے غار میں گرے۔ اور یہ ذلت ان کے ساتھ تاریخِ انسانی کی بقا تک چھٹی اور نسل در نسل تک ان کے سروں پر پھینکا رکھے بادل برساتی رہے گی۔

اب جبکہ ہم تائیدِ حرب کی سیاست پر عمومی بحث کر رہے ہیں اور عمر و فہم کی سیاست کے بارے میں خصوصی گفتگو کرنے والے ہیں، سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس بلند اور

افضل ترین انسانی موقت کا تذکرہ کریں جسے رسول انسانیّت، قابوِ حنین و خندق، فاتح بدر و مکہ نے فتحِ عظیم کے بعد اختیار کیا تھا۔ مقابلہ پر اسلام اور مسلمانوں کے جانی دشمن تھے۔ جو آج آخری شکست کھا کر اپنے اپنے گھر میں گھسے ہوئے اس لمحہ کا انتظار کر رہے تھے جس میں انہیں خوف تھا کہ ستم کشیدہ فاتح اعظم وہی پیرا لہ انہیں بھی پلانے والے ہیں جو ان کے ہاتھوں خود پیتے رہے اور وہی کٹر فٹاک برتاؤ ان کے ساتھ کرنے والے ہیں جو ان کی طرف سے زندگی بھر ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اور عنقریب کوئی ایسا حکم صادر ہوئے والا ہے جس کے نتیجہ میں وہ سب ظالم اور قاتل تلوار کے گھاٹ اتار دیئے جائیں گے۔ لیکن اس کے برخلاف رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکم آیا وہ عفوِ کریم اور لطفِ عمیم کی شان لیے ہوئے تھا۔ حضورؐ نے فرمایا اذہبوا فانتم الطلقاء۔ رہاؤ جاؤ آج تم سب آزاد ہو

رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ احسانِ عظیم دیکھ کر صرف قریش ہی کے دل مستحضر نہیں ہوئے بلکہ خود مسلمانوں کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں جب انہوں نے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک ایسا مثالی نمونہ دیکھا تھا جسے تاریخ نے اس سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں۔ اور اس نمونہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ساتھیوں اور خادموں نے یقیناً وہ سبق حاصل کیا جسے انہوں نے نبیؐ کے بعد اپنے اپنے دورِ حکومت میں دہرایا۔

عمرؓ عربین عاص سیاست اور معاملہ فہمی کی اہمیت کو اعداد کے بارے میں ہمیشہ ملحوظِ نظر رکھتے تھے اور لہذا اوقات اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں صرف سیاست و دانائی ہی کی بنا پر ایسی حیرت انگیز کامیابی حاصل کر لیتے تھے جس کا حصول تلوار سے بھی ممکن نہ ہوتا تھا۔ عمروؓ نے سیاست اور دانائی کے ساتھ اپنے چالاک دشمنوں کے لینے ایک تیسری صفت ہوشیاری کا بھی اہتمام کر لیا تھا۔ اور اس صفت میں بھی وہ اپنے سب ہم عصروں پر سبقت لے گئے تھے۔ حتیٰ کہ اربطون روم سے بھی آگے بڑھ گئے تھے۔ جس کی عیاری رومیوں کے درمیان ضرب المثل بن چکی تھی۔ یہاں تک کہ خود حضرت عمرؓ صلی اللہ عنہ نے بھی فسرہ دیا تھا کہ :

”ہم نے بھی اربطون روم کے مقابلہ میں اپنا اربطون عرب بھیج دیا ہے“
چنانچہ اربطون عرب ہی اربطون روم کے مقابلہ میں کامیاب ہوئے اور اس حد تک کامیاب ہوئے کہ خود اربطون روم سے مندرجہ ذیل سزا مقیاز حاصل کر آئے۔

تعجب ہے کہ یہ شخص مجھے بھی دھوکہ دے گیا ہے۔ یہ تو مسامی دنیا سے زیادہ
چالاک نکلا!

قریش زمانہ جاہلیت ہی میں عمرو کی سیاست اور ہوشیاری سے واقف ہو چکے تھے۔
اور اسی لیے وہ اپنی سخت الجھنوں میں اُن کے پاس امداد طلبی کے لیے آتے تھے۔
سب سے بڑی الجھن قریش کو اُن مسلمانوں کے بارے میں پیش آتی تھی جو اُن کے ظلم و ستم
عاجز آکر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ جہاں انہیں نجاشی کے زیر سایہ امن و اطمینان
میسر آ گیا تھا۔ بسین قریش نے پیچھے پیچھے عمرو کو بھیج دیا جس نے نجاشی پر مسلمانوں کی واپسی
کے لیے پورا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ:-

ہمارے بھائی بندوں کی ایک جماعت ہمارے اور آپ کے دین سے منحرف
ہو کر آپ کے ملک میں پناہ گزیں ہو گئی ہے۔ اور ایک ایسے دین کا دعویٰ کرتی ہے
جسے نہ ہمارے باپ دادا جانتے اور نہ آپ کے۔ شرفائے قریش نے ہم لوگوں
کو آپ کے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ آپ ہمارے مجرموں کو ہمارے حوالے
کر دیں۔

اس کے بعد جب نجاشی نے مسلمانوں کو درد دررد بات کرنے اور اُن کے دین کے بارے
میں معلومات حاصل کرنے کے لیے دربار میں بلایا اور جعفر بن عبدالطلب درباری سجدے
کی بجائے صاف سلام کر کے اندر داخل ہو گئے تو عمرو کی چالاکی نے اس موقع سے پورا فائدہ
اٹھاتے ہوئے کہا:-

بادشاہ سلامت آپ نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ آپ کے مقابلے میں بھی کیسے معزور و متکبر
ہیں۔ آپ کے سامنے آدابِ سلطانی بجالانا بھی انہوں نے پسند نہیں کیا۔
اس پر حضرت جعفر نے فوراً جواب دیا کہ:-

ہمارے دین میں التذرعہ و جل کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔
عمرو بن العاص پھر بولا:-

۱۔ مصنف کو یہاں سہو ہو گیا ہے۔ یا بے خیالی میں اس کے قلم سے نکل گیا۔ صحیح نام
ابوطالب ہے (محمد احمد پانی پتی)

بادشاہ مملکت یہ لوگ ابن مریم کے بارے میں بھی آپ کے عقیدہ کی مخالفت کرتے ہیں اور انہیں خدا کا پیٹا تسلیم نہیں کرتے۔
 اس سے عمرو کا مقصد نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا تھا۔ لیکن جعفر نے اُس کے اس ارادے کو کبھی ناکام بنا دیا۔ اور نجاشی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا۔
 ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہی عقیدہ رکھتے ہیں جو اُن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کا کلمہ حکم ہیں جسے اُس نے کنواری مریم پر نازل فرمایا۔



زمانہ جاہلیت میں عمرو کی ہوشیاری کی دوسری مثال یہ ہے کہ عمرو کے دفتر نجاشی کا ایک ساتھی عمار بن ولید بھی تھا جو نہایت خوبصورت اور عورتوں کا پسندیدہ نوجوان تھا۔ عمرو کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہم سفر تھی۔ عمار نے اُس کے ساتھ دل لگی کی باتیں شروع کر دیں اور اُس کے قریب پہنچ کر بوسے کا طلبگار ہوا۔ عمرو کو یہ بات سخت ناگوار گری مگر عمار نے ارادہ کر لیا کہ عمرو کا کانا درمیان سے نکال کر اس کی بیوی کے ساتھ مسترت کی گھڑیاں گزار سی جائیں۔ اور یہ سوچتے ہی عمرو کو کشتی سے نیچے پانی میں دھکا دے دیا۔ عمار کا خیال تھا کہ اُسے تیرنا نہیں آتا ہر گاہ عمرو نے موقع کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے اُس وقت آغوشہ پی لیا لیکن دل میں یہ بات ضرور ٹھان لی کہ اُسے اینٹ کا جواب پتھر سے ضرور دینا ہے اور یہی ہوا بھی۔ جلد پہنچ کر عمرو نے عمار کو عکہ نجاشی کے ساتھ معاشقہ کی ترغیب دی اور وہ اس تک پہنچنے میں یہاں تک کامیاب ہو گیا کہ عکہ نے اُسے مخصوص شاہی تیل تحفہ کے طور پر سے دیا۔ دوسری طرف عمرو نے نجاشی کو بھی صورت حال سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ نجاشی نے ایک جادوگر کو بلا یا جس نے عمار کے سوراخ ذکر میں جادو کا منتر پھونک کر کوئی ایسی دوا اس کے اندر داخل کر دی جس کے اثر سے عمارہ پاگل اور مذبذب الحواس ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا۔

زمانہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو کی سیاسی اور تبلیغی صلاحیتوں کا اعزاز لگایا تو ان صلاحیتوں سے ریاست عمان کے فرمانرواؤں تک دعوت اسلام پہنچانے میں کام لیا۔ عمرو تن تنہا بغیر کسی ہتھیار کے عمان پہنچ گئے۔ ریاست کے حکمران دو بھائی تھے۔ چھوٹے کا نام عباد تھا جو اپنے بڑے بھائی جیفر کے مقابلہ میں زیادہ خوش اخلاق تھا۔ اس لیے عمرو

کی میاست اور شہیاری نے دعوتِ اسلامی کے لیے پہلے اُسی کو تاکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مندرجہ ذیل پیغام اُس کے سامنے رکھ دیا۔

”میں تم دونوں بھائیوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ دونوں اسلام لے آؤ اور محفوظ ہو جاؤ۔ بلاشبہ میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔“
 چھوٹے بھائی نے دعوتِ اسلامی کو قبول کر لیا۔ جیفر باقی رہ گیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی عمروؓ نے پوری سیاست و تدبیر اور حکمت و دانائی سے کام لیتے ہوئے پہلے تو اُسے یوں کہہ کر ڈرایا کہ۔
 ”اگر تو ایمان نہ لایا اور اُس رسول کی پیروی قبول نہ کی تو یقین کر لے اُس شخص کو
 تجھے اور تیرے ساتھیوں کو پامال کر کے رکھ دیں گے۔“

پھر اُسے کچھ لالچ سے نرم کرنے کی کوشش کی اور کہا:-
 ”..... دیکھو ایمان لانا ہی بہتر ہے۔ اس طرح تم اپنی قوم کے حاکم بھی بنے رہو گے اور انہیں جنگ کی تباہی اور بربادی سے بھی بچاؤ گے۔“
 نرمی سے کام چلانا نہ دیکھا تو پھر سختی اختیار کر لی اور کہنے لگے:-

”تیرا علاقہ مسلمانوں کے اُن نیزوں کی پہنچ سے کچھ دور نہیں جن کے خوف سے کفار کا پتہ پانی ہوتا ہے اور وہ بلا کسی مزاحمت کے دشمن کے قلب و جگر میں پورے کر دیئے جاتے ہیں۔“
 اس کے بعد پھر ایک ٹھنڈی براہوی اور کہا:-

”میں سراسر تمہاری بھلائی اور تمہارے فائدے کا مشورہ پیش کر رہا ہوں۔ اسے قبول کرنے میں پس و پیش نہ کرو۔“

آخر کار عمروؓ کی یہ سیاست و دانائی کا میاب رہی اور ان دونوں بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔



اجتہاد میں عمروؓ نے خود ارطون کے کہیپ میں پہنچ کر اُس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔
 ارطون بھی بھانپ گیا کہ ایسی باتیں کرنے والا مسلمان کا قائد عمروؓ ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر انہیں سازشی طور پر قتل کرا دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک طرف عمروؓ کو تحفے دے کر مطمئن اور خوش کروایا اور دوسری طرف چوکیداروں کو خفیہ پیغام بھیج دیا کہ دیکھنا یہ شخص تمہارے ہاتھوں سے بچ کر نہ جائے۔

عرد کے کالوں میں بھی کسی کہنے والے کی یہ بات پہنچ گئی کہ خیریت کے ساتھ داخل تو ہو گئے ہو لیکن خیریت کے ساتھ نکلنا مشکل ہے۔ اور جب انہوں نے موقع کی نزاکت کا اندازہ کر لیا اور عیاری کا مقابلہ عیاری کے سوا ممکن نظر نہ آیا تو فوراً ارطوبوں کے پاس واپس پہنچ گئے اور اس کے عطا کردہ تحفہ جات ہی کو وسیلہ نجات بنا تے ہوئے لوٹے۔

جناب میری غیرت یہ بات ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ میں ایسے بیش قیمت تحائف لیکر لے کر چلا جاؤں۔ اور میرے بھائی جو سب میرے ہی جیسے ہیں اور تعداد میں وہ ہیں ان تحائف سے محروم رہیں۔ میں جناب سے ان کے لیے بھی تحائف مانگنے آیا ہوں تاکہ جناب کا احسان عام ہو جائے۔

اور اس کے بعد عمرؓ نے ارطوبوں سے وعدہ کر لیا کہ میں ان دسوں کو بھی جناب کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں تاکہ وہ بھی بذات خود اپنی زبان سے آپ کی فیاضی کا شکر یہ ادا کر جائیں۔ ارطوبوں کو لالچ آیا کہ ہم ایک کے قتل پر کیوں اکتفا کریں پوسے دس کو کیوں نہ قتل کریں اس لیے اس نے چوکیداروں کو دوسرا حکم اس مضمون کا بھیج دیا کہ اس شخص کو سلامتی کے ساتھ جانے دیا جائے۔ عمرؓ صحیح سالم واپس آ گئے اور ان کی سیاست اور چالاکی ارطوبوں کو حکم دینے میں کامیاب ہو گئی۔

★

فتوحات مصر کے دوران میں بہت سے مواقع پر عمرؓ کو اپنی سیاست اتمہ اور ہوشیاری سے کام لینا پڑا۔

★

اسکندریہ کی شرائط صلح طے کرنے کے لئے متوقف بذات خود عمرؓ کے پاس بابلیوں پہنچا تو عمرو نے بلور سیاست اُس کا شایان شان استقبال کیا۔ اور فرمایا:-

”آپ نے بذات خود تشریف لاکر ہمیں بہت ممنون فرمایا ہے“

جس کے جواب میں متوقف کو بھی اپنے موقف سے نیچے گر کر کہنا پڑا کہ:-

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سر زمین عطا فرمادی ہے لہذا اس کے بعد دومیوں کے خلاف کسی جنگ کا ارادہ نہ کرنا۔“

★

سب سے بڑا سیاسی حربہ جو عمرؓ نے مصر میں استعمال کیا وہ بطریق بنیامین کو آزادی عطا کر کے اُسے دوبارہ اس کے دینی منصب پر فائز کرنا تھا۔ جس سے اہل مصر کے قلوب یکبارگی مسخر ہو گئے اور ایک لمحہ کے اندر اُن کا وہ تمام خوف و ہراس جاتا رہا جو سیاسی انقلاب کے بعد کافی عرصہ تک مفتوح اقوام میں بتی رہا تھا۔ عمرؓ نے بنیامین کی ذات سے اور زیادہ فائدہ اُس وقت اٹھایا جب اس کے مشوروں کو ملکی انتظامات میں بھی ذخیل کر لیا اور جو بھی اصلاحات جاری کیں اُس کے مشورے کے بعد جاری کیں۔ جس سے اہل مصر کے دل عمرؓ کی طرف اور بھی زیادہ مائل ہو گئے۔

مصر میں عمرؓ کی دوسری کارگر سیاست یہ رہی کہ انہوں نے اہل مصر کو پوری پوری دینی اور فکری آزادی عطا کی۔ جس کے بعد روم اور مصر کے عقائد مختلف مذاہب کا آزادانہ مطالعہ اور اُن کے درمیان موازنہ کرنے لگے۔ اور اس بحث و تھمبیس کا خوشگوار نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہیں مسیحیت کا دائرہ اندرونی تفریقات سے پُر نظر آیا تو وہ سوچ سمجھ کر پوری قوت ایمانی کے ساتھ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے جس میں کسی قسم کا باہمی فرقہ دارانہ نزاع موجود نہ تھا۔

یہ بھی عمرؓ کی ایک دوسری سیاست ہی تھی کہ انہوں نے فوج کو ملکیت زمین کا حق تو دیا لیکن شرائط ملکیت میں اہل مصر سے زیادہ کوئی امتیاز اور استثناء عطا نہیں کیا۔ اس لیے کہ وہ اپنے سیاسی مشور کی بنا پر اس بات کو خوب جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو ذرا بھی فوقیت دی گئی تو اس سے اہل مصر کے قلوب میں حسد کی آگ مشتعل ہو جائے گی۔



نظام محصولات میں بھی عمرؓ نے بڑی نرمی سے کام لیا اور محصولوں کو جتنا بھی ہلکا کرنا ممکن تھا۔ ہلکا کر دیا۔ محصول کی مقدار مقرر کرنے کے بجائے اُسے پیداوار کی قلت و کثرت کا تابع بنا دیا۔ اور اس کے بعد بھی مزید سہولت یہ دے دی کہ جو علاقے قحطِ سالی وغیرہ آفات کا شکار ہو جائیں انہیں خراج سے کلیتہً مستثنیٰ کر دیا جائے۔



عربی نیل کے بارے میں بھی ایک دفعہ یہ صاف جواب دینے کے بعد کہ:-
اس معاملہ نہ کہ کو اسلام کے دور میں کسی طرح بھی زندہ نہیں رکھا جاسکتا۔...
جب اہل مصر کو برابر مضطرب دکھیا تو خلیفہ عمرؓ سے مشورہ کر کے اُن کی دل جہی کے لئے خلیفہ کا بھیجا ہوا پیغام دریا میں ڈالنا جس کی عبارت یہ تھی کہ:-

اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے مصر کے دریا شے نیل کے نام - اما بعد
لے نیل اگر تو اپنی طرف سے رواں ہوتا ہے تو رواں نہ ہو۔ اور اگر تجھے روانی دینے
والا اللہ واحد و قہار ہے تو ہم اللہ واحد و قہار سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھے
جاری کرے۔"



اہل مصر کے متعلق ہم یہ بات کہنے میں حتیٰ بجانب ہیں کہ رومیوں نے اپنے دور حکومت میں مدیانا
سیاست سے ہرگز کام نہیں لیا جس کی بنا پر وہ ان سے برگشتہ تھے، اور جب ان تک اسلامی حکومت
کے عدل و مساوات کی خبریں پہنچتی تھیں تو ان کا ذہنی اور قلبی میلان اسلام کے نظام جدید کی طرف
ہونے لگتا تھا۔ اسی حال میں حبیب انہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے مصر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے تو
انہوں نے اپنی خواہشوں کی تکمیل اسی میں دیکھی کہ رومیوں کا عذاب ان کے سر سے ڈور ہو۔ اور
اسلام کا اجر رحمت ان پر سایہ فلک ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں کے مقابلہ میں انہوں نے رومیوں کی کوئی
امداد و اعانت نہیں کی۔



حضرت عثمان کے قتل اور حضرت علی کی بیعت پر جو قضیہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اُس کے فرو کرنے میں
بھی عمر و بن العاص کی تدبیر و سیاست نے اہم کردار ادا کیا۔ اس نزاع کے فریق تین تھے۔

۱۔ حضرت علی اور اہل عراق

۲۔ حضرت زبیرؓ، طلحہؓ و سیدہ عائشہ صدیقہؓ

۳۔ حضرت معاویہؓ اور اہل شام

عمر و نے اپنا موقف متعین کرنے کے لیے تینوں پر نظر ڈالی اور اپنی سیاسی بصیرت اور تجربہ کی
بنا پر اندازہ لگا لیا کہ زبیر اور طلحہؓ کا موقف اور اس کی حمایت کرنے والی جماعت دونوں کمزور ہیں۔ جس میں
حضرت علی کے مقابلہ میں ٹھیرنے کی طاقت دکھائی نہیں دیتی۔

اب باقی رہے علیؓ اور معاویہؓ

جہاں تک علیؓ کا تعلق ہے وہ اپنے سوا کسی دوسرے پر نہ اطمینان رکھتے ہیں اور نہ اس کی رائے
تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ رہنے میں یہ قیاحت ہے کہ مجھے ان کا محض ایک تابع مہمل
بن کر رہنا پڑے گا۔

عمر ابھی اسی شعل پہنچ میں تھے کہ حُسنِ اتفاق سے ان کے پاس حضرت معاویہؓ کی طرف سے مشورہ طلبی کا خط آگیا جسے پڑھ کر انہوں نے اپنے بیٹوں کو مشورہ کے لیے بلایا۔

عبداللہؓ نے حضرت علیؓ کے معاملہ حل جانے کا مشورہ دیا جسے عمرؓ نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ علیؓ کے ساتھ رمل جانے کے بعد میری حیثیت ایک معمولی فرد سے آگے نہ بڑھ سکے گی۔ لیکن معاویہ مجھے ہر معاملہ میں اپنا شریک بنالیں گے۔

اس کے برخلاف محمد نے یہ مشورہ دیا کہ: "آپ کو فوراً حضرت معاویہؓ کے پاس پہنچ جانا اور دم بننے کے بجائے سر ہٹنا چاہیئے!"

عمرؓ نے محمدؓ کی بات کو ترجیح دیتے ہوئے حضر کی شرط پر حضرت معاویہؓ کی اطاعت اختیار کر لی اور شہادتِ عثمانؓ کو نبیا و بنا کر حضرت معاویہؓ نے حضرت علیؓ کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے طون عثمانؓ کا مطالبہ پیش کر دیا۔ جیسا کہ عمرؓ نے معاویہؓ کو مشورہ دیا تھا۔

صغین میں جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علیؓ کی کامیابی اور حضرت معاویہؓ کی شکست کے آثار نظر آنے لگے اور قریب تھا کہ حضرت معاویہؓ میدان سے فرار اختیار کر جائیں کہ عمرؓ کی سیاست حرکت میں آگئی اور ان کے حکم سے شامیوں نے قرآنِ کریم کے نسخے نیزول پر سلق کر کے نعرے لگانے شروع کر دیئے کہ:

"یہ اللہ عزوجل کی کتاب حکم ہے ہمارے اور تمہارے درمیان"

جس کا جواب حضرت علیؓ کی فوج نے بھی یہی دیا کہ:

"ہم کتاب اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں"

تفصیلاً خلافت میں سیاستِ عمرؓ کی یہ فصلِ اول تھی جس نے حضرت علیؓ کی خلافت کو

کھل بوتے بوتے روک دیا۔

اس کے بعد سیاستِ عمرؓ کی فصلِ ثانیہ قضیہٴ شامی سے شروع ہو کر حضرت معاویہؓ کی تکمیلِ خلافت پر

اس طرح تمام ہوئی کہ عمرؓ نے ابو موسیٰ اشعری کو سیاسی داؤ بیچ میں لاکر پہلے اس بات پر متفق کیا کہ ہم دونوں معاویہ اور علیؓ کو معزول کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کی زبان سے حضرت علیؓ کی معزولگی کا اعلان کرنا کہ خود معاویہ کی برقراری کا اعلان کر دیا۔

اس کے بعد سیاستِ عمرؓ کی فصلِ ثالث نے اس بات سے تکمیل پائی کہ حضرت علیؓ کی فوج

ان سے جدا ہو کر آپس کے اختلاف کا شکار ہو گئی۔ اور ان ہی کے اندر سے خوارج کا ایک نیا فرقہ ظہور پزیر

ہو گیا جس کے تین افراد علی، معاویہ اور عمرو بن العاص کے قتل کے لیے نکل کھڑے ہوئے جن میں سے قاتل علی کا سیلاب ہو گیا، معاویہ کا قاتل ہمت ہار بیٹھا اور عمرو کے قاتل نے شہد میں دوسرے کو قتل کر دیا۔

حضرت معاویہ نے عمرو کی سیاست سے ناگوار نہ ہوا اور اپنا ہاتھ ادا نہیں اپنا ہاتھ اور رازدار بھی بنا لیا لیکن ان کے دل میں اس بات کا کھٹکا حضور ہا کہ میری سلطنت کا بقا و قیام سراسر عمرو کی کارپروازی کا رہنما ہے۔ اور عمرو کی نیت بدل بھی سکتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ عمرو کے دل میں مصر کے ساتھ شام کا بھی لالچ پیدا ہوا اور دوسری طرف معاویہ نے مصر کو بھی ان کے حق سے زیادہ سمجھا اور طرفین کے درمیان کشیدگی شروع ہو گئی اور عمرو کی وفات تک باقی رہی۔

★

جب زمانہ میں عمرو بن العاص مصر کے حاکم تھے اسی زمانہ میں حضرت معاویہ نے ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو کو کوفہ کا والی بنا دیا تھا۔ مغیرہ نے حضرت معاویہ سے یہ کہہ کر انہیں برطرف کر دیا کہ اب تائب شہر کے دو جہڑوں کے درمیان آگئے ہیں۔ اس پر حضرت معاویہ نے عبداللہ کو معزول کر کے حضرت مغیرہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔

عمرو کو علم ہوا تو وہ بھی انتقام لینے کے لئے حضرت معاویہ کے پاس پہنچ گئے اور سیاست سے کام لیتے ہوئے عرض کیا کہ:-

”آپ نے کوفہ کے خراج پر ایسے شخص کو مقرر کیا ہے جو سب کچھ خود ہی مضم کر جائیگا اور آپ کو کچھ دوسے گا۔“

اور ساتھ ساتھ یہ مشورہ بھی دیا کہ:-

”کسی ایسے شخص کو خراج پر مقرر کیجئے جو آپ کا لحاظ کرنا اور آپ سے ڈرنا ہو۔“
حضرت معاویہ نے عمرو کے مشورے کے مطابق مغیرہ کو محکمہ خراج سے محکمہ نماز کی طرف منتقل کر دیا۔ اس کے بعد عمرو بات جتانے کے لئے مغیرہ سے بھی ملے اور تقریباً ان سے کہا۔
”یہ آپ کی اس حرکت کا جواب تھا“

ختم شد

ماخذ كتاب

بترتيب حروف تهجي

نمبر شمار	نام كتاب	نام مؤلف
١	ابن العاص	عباس محمود العقاد
٢	اشهر مشاهير الاسلام في المغرب والسياسة	سفيق العطر
٣	الاصابه في معرفة الصحابه	ابن حجر العسقلاني
٤	الاعلاق النفسية	احمد بن عمر بن سستاده
٥	البيان المغرب في اخبار المغرب	ابن العذاسري السراكني
٦	الجندى الجيد	ابراهيم قناح واحمد شعتوت
٧	الخطط	المقر نيزي
٨	الرحلة التجانية	ابو محمد عبد الله التجاني
٩	السيرة الحلبية	علي بن ابراهيم المقلبي نور الدين بن بون الدين الحلبى
١٠	الصدائق البربر	دكتور محمد حسين همكل وزير معارف مصر
١١	العبود لليون المبتدأ والخبر	ابن خلدون
١٢	العقربية العسكرية في غزوات الرطل	محمد فرج
١٣	الفاروق عمر	عباس محمود العقاد
١٤	الفتوحات الاسلامية	احمد بن السيد شامي وحلان
١٥	القضاة والولاة	الكندى
١٦	القيادة	عبد التواب هديب والسيد محمود شاكي
١٧	النار يخ الكامل	ابى الحسن علي بن ابى الكرم محمد المعروف به
١٨		ابن الاثير الجسري

تاريخ	نام كتاب	نام مؤلف
١٨	الكامل في اللغة	المبرد
١٩	المسالك والممالك	ابن عبيد الله البكري
٢٠	المحارسة	ابن قتيبة
٢١	النجوم الزاهرة في ملوك مصر القاهرة	ابو المحاسن
٢٢	بلوغ الاسراب في معرفة احوال العرب	محمد وشكري الالوسي
٢٣	تاريخ ابن صالح الاسرمتي	ابوصالح
٢٤	تاريخ الامم والملوك	محمد بن جرير الطبري
٢٥	تاريخ الامة العربية والمخلفاء الراشدين	محمد اسعد هلس
٢٦	تاريخ القفق العربي في ليبيا	الظاهر النواوي الطرابلسي
٢٤	تاريخ يعقوب	احمد بن يعقوب بن جعفر
٢٨	تاريخ دمشق	ابن عساکر
٢٩	تاريخ عمرو بن العاص	دكتور حسن ابراهيم حسن بي. ايج. دى.
٣٠	جبابرة حروب	محمد قراج
٣١	حسن المحاضرة في تاريخ مصر القاهرة	السيوطي
٣٢	ديوان حنا النقيوسي	حنا النقيوس
٣٣	سير البطركه	ساديروس الاشرفيني
٣٣	سيرت الله خالد	محمد قراج
٣٥	عماد بن العاص فاتح مصر	عبد السلام العشري
٣٦	فتوح البلدان	احمد بن يحيى البلاذري
٣٤	فتوح الشام	الواقدي
٣٨	فتوح العرب للمغرب	حسين ريش
٣٩	فتوح مصر	الواقدي
٤٠	فتوح مصر والمغرب والاندلس	عبد الرحمن بن عبد الحكيم

نمبر شمار	نام کتاب	نام مؤلف
٢١	مروج الذهب و معادن الجواهر	ابو الحسن علي بن علي المسعودي
٢٢	مسنك الممالک	ابراهيم بن محمد الاصطخعي
٢٣	معجم البلدان	ياقوت الحموي
٢٤	نهاية الاسباب في فنون الادب	التويري
٢٥	The Arab Conquest of Egypt	Alfred Butler
٢٦	The history of decline and fall of the Roman Empire.	Gibbon
٢٧	A history of the lives Successors of Mohamed	Ruing
٢٨	L. Afrique Byzantine	Diehl
٢٩	Les. Berberes	Fourmel
٥٠	L. Afrique du Nord	Capitel

مولانا عبدالباری ندوی

سابق پروفیسر فلسفہ و دینیات، عثمانیہ یونیورسٹی کی

چار معرکتہ الآ تصنیفات

تجدید دین کا عمل جس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی دینی و دنیوی سرطرح کی فلاح و صلاح کا دار پورا پورا مسلمان ہوتے پر ہے جس کے لئے ہماری دینی کوتاہیوں اور بیماریوں کی ایسی آسان اور کارگر تدبیریں بتلا دی گئی ہیں کہ پورا پورا مسلمان بن جانا ہر شخص کے لئے بالکل اپنے اختیار میں ہے اور محرومی کا بجز محرومی کے کوئی بندر نہیں رہ جاتا۔ اس قدم اٹھا کر چل پڑنا ہے۔ بڑی سائز ۷۰۰ صفحات، قیمت ۱۰ روپے پچھتر پیسے۔

تجدید تصوف و سلوک جس میں تصوف کے متعلق ہر قسم کی علمی و عملی غلطیاں اور غلط فہمیاں سمجھائی گئی ہیں اور اس کے بتلا گیا ہے کہ حقیقی تصوف دراصل کمال

اسلام اور کمال ایمان کے سوا کچھ نہیں اور بے صوفی بنے اسلام کی دنیوی و اخروی انفرادی اور اجتماعی برکات و ثمرات کا حاصل ہونا عملاً ناممکن ہے۔ بڑی سائز ۶۰۰ صفحات، جلد قیمت ۱۰ روپے پچھتر پیسے۔

تجدید معاشیات جس میں معاشیات کے زہیدانہ نظریوں اور مفرومات سے مرعوب ہونے بغیر خالص اسلامی و ایمانی تعلیمات کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے کہ رزق و معاش کا مسئلہ دراصل کوئی مسئلہ نہیں۔ جو فرد یا سماج و مسلمان ہی نہیں غیر مسلمان بھی ان تعلیمات پر کم زیادہ جتنا بھی عمل کرے جائے گا اتنا ہی انشاء اللہ دن رات کے معاشی و غصہ کی جہنم سے دنیا ہی میں اپنے کو ضرور بچالے گا۔ قیمت ۱۰ روپے پچھتر پیسے۔

تجدید تعلیم و تبلیغ خاص اسلامی بنیادوں پر بہترین قوم (خیر امت) بنانے کی تعلیمی و تبلیغی تجدید اور تہذیبی و ہر فرد انسان کو ظاہری و باطنی طور پر بہترین مسلمان اور کامل انسان بنانے کا یہ تعلیمی و تبلیغی نظام نسلی و ملی و قومی قومیتوں اور سیاسی و معاشی مسائل پر استیوار و آئینہ بالوجہ کی جہنم سے دنیا کو نجات دلا سکتا ہے۔ بڑی سائز ۶۰۰ صفحات، جلد قیمت ۱۰ روپے پچھتر پیسے۔

وہ کتابیں جنکے بغیر کوئی لائبریری مکمل نہیں کہلا سکتی

- | | | | | |
|------|----|---|----|--|
| ۱۲۱- | ۱۵ | حضرت عمر ابن العاص محد صاحب پانی پتی | ۱ | لاہور نیشنل بین مہندہ کیمیل بانک ترمیم پروگرام |
| ۱۲۱- | ۱۶ | آئینہ حقیقت نما | ۲ | سماج فیروز شاہی شمس مراد حنیف ۸/۲۵ |
| | | مصنف مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی | ۳ | ماثر عالمگیری محمد ساقی مستعد خان ۹/۷۵ |
| ۲۱- | ۱۷ | حضرت امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی | ۴ | شاہجہاں کے ایام امیری ڈاکٹر برنیہ کاسفر نامہ |
| | | مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم | ۵ | اور عہد اور نگریب مترجمہ خلیفہ محمد حسین |
| ۶- | ۱۸ | الادب المفرد کتاب زندگی حضرت امام بخاری | ۶ | حضرت عثمان و حضرت علی و اکرمہ حسین |
| | | اردو ترجمہ مولانا عبدالقدوس ہاشمی | ۷ | اردو ترجمہ علامہ عبدالحمید نعمانی |
| ۶/۷۵ | ۱۹ | سفینۃ الاولیاء شہزادہ دارا شکوہ | ۸ | حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم |
| ۶۱- | ۲۰ | صحابیات علامہ نیاز فتحپوری | ۹ | ڈاکٹر طاہر حسین امجد ترجمہ شاہ حسن عطاء ایم اے علی گ |
| ۹/۷۵ | ۲۱ | تجدید دین کامل مولانا عبدالباری ندوی | ۱۰ | سفر نامہ ابن بطوطہ دو حصے مکمل |
| ۸/۷۵ | ۲۲ | تجدید تصوف سلوک مولانا عبدالباری ندوی | ۱۱ | مترجمہ ذر تین احمد بیگم |
| ۹/۷۵ | ۲۳ | تجدید معاشیات مولانا عبدالباری ندوی | ۱۲ | زاد المعاد دو حصے حضرت حافظ ابن قیم |
| ۶۱- | ۲۴ | تجدید تعلیم و تبلیغ مولانا عبدالباری ندوی | ۱۳ | مترجمہ آرزو حسین احمد جعفری |
| ۴۱- | ۲۵ | فلسفہ عجم علامہ اقبال | ۱۴ | فقہ الاسلام مصنف حسین احمد الخلیف |
| ۱۲۱- | ۲۶ | اسلامی معاشیات مولانا مناظر احسن گیلانی | ۱۵ | مترجمہ پروفیسر رشید احمد ارشد |
| ۳/۲۵ | ۲۷ | الدین الیقیم مولانا مناظر احسن گیلانی | ۱۶ | سیاست نظام الملک طوسی مع متن |
| | ۲۸ | حضرت ابو ذر غفاری مولانا مناظر احسن گیلانی | ۱۷ | مترجمہ شاہ حسن عطاء ایم اے |
| ۶/۲۵ | | | ۱۸ | البراکہ مولانا عبدالرزاق کاپوری |
| ۶۱- | ۲۹ | تذکرہ شاہ ولی اللہ مولانا مناظر احسن گیلانی | ۱۹ | نظام الملک طوسی مولانا عبدالرزاق کاپوری |
| ۲/۷۵ | ۳۰ | مکاتیب امام غزالی احمد غزالی | ۲۰ | تاجدار دو عالم عبدالرحمن عزام بے |
| ۳/۷۵ | ۳۱ | داستان کربلا عبدالرحمن صدیقی | ۲۱ | تاریخ اسلام تین جلدوں میں مکمل |
| ۳/۲۵ | ۳۲ | مقالات جمال الدین افغانی | ۲۲ | مصنف مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی |

ڈیفنس اکیڈمی پبلیشنگ سٹوڈیو کراچی